

امام مہدی  
کے  
دوست و دشمن



مؤلف: مولانا عامر عمر

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
عَلَيْهِ سَلَامٌ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
عَلَيْهِ سَلَامٌ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ

---

# اعلان

”تیسری جنگ“ کے نام سے شائع ہونے والی اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن سلیکیشن کے نام سے  
 مولانا عاصم عمر نے لکھی ہے۔

”تیسری جنگ“ کے نام سے شائع ہونے والی اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن سلیکیشن کے نام سے  
 آپ کے ہاتھوں میں یہ تیسری کتاب ہے۔

## امام مہدی کے دوست و دشمن

جلسہ ساز بھائیوں سے درخواست ہے کہ خدا کا خوف کریں اور اس قدر  
 اخلاقی بددیانتی کا ارتکاب نہ کریں۔

اسی طرح بعض لوگ ہماری کتابوں کو بغیر اجازت کے چھاپ رہے ہیں۔ اسی پر اس نہیں بلکہ یہ  
 حضرات مولانا عاصم عمر کو قتل کرانے اور گرفتار کرانے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، انکو بھی تنبیہ کی جاتی  
 ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔

مذکورہ دونوں طرح کے حضرات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اگرچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ  
 بہت خفیہ رہ کر کام کر رہے ہیں۔

کتب فروش حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ایسے خائن لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کریں۔  
 اور ہماری کتب کے حوالے سے انکے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں۔

## نوٹ

ادارے نے قارئین کے پرزور اسرار پر اس دفعہ اس کتاب کے دو ایڈیشن شائع کیے ہیں  
 ایک اعلیٰ پیمپر پر جس کی رعایتی قیمت 125/- روپے اور دوسرا لوکل پیمپر پر جس کی رعایتی قیمت 100/- روپے ہے

## منجانب ادارہ الحجہ پبلیکیشن

# امام مہدی کے دوست و دشمن



تالیف

مولانا عاصم عمر



ناشر

الہجرہ پبلیکیشن کراچی

alhijrahpublication@yahoo.com

موبائل: 0312-2117879

محمد ظفر الرحمن  
اسلام آباد  
0300-5086124

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اس کتاب کے تحت "الہجرت پبلیکیشن" کی تحریری اجازت سے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے تحت کسی اور شخص کی رائے ایک نئے تحت تحت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

کتاب کا نام: اسلام آباد کی دوست و دشمن  
 رچنا: مولانا محمد  
 ناشر: الہجرت پبلیکیشن  
 طبع اول: مئی 2010ء

## ملنے کے پتے

اسلامی کتب خانہ نوز و جامعہ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، کراچی۔ فون: 021-34927159

مکتبہ فاروقیہ نوز و جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی، کراچی۔ فون: 021-34594114

ادارۃ الانور، دوکان نمبر 2، بنوری ٹاؤن، کراچی۔ فون: 021-34914596۔ موبائل: 0332-2204487

مکتبہ انعمیہ، دوکان نمبر 24، قاسم سینٹر، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32216814۔ موبائل: 0345-2151205

ادارہ تحقیقات، یوسف مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 0333-4380927

قرآن نحل، اقبال مارکیٹ، کینی چوک، راولپنڈی۔ موبائل: 0321-5123698

اسلامی کتب گھر خیابان سرسید راولپنڈی۔ فون: 051-4847585۔ موبائل: 0300-5065172

قاری طلحہ محمود ہمدانی ملت ٹاؤن فیصل آباد۔ موبائل: 0321-6633744

لائف سٹیٹرز کالج روڈ کیمہاں ایبٹ آباد۔ موبائل: 0334-5571296

الامتاز کتب خانہ، قصبہ خواتی، ایشاور۔ موبائل: 0300-5945640



- 11 ..... انتساب ○  
 12 ..... پیش لفظ ○  
 15 ..... حال سے مستقبل تک (از: مفتی ابوبابہ شاہ مسعود مدظلہ العالی)

### پہلا باب

- 18 ..... فتنوں کا بیان، فتنوں سے غفلت... آخر کیوں؟ ○  
 21 ..... دنیا کا فتنہ ○  
 22 ..... جادوگرئی سے ڈرو ○  
 23 ..... صحابہ رضی اللہ عنہم کا دنیا کے فتنے سے ڈرنا ○  
 26 ..... دین سے دنیا کمانا ○  
 26 ..... مال حلال کے کم ہو جانے کی پیشن گوئی ○  
 26 ..... گانے بجانے کا فتنہ ○  
 27 ..... فتنہ نساء ○  
 29 ..... عورتوں کے سرکش ہو جانے اور جوانوں کے فاسق ہو جانے کا بیان ○  
 31 ..... عورتوں کے بڑے آپریشن کی پیشن گوئی ○  
 32 ..... قلم کا عام ہو جانا ○  
 32 ..... آثارِ قدیمہ دیکھنے کی ممانعت ○  
 34 ..... کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہنے کی ممانعت ○  
 35 ..... ”لیس منا“ کا معنی ○  
 36 ..... قتل کا حکم دینے والے کے بارے میں ○  
 37 ..... مسلمان کے قتل پر مدد کرنے والا ○  
 ..... گرم پتھروں کی طرح فتنے ○

- 41 ————— تو میت اور وطنیت کا فتنہ، قومیت اور اسلام ○
- 42 ————— وطنیت بمقابلہ اسلام ○
- 44 ————— سیدنا نوح علیہ السلام کو وطن چھوڑ کر کشتی میں بیٹھنے کا حکم ہوا اور یہ دعا سکھلائی ○
- 46 ————— کیا وطن نسبت ایمان ہے؟ ○
- 46 ————— جہاد کیا ہے؟ ○
- 48 ————— ایمان اور نفاق ○
- 48 ————— نفاق کی نشانیاں ○
- 49 ————— نفاق کی ایک علامت..... نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی تیاری ○
- 50 ————— کسی مسلمان کو کافر یا منافق کہنا ○
- 52 ————— عالم اسلام کے ناسور..... منافقین ○
- 53 ————— اپنے بارے میں نفاق سے ڈریئے ○
- 56 ————— مؤمن و منافق کا گناہ ○
- 58 ————— منافقین قرآن کی نظر میں ○
- 59 ————— کافر حکمرانوں سے ملاقاتیں ○
- 59 ————— جہاد کے خلاف بولنے میں احتیاط کیجئے ○
- 60 ————— کافروں کو دوست بنانے والوں کے لئے دردناک عذاب ○
- 60 ————— منافقین کافروں کو دوست کیوں بناتے ہیں ○
- 61 ————— کافروں کو دوست بنانے والے انہی جیسے ہیں ○
- 63 ————— مسلمانوں کے قاتل، بتوں کے پجاریوں کو دوست بنانے والے ○
- 63 ————— منافق سب کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں ○
- 65 ————— اللہ پر توکل اور منافقین ○
- 65 ————— منافقین مسلمانوں سے الگ ہیں ○
- 65 ————— جہاد کا مذاق اڑانے والے منافق ہیں ○
- 66 ————— جہاد کے ذکر پر منافقین کا رد عمل ○
- 66 ————— اتحادی کافروں سے منافقین کی قسمیں وعدے ○
- 67 ————— خوش نما باتوں سے دھوکہ نہ کھائیئے ○

- 68 ○ جادو کا فتنہ
- 70 ○ علماء حق پر جادو کرنا
- 70 ○ دلوں میں پھوٹ ڈالنا
- 70 ○ ذہنوں کو قابو میں کرنا
- 71 ○ میاں بیوی میں تفریق
- 72 ○ جادو کی اقسام
- 72 ○ بڑے یہودی جادوگر
- 76 ○ راک فیلرز..... بے تاج بادشاہ
- 82 ○ نیلسن راک فیلر..... اقوام متحدہ کا بانی
- 82 ○ لارنس راک فیلر
- 83 ○ ڈیوڈ راک فیلر..... بڑا تاجر بڑا جادوگر
- 86 ○ جے راک فیلر..... عراق و افغانستان میں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل
- 86 ○ گوانتانامو بے، بگرام اور ابو غریب جیل میں وحشیانہ تشدد
- 86 ○ ”مہذب لوگ“ کا لے کر قوت
- 88 ○ خاندانی منصوبہ بندی یا غیر یہود اقوام کی نسل کشی
- 89 ○ ایک سوال
- 90 ○ روتھ شیلڈ (Rothschild) خاندان
- 92 ○ یہودی شخصیات سے متعلق ایک وضاحت
- 93 ○ اسماعیلی فرقہ اور آغا خان فیملی
- 93 ○ اسماعیلیوں کے عقائد
- 94 ○ آغا خان کا نیا قرآن
- 94 ○ اسماعیلیوں میں تقسیم..... بوہری اور نزاری
- 94 ○ ٹارگٹ کلنگ کا ماہر..... حسن بن صباح
- 96 ○ اسماعیلیوں کی ہندوستان آمد
- 96 ○ دوسرا دور
- 97 ○ اسماعیلیوں کے خدا..... آغا خان



- 98 \_\_\_\_\_ آغا علی شاہ آغا خان دوم (1885-1831) ○
- 98 \_\_\_\_\_ سر سلطان محمد شاہ آغا خام سوم ○
- 99 \_\_\_\_\_ کریم الحسنی آغا خان چہارم ○
- 100 \_\_\_\_\_ حسن بن صباح اور آغا خان ○
- 102 \_\_\_\_\_ جادوگر سائنسدان ○
- 105 \_\_\_\_\_ رحمانی نظام بمقابلہ شیطانی نظام ○
- 106 \_\_\_\_\_ شیطان اولاد میں شریک ہو جاتا ہے ○
- 107 \_\_\_\_\_ مسلمان کے دفاع کا رحمانی نظام اور اسکو نقصان پہنچانے کی کوششیں ○
- 107 \_\_\_\_\_ احادیث میں مرغ کی اہمیت ○
- 110 \_\_\_\_\_ مساجد کے ساتھ لیٹرین ○
- 112 \_\_\_\_\_ جنات اچک لینگے..... رحمانی حصار میں آجائیے! ○
- 114 \_\_\_\_\_ کیا موجودہ فتنوں میں خاموش رہنا چاہئے؟ ○
- 118 \_\_\_\_\_ تلوار توڑ دینے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ○
- 121 \_\_\_\_\_ کیا یہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائی ہے؟ ○
- 123 \_\_\_\_\_ کیا حق و باطل واضح نہیں؟ ○
- 123 \_\_\_\_\_ تمام فتنوں کا بہترین حل ○
- 124 \_\_\_\_\_ حکم جہاد ○
- 124 \_\_\_\_\_ جہاد چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہونا ○

### دوسرا باب

- 128 \_\_\_\_\_ تاریخ اسلام اور راہ و وفا کے مسافر ○
- 130 \_\_\_\_\_ غالب رہنے کا مطلب ○
- 131 \_\_\_\_\_ اسلاف کی یادیں ○
- 135 \_\_\_\_\_ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ..... حق گوئی و بے باکی ○
- 137 \_\_\_\_\_ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (۸۰ھ - ۱۵۰ھ بمطابق ۶۹۹ء - ۷۶۷ء) ○
- 138 \_\_\_\_\_ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی ○
- 139 \_\_\_\_\_ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ..... جیل میں تشدد ○

- 140 — امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جمیل سے نکلا
- 142 — امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
- 142 — امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور فتنہ خلق قرآن
- 145 — امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اکھاڑ دو
- 147 — ماضی ہمارا آئینہ ہے
- 149 — شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
- 149 — شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حق گوئی
- 152 — صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۳۸ء - ۱۱۹۳ء)
- 155 — جنگِ حطین..... فیصلہ کن جنگ
- 155 — مکہ و مدینہ پر بری نظر رکھنے والے کا انجام
- 156 — فتح بیت المقدس
- 157 — اتحادی افواج اور شیرِ اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ

### تیسرا باب

- 160 — امام مہدی
- 162 — امام مہدی کے خروج کی چند نشانیاں
- 163 — امام مہدی کا خروج کہاں سے ہوگا
- 164 — امام مہدی کی مدت
- 165 — حضرت مہدی کے دوست
- 165 — امام مہدی سے متعلق چند سوالات
- 170 — امام مہدی کی حمایت میں مشرق سے آنے والے کالے جھنڈے
- 170 — ان کالے جھنڈوں کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
- 170 — مشرق سے اٹھنے والے کالے جھنڈوں کے بارے میں مستند روایات
- 173 — افغانستان کی موجودہ صورت حال
- 174 — اہلِ عدن (یمن)..... اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے
- 176 — عراق جنگ
- 176 — امریکی طریقہ کار اور چند عبرتیں

- 177 \_\_\_\_\_ مجلس اعلیٰ برائے اسلامی انقلاب فی عراق المعروف تنظیم بدر
- 177 \_\_\_\_\_ عراق سے سنیوں کا خاتمہ
- 178 \_\_\_\_\_ کیا یہ فرقہ وارانہ فسادات تھے
- 179 \_\_\_\_\_ بلیک وائر ان ایکشن
- 180 \_\_\_\_\_ بلیک وائر کا طریقہ کار
- 181 \_\_\_\_\_ پاکستان میں بلیک وائر کے اہداف
- 182 \_\_\_\_\_ حفاظتی تدابیر
- 183 \_\_\_\_\_ کیا واقعی ایسا وقت آنے والا ہے
- 183 \_\_\_\_\_ غافلوں کا انجام
- 185 \_\_\_\_\_ بغداد کی تباہی اور وزیر ابن علقمی کا گھناؤنا کردار
- 185 \_\_\_\_\_ خلیفہ وقت گھوڑوں کے سموں تلے
- 186 \_\_\_\_\_ آج کے ابن علقمی
- 187 \_\_\_\_\_ دوست و دشمن کو پہچانیئے
- 190 \_\_\_\_\_ پاکستانی کون ہیں؟
- 190 \_\_\_\_\_ ہندوستانی مسلمان کس کے ساتھ جہاد کریں گے؟
- 192 \_\_\_\_\_ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ
- 193 \_\_\_\_\_ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
- 195 \_\_\_\_\_ پاکستان اور علماء حق
- 200 \_\_\_\_\_ جہاد کا وقت کب آئے گا؟ امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے؟
- 202 \_\_\_\_\_ ناگزیر جنگ کی تیاری کیجئے
- 205 \_\_\_\_\_ دوست کون دشمن کون؟
- 207 \_\_\_\_\_ حوالہ جات ماخذ و مصادر
- 218 \_\_\_\_\_ حضرت مہدی پر لکھی گئی کتابیں



## انتساب

امام وقت

غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ

اور

ان غیرت مند طالبات کے نام،

جنہوں نے مردوں کی

جانب سے قربانی دے کر

دینی غیرت کے معنی کی لاج رکھی اور اہل حق کی

تاریخ کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔



## پیش لفظ

الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . والصلوة  
والسلام على محمد نبينا وحبينا صلى الله عليه وسلم  
ایک ہندوستانی مسلمان سے طویل گفتگو کے بعد اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ بنا۔ گفتگو کی  
بنیاد راقم کی کتاب ”برمودا تکون اور دجال“ میں لکھی گئی ہندوستان کے حوالے سے چند باتیں  
تھیں۔ راقم نے اس کتاب میں لکھا تھا کہ جو پاکستانی بھارت کے دورے پر جاتے ہیں واپس آ کر  
بھارت کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ چند دن کے دورے میں وہ ہندو ذہنیت کو  
سمجھ نہیں سکتے۔

اس کتاب میں غزوہ ہند اور فتح ہند سے متعلق لکھی گئی باتیں بھی انکو پسند نہیں آئیں۔ انکی  
ناراضگی میں بنیادی عنصر وطنیت کی محبت تھا۔

چنانچہ بندے نے انکو وطنیت اور اسلام کے موضوع پر اسلامی نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش  
کی۔ لیکن اس بارے میں انکو بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں تھا لہذا وہ اس بات کو نہیں سمجھ  
سکے۔ چنانچہ ابتدائی طور پر انکو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام میں محبت و نفرت اور دوستی و دشمنی کا  
کیا معیار ہے؟ اسلام میں اسکی کتنی اہمیت ہے؟ اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان کیا حیثیت  
رکھتا ہے؟ اور اگر دو معیار ایک دوسرے کے مقابل آجائیں یعنی ایک طرف اسلام اور دوسری  
جانب کوئی بھی محبت (والدین، اولاد، قبیلے، قوم اور وطن) ہو تو اسلام کے مقابلے ان میں سے کسی  
چیز کو اختیار کرنا ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔

اسلام کے اس بنیادی تصور (الحب لله والبغض لله محبت بھی اللہ کے لئے اور نفرت  
بھی اللہ کے لئے) سے عام طور پر ہر جگہ غفلت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ بہت سے دیندار لوگ بھی  
اسلام کے مقابلے میں خاندان، قبیلے اور وطن کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اسکو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔  
حالانکہ یہ مسئلہ اہلسنت والجماعت کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جسکو ائمہ حضرات نے عقیدے کی  
کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور سلف صالحین نے اس عقیدے کی خاطر، کوڑے کھائے، جیلیں

کاٹیں اور جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت ہوگی، اور اللہ کے دشمنوں کی نفرت ہوگی۔ جس طرح ایمان اور کفر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتیں۔ یہی معاملہ اللہ کے دوستوں سے محبت کا ہے۔

وطن پر اگر اسلام کو ترجیح نہیں دینگے تو امام مہدی کے ساتھ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔ مسلم ممالک کی حکومتیں یا بھارت اگر امام مہدی کے مخالف عالمی اتحاد میں ہوئے تو ایسی صورت میں مسلمان کیا کریں گے؟ وطنیت کے بت کو توڑ دینگے یا اسلام کو چھوڑ دینگے؟ ان میں سے صرف ایک ہی کو اختیار کیا جاسکے گا۔

ان حالات کے پیش نظر، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ فتن اور امام مہدی سے متعلق مواد پہلے سے جمع تھا، لہذا اس موضوع کی مناسبت سے اس کو بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔

”امام مہدی کے دوست و دشمن“ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

کتاب کے حوالے سے بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکو ضخامت سے پچایا جائے، لہذا فتن کی ان احادیث کو نقل کیا جاتا ہے جنکا مسلم معاشرے کو سامنا ہوتا ہے۔ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے۔

**1** فتنوں کا بیان..... اس میں مختلف یہودی جادوئی شخصیات کے بارے میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جو بات سمجھنا مقصد ہے اسکے لئے انشاء اللہ یہ کافی ہے۔ اس باب میں فتنوں سے متعلق ایک بحث ہے اگر سرسری طور پر ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تو تضاد نظر آئے گا۔ لہذا مختلف احادیث کو سامنے رکھئے گا تا کہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔

**2** راہ حق کے مسافر..... یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ تاریخ اسلام ان اللہ والوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، جنکے تذکرے اہل ایمان کے لئے اطمینان قلب اور ثابت قدمی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

اس باب میں اسلاف کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض جگہ قلم، اپنوں سے اپنائیت کے ناطے شکوہ کننا ہوا ہے، اگر الفاظ کے انتخاب میں غلطی ہوئی ہو تو طالب علم سمجھ کر درگزر فرمائیے گا، لیکن یہ اپنوں کی محبت ہی ہے جسکی وجہ سے قلم جذبات کی رو میں بہ گیا ہے۔ انکو ٹارگیٹ کنگ میں اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے جیسے شکاری اپنے شکار کو چن چن کر نشانہ بناتے ہیں۔

3 تیسرا باب..... امام مہدی سے متعلق ہے، اس میں مختصر چند بحثیں ہیں۔

کتاب میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں انکی تحقیق بھی لکھی گئی ہے۔ اور جو علماء کی رائے ہے اسکو رائے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قارئین صرف انہی احادیث کو قابلِ حجت مانیں جو صحت کے اعتبار سے حجت بن سکتی ہیں۔ اور جو رائے ہے اسکو رائے کے طور پر ہی بیان کریں۔ بندے کو اپنی کم علمی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ لہذا کتاب میں جو بھی غلطی ہو وہ اسی کے ذمہ ڈالی جائے اور اگر مطلع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینگے۔

یہ کتاب سو فیصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں آپ کے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔ ورنہ اپنا حال یہ ہے کہ انکی مدد کے بغیر ایک لفظ بھی لکھنا ممکن نہیں جو دوست احباب اس سلسلے میں تعاون کرتے رہے اللہ تعالیٰ انکو تمام فتنوں سے محفوظ فرما کر اپنے مقربین میں شامل فرمائیں، اور ایمانی پیاس کے اس دور میں شہادت کے جام سے سیراب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو اہل ایمان کے لئے نفع کا ذریعہ بنا دیں، اور حق کے لئے دلوں کو کھول دیں۔ آمین

آخر میں میں محترم مفتی ابولبابہ شاہ منصور صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ حضرت نے اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ جو بندے کے بہت کام آئیں، بندے کی یہی کوشش ہے کہ قلم اسلاف کی راہ اعتدال سے نہ ہٹے۔ لہذا اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ راقم کو طالب علم سمجھتے ہوئے غلطیوں کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔

اس گنہگار کو آپکی دعاؤں کی ضرورت جتنی اس وقت ہے شاید کبھی نہ تھی، سو اللہ کی رضا کے لئے اپنی دعاؤں میں شامل رکھے، خصوصاً وہ اللہ والے جو محاذ پر ہوں، اور تہجد میں اٹھنے والے، کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ شامل فرمادیں، انہی کے ساتھ شہادت دیں اور انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائیں۔ آمین

آپ کی دعاؤں کا محتاج

عاصم عمر



## حال سے مستقبل تک

از: مفتی ابولبابہ شاہ منصور مدظلہ العالی

”مہدویات“ بڑا نازک موضوع ہے، اس پر کام کرنے والے حضرات اکابر کے طریق اعتدال اور تقلید مسلک جمہور اہل سنت والجماعت سے انحراف کریں تو خطرناک غلطیوں اور مغالطوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں ذیل میں ایسی چند غلطیوں کا تذکرہ کرنے کی جسارت کروں گا۔ پھر زیر نظر کتاب کی طرف واپس آ کر کچھ عرض کروں گا۔

اکثر حضرات تو اس موضوع سے لاتعلق ہیں وہ اس کی نزاکت اور پل صراط جیسی دودھاری آزمائش کے پیش نظر اس کو موضوع سخن ہی نہیں بناتے۔ نہ اس پر کبھی بولتے ہیں نہ کچھ لکھتے ہیں۔ وہ عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ ”در دریا منافع بے شمار است..... گر سلامت خواہی برکنار است“ ظاہر ہے کہ اس سے حق اس غبار تلے چھپ جاتا ہے جو جہل کے علمبرداروں کی اڑائی گئی گرد سے وجود پاتا ہے اور اس کا نقصان اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اچانک کسی جھوٹے مدعی کے دعویٰ اور دعوت کی کامیابی کی خبر آتی ہے۔ لوگ موضوع کی حقانیت سے ناواقف ہونے کے سبب کذابوں کے ورغلانے میں فوراً آجاتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر تارتار نہیں ایک اور سانحے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔

کچھ حضرات اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور گفتگو بھی دور پار رہتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن اس موضوع کو خالص نظریاتی طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی اسے آسمان اور زمین کے مابین معلق کر کے محض تصوراتی طور پر بیان کرتے ہیں، زمینی حقائق یا عصری تطبیقات سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ قاری یا سامع اسے صدیوں دور کا ایک تصوراتی واقعہ سمجھ کر یوں نظر انداز کر دیتا ہے، جیسے اس کو یا اس کی اگلی نسلوں کو اس سے واسطہ ہی نہیں، نہ اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے نہ اپنے متعلقین کو زمانے کے ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ایمان کو گھن لگانے والے اور عمل کو برباد کر کے چاٹ جانے والے ہیں۔

بعض ماہر القادری قسم کے اسکالر اس موضوع پر تحقیق کا اعلان کر دیتے ہیں اور جب دنیا ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ



کا دور کم از کم چھ سو سال دور ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدت کی تعیین جب حدیث شریف میں نہیں کی گئی تو کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر زوال کا جو جاں نگیں دور آیا ہوا ہے اور کفر کو جو ہمہ گیر عروج نصیب ہوا ہے، اس کا خاتمہ لگتا نہیں کہ کسی عظیم اور عالمی سطح کے قائد کے بغیر ہو سکے۔ بظاہر وہ حضرت مہدی ہی ہوں گے۔ ان سے پہلے کسی اور کے ہاتھوں اتنا بڑا کارنامہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اب مسلمان سقوط خلافت ۱۹۲۴ء سے ایک سو سال پہلے سے مصائب اور مظالم کا شکار ہیں۔ سقوط خلافت کے سو سال گزرنے پر تو ان کی پسپائی اور پستی کی حد ہی نہیں رہی۔ یہ دو سو سال ہو گئے۔ خلافت کے اضمحلال سے سقوط تک اور سقوط سے آج تک۔ اس کے بعد کیا ہم یہ مان لیں کہ مزید چھ سو سال تک ہم اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود اتنی مشقت اور ذلت کا شکار رہیں گے اور کفر کی باری (انگ) آٹھ سو سال تک جاری رہے گی۔ مسلمان یونہی دنیا بھر میں، ہر سطح پر، ہر میدان میں، سب کچھ ہونے کے باوجود، کچھ بھی نہیں ہونگے۔ نہیں! بخدا نہیں! تاریخ اسلام اور احادیث ائمتین پر نظر رکھنے والا شخص جو انقلاب احوال کی الہی سنت پر نظر رکھتا ہو، یعنی ایام اللہ اور آلاء اللہ کا مطالعہ کرتا ہو، انباء الرسل سے اسے ادنیٰ مناسبت ہو، وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ تو دشمن کی زبان ہے اور اسی کے کارندوں کو زیب دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس موضوع کو چھیڑ لیتے ہیں تو اس کے ہر پہلو کی تاویل، تشریح، توضیح اور تفسیر کو اپنے ذمہ لازم سمجھ لیتے ہیں، اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ”ابھمو ما ابھمہ اللہ“ کے قانون کے تحت اس کی جتنی بھی وضاحت کی جائے، اس میں کسی درجہ میں بھی ابہام ضرور رہے گا، حتیٰ کہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق تو خود حضرت مہدی کو بھی ایک عرصہ تک پتا نہ ہوگا کہ وہی مہدی آخر الزماں ہیں، اور جب کسی نہ کسی درجے میں ابہام رہے گا تو ہر چیز کی لازمی وضاحت کس طرح ضرور ہو سکتی ہے، بلکہ درست ہی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے حضرات کی بے احتیاطیوں اور جلد بازیوں نے جہاں ایک طرف محتاط طبع اہل علم کو اس موضوع سے فاصلہ رکھنے اور زبان و قلم پر لانے سے احتیاط برتنے پر مجبور کیا، وہیں اس کا یہ بھی اثر ہوا کہ عوام میں مایوسی، بددلی اور بے اعتمادی پیدا ہوئی۔ اب وہ حق کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

مولانا عاصم عمر صاحب حفظہ اللہ وبارک فی علمہ و عمرہ ان علماء میں ہیں جنہوں نے کانٹوں سے دامن بچا کر اس خارزار پر چلنے کی کوشش کی۔ اس عاجز کی ناقص معلومات کی حد تک ”احادیث ائمتین“ پر عرب و عجم کے جن حضرات نے کام کیا ہے، مولانا کا کام ان میں سے اس حوالے سے ممتاز اور لائق تحسین ہے کہ انہوں نے شروع احادیث سے پھوٹنے والی روشنی سے

حال اور مستقبل کی طرف جانے والے راستے کو محتاط نظر سے دور تک دیکھنے، جانچنے، پرکھنے اور قارئین کو آگاہ رکھنے اور آگاہی دیتے رہنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں کھل کر اور کہیں دبے لفظوں میں زمانہ حاضر کے فتنوں اور ان فتنوں کے فہم کے حوالے سے پیدا ہونے والے فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ معاصر مصنفین میں فتنہ دجال کو یہود سے اور امریکا اور یورپ سے جہاں یہود کا ظاہری تسلط ہے، جوڑ کر بیان کرنے والے تو کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن بات جب افغانستان، پاکستان یا ہندوستان کی آتی ہے تو قلت علم، قلت فراست یا قلت جرأت کے سبب زبانی گنگ ہو جاتی ہیں۔ مولانا صاحب کی پہلی کتاب ”تیسری جنگ عظیم اور دجال“ نے اس سکوت کا پردہ چاک کیا اور اس کے بعد سے وہ مسلسل اس موضوع پر قابل قدر کام کر رہے ہیں۔ ان کے کام میں قدیم مآخذ سے استنباط و استدلال بھی ہے اور جدید ترین مخفی معلومات کا انکشاف اور ان سے بھرپور استفادہ بھی ہے۔ یہ امتزاج، جامعیت اور سلیقے کی دلیل ہے۔ یہ عاجز دل سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت، مزاج و مذاق اور زبان و قلم پر سلامتی کا عنصر غالب رکھے۔ انہیں طبع سلیم، قلب سلیم اور لسان صادق عطا فرمائے۔ ان کی عرق ریز کاوشوں اور دل آویز تحریرات سے امت مسلمہ کو نفع پہنچائے۔ فتنوں کے اس دور میں انہوں نے جس کانٹوں بھری وادی سے گزر کر مسلم امت کو فتنہ زمانہ سے آگاہ رکھنے کا جو بیڑہ اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیاب کرے۔

آخر میں ایک گزارش مصنف سے ہے اور ایک قارئین سے۔ مصنف سے گزارش یہ ہے کہ اعتماد و احتیاط و تعلق مع الابرار اور تقلید سلف کا دامن نہ چھوڑیں۔ اسی میں سلامتی، کام کی مقبولیت اور برکت و نافعیت ہے۔

اہل علم اور قارئین سے گزارش ہے کہ انسان جب کسی اچھوتے موضوع پر کام کرتا ہے جو بذات خود نازک بھی ہو تو اس سے غلطیوں کا احتمال دو چند ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی کا نظریہ درست ہو، وہ توجہ دلانے سے اصلاح کا وعدہ کرتا ہو تو تمام اہل علم کو چاہیے کہ اس کی حسنت قبول کریں، حوصلہ افزائی فرمائیں، اس کی لغزشوں پر اسے توجہ دلائیں اور جب تک کسی کے کام پر خیر غالب ہو اس کی تردید، تنقیص یا مجمع عام میں تنقید سے گریز کریں۔ بلکہ اس کے کام کی اصلاح کر کے اسے اجتماعیت اور قبولیت عامہ کی شکل دینے کی کوشش کریں۔ فتنوں کے اس دور میں یہ امت کی بہترین خدمت ہوگی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) ہدایت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور ہم سب اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ عیوب سے پاک ذات صرف اسی کی ہے اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

## فتنوں کا بیان

فتنوں سے غفلت... آخر کیوں؟

مدتِ دراز سے عالمِ اسلام طرح طرح کے فتنوں کا شکار چلا آ رہا ہے۔ یہ فتنے بیرونی بھی ہیں اور اندرونی بھی۔ ان فتنوں میں ایسے فتنے بھی رہے جنکا اثر مسلمانوں کے عقائد پر ہوا، اور کچھ فتنے ایسے بھی تھے جنکا اثر اعمال پر ہوا۔ کچھ فتنوں نے ظاہری جسموں کو متاثر کیا تو کچھ مسلمانوں کے دلوں پر حملہ آور ہوئے اور دل میں بزدلی، بخل اور بغض و حسد بھر کے رکھ دیا۔

بعض فتنے ایسے تھے جنھوں نے ہمارے معاشرتی نظام کو تہہ و بالا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ فتنے گھروں سے خیر و برکت لوٹ کر لے گئے تو کچھ نے اہل خانہ کے دلوں میں تفریق پیدا کی۔ باپ و بیٹا ایک دوسرے کے لئے انجمنی بن گئے.... ماں بیٹی کے درمیان وہ الفت و محبت باقی نہ رہی۔ کچھ فتنے علماء پر برسے تو کچھ کا ہدف مسلمان تاجر بنے۔ یہ فتنے ابلیس اور اسکے شیاطین (خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے) نے انتھک محنت کر کے مسلمانوں میں پھیلائے۔ جسکے اثرات مسلمانوں کی اپنی قوتِ مدافعت (Resistance) کے اعتبار سے ہوئے۔

ہم ان فتنوں کو سازشوں کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف فتنوں کے نام سے بیان فرمایا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کو جو نقصانات اٹھانے پڑے اس کی ضربوں سے ابھی تک امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، ان فتنوں یا سازشوں نے امت کے انگ انگ اور جوڑ جوڑ پر ایسی چوٹیں ماری ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو پھوڑے کی طرح نہ دکھ رہا ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کو بیان کیا اور کھول کھول کر بیان کیا۔ فتنے کا نام بتایا۔ فتنے پھیلانے والے کا نام اور اسکے باپ کے نام تک سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ کس فتنے میں کیا لائحہ اختیار کیا جانا چاہئے اسکو بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلف صالحین نے ان فتنوں کے بارے میں مستقل تصنیفات کیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ

نے صحیح مسلم میں اور دیگر تمام محدثین نے، کتاب الفتن کو مستقلاً بیان کیا ہے۔ علماء امت ہر دور میں مسلمانوں کو خطرات و تحدیات (Threats) سے، احادیث کی روشنی میں آگاہ کرتے رہے تاکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل مرتب کریں۔

مشہور محدث علامہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويعلم به قبل وقوعه وذلك من دلالات النبوة صلى الله عليه وسلم وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم امته على المبادرة بالاعمال الصالحة قبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة والمتركمة المتكاثرة، فقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتننا الحديث.....“

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے ہوشیار کرتے تھے، اور انکے رونما ہونے سے پہلے انکا علم رکھتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غافل کر دینے والے، پے در پے آنے والے اور ایک سے بڑھ کر ایک فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، اپنی امت کو نیک اعمال کرنے میں سبقت کرنے پر ابھارا ہے۔

موجودہ دور میں فتنے ایسے برس رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ تاریک فتنے..... گھٹا ٹوپ اندھیری رات کے مانند کہ ہاتھ بھی نہ بھٹائی دے..... فتنے ہی فتنے ہیں..... فتنہ مال کو لے لیجئے..... اس فتنے نے لوگوں کو اپنی پلیٹ میں ایسا لیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مال ہی کو معبود بنا لیا گیا ہے..... عوام تو عوام، بہت سے دین داروں کا بھی یہی خیال ہے کہ کثرت مال زندگی کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لئے سانسیں..... جھوٹ کا فتنہ ہے کہ اللہ کی پناہ..... لوگ اس جھوٹ کی پلیٹ میں ایسے آئے کہ باطل کو حق مان بیٹھے اور حق کو باطل..... فتنہ نساء ہے، جسکے پیٹھروں نے بند کواڑوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے..... دھیرے دھیرے دلوں سے فحاشی کی نفرت نکلتی جا رہی ہے..... مسلمان اپنی آنکھوں سے فحاشی ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن انکا ایمان جوش نہیں مارتا کہ بے حیائی و فحاشی پھیلانے والوں کو بہالے جائے۔

ان سب فتنوں سے بڑھ کر فتنہ دجال ہے۔ سلف صالحین کے مقابلے ہم لوگ تاریخ انسانیت کے اس بھیانک ترین فتنے سے قریب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اب بھی اگر ان فتنوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو لوگوں تک پہنچانے کا اگر یہ وقت نہیں تو پھر کونسا وقت ہوگا؟ اب جبکہ امت گردن تک فتنوں میں ڈوب چکی ہے اگر اب بھی انکو نور نبوت کی کشتی میں نہ بٹھایا گیا تو قیامت کے دن کس سے سوال کیا جائیگا؟ تاریک

راتوں میں بھکتی..... ٹامک ٹوئیاں مارتی..... حیران و سرگرداں اس امت کو، اگر اب بھی علماء حق نے انگلی نہ پکڑائی تو پھر کون انکو راہ دکھائے گا؟ کیا وہ مستشرقین جو علماء کا روپ دھار کر گھات لگائے بیٹھے ہیں؟ یا وہ جنگلی مجلسوں میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں؟ یا وہ جنگلی زبانوں میں جادو ہے؟ حالانکہ ان سب کا مقصد اس امت کو راہ حق سے انخوا کر لینا ہے۔

امت کو صحیح راہ دکھانا، قافلہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہزنوں سے بچانا علماء حق پر فرض ہے۔ وہی اس لائق ہیں کہ اس موضوع پر قلم اٹھائیں اور صحراء کا سکوت توڑیں۔ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ، ڈر ڈر کر..... چھپ چھپ کر..... سسک سسک کر چھپنے سے..... زندگی کی سانسیں دراز نہیں ہو جاتیں اور حق کو بیان کرنے یا دجال کو دجال کہنے سے، لکھی ہوئی سانسوں کو دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی..... جو راحت و پریشانی مقرر میں لکھی جا چکی سو لکھی جا چکی، اسکو ساری اتحادی افواج مل کر بھی نہیں بدل سکتیں..... کامیابی اسی میں ہے کہ بندے کا سب کچھ اپنے آقا کے لئے ہو جائے۔ محبت ہو یا نفرت..... آسائش ہو یا آزمائش، سب اللہ کی خاطر ہو۔

یاد رکھنا چاہئے کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی سارے اختیارات صرف اور صرف اسی رب کے پاس ہیں، جسکی بادشاہت میں نہ امریکہ شریک ہو سکا اور نہ کانا دجال شریک ہو سکے گا۔ موت و حیات کا اختیار نہ سی آئی اے (C.I.A) کو دیا گیا ہے اور نہ بلیک وائر کائنات کے رب سے یہ اختیار چھین سکتی ہے..... دنیا کی آزمائشیں اور امتحانات، یہ سب وقتی ہیں... اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی قربانیوں سے غافل نہیں ہیں... ظالموں کی رسی لمبی ہوتی دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ عرش و کرسی کے بادشاہ کو عاجز کر سکتے ہیں... اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ دنیا دار الامتحان ہے... دارالفتن ہے... یہاں وہی بچ سکتا ہے جو فتنوں سے بچ کر چلتا ہو جیسے وہ شخص جو کسی پر خار پگڈنڈی پر چلا جاتا ہو، جسکے دونوں جانب کانٹوں بھری جھاڑیاں ہیں..... جن میں فتنے گھات لگائے بیٹھے ہیں... خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان جھاڑیوں سے بچتے بچاتے... منزل کی جانب رواں دواں ہیں... سفر بھی جاری رکھنا ہے اور دامن کو بھی بچانا ہے مبادا کانٹوں میں الجھ ہی نہ جائے... اس خوف سے بیٹھا بھی نہیں جاسکتا کہ کانٹے دامن پکڑ لیں گے... منزل پہ پہنچنا بھی ضروری ہے... سو چلتے رہئے... لیکن گھات لگائے فتنوں کے بارے میں جان کر۔

یہاں ان فتنوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جنکا سامنا آج عالم اسلام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ہم سب کو ڈھانپ لیں اور ہر قسم کے فتنوں اور انکے اسباب سے ہماری حفاظت فرما کر، ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل پر پہنچادیں۔ آمین

## دنیا کا فتنہ

فتنہ دنیا ہے کہ لوگوں کی رگ رگ میں اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ قبرستان جا کر بھی آخرت کا خیال نہیں آتا..... جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دھوکہ کہا اسکو اب اٹل حقیقت سمجھا جا رہا ہے، دنیا حاصل ہو جانے کی امید میں سالہا سال محنت و مشقت، لیکن پلک جھپکتے ہی شروع ہونے والی اخروی زندگی کے لئے کوئی تیاری نہیں۔ دنیا کی محبت کا اندازہ کیجئے، اگر کسی کو کہا جائے کہ ہم تمہیں ایک ایسا عمل بتائیں جسکو کر کے پلک جھپکتے ہی آپ جنت کی وسعتوں میں پہنچ جائیں گے، اور اپنے محبوب حقیقی کے دیدار سے سرفراز ہو جائیں گے، کتنے مسلمان ہونگے جو محبوب حقیقی سے ملاقات کرنا چاہیں گے؟ ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہئے، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو ٹٹولنے کے جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ اس سے ملاقات میں کیا چیز مانع ہے؟ دل میں انکی ملاقات کا کتنا شوق ہے؟ کتنی نمازوں میں ان سے ملاقات کی دعا کرتے ہیں؟ جبکہ اگر کوئی دنیا کی ترقی، دنیا کی دولت حاصل کرنے کا راستہ، بتائے تو پھر بے قراری دیکھنے اسکے لئے ہم کیا جتن نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کی محبت اور اس پر ایمان نہیں تو اور کیا ہے؟

عن ابی موسیٰ الاشعری أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب دنیاہ اضر باخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثر و ما یبقی علی ما یفنی (رواہ الحاکم وقال صحیح . ووافقه الذہبی فی التلخیص)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا، لہذا تم فناء ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ (اسکو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور اسکو صحیح کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یحیی احدکم مریضہ الماء (رواہ الحاکم وصححہ علی شرط الشیخین ووافقه الذہبی

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسکو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ (حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو روایت کیا ہے اور شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے)

قال عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ: ما ابعث ہدیکم من ہدی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان ازہد الناس فی الدنیا وانتم ازغب الناس فیہا (اخرجه الامام احمد بسند صحیح)

ترجمہ: حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارا طرز زندگی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی سے کس قدر جدا ہے، بیشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں دنیا سے سب سے زیادہ بچنے والے تھے اور تم اس دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپی لینے والے ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ نماز، روزہ اور جہاد کرنے والے ہو، حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا: وہ تمہارے مقابلے دنیا سے زیادہ بچنے والے اور آخرت میں زیادہ رغبت رکھنے والے تھے۔ (جامع العلوم والحکم ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ)

جادوگرنی سے ڈرو

قال مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اتقوا السحارة فانہا تسحر قلوب

العلماء یعنی الدنیا (ذم الدنیا لابن ابی الدنیا)

ترجمہ: حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تم جادوگرنی سے ڈرو کیونکہ یہ علماء کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے۔ اس جادوگرنی سے انکی مراد دنیا ہے۔

مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھ سے عبداللہ رازی نے فرمایا: اگر آپ کو اس بات میں خوشی محسوس ہو کہ آپ عبادت کی حلاوت پالیں اور اس حلاوت کی انتہا تک پہنچ جائیں، تو اپنے اور اپنی خواہشات کے درمیان ایک لوہے کی دیوار بنا لیجئے۔ (ذم الدنیا لابن ابی الدنیا)

قال سفیان، قال عیسیٰ بن مریم: کما لا یستقیم النار و الماء فی اناء

کذلک لا یستقیم حب الآخرة و الدنیا فی قلب المؤمن (ایضاً)

ترجمہ: سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح

آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح آخرت کی محبت اور دنیا مومن کے دل میں نہیں بٹھہر سکتیں۔

عن سهل أبى الاسد قال كان يقال مثل الذى يريد ان يجمع له الآخرة  
والدنيا مثل عبد له ربان لا يدري ايهما رضى (ايضاً)

ترجمہ: حضرت سہل ابو اسد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ مشہور ہے کہ اس شخص کی مثال جو آخرت اور دنیا جمع کرنا چاہتا ہے اس غلام جیسی ہے جسکے دو آقا ہوں، اسکو پتہ نہیں کہ دونوں میں سے کون راضی ہوا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دنیا سے محبت کی اور اس دنیا کے ملنے سے اسکو خوشی ہوئی تو اسکے دل سے آخرت کا خوف نکل جائے گا، اور جو شخص علم میں ترقی کرے اور دنیا کی حرص میں بھی اضافہ ہو تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک زیادہ نفرت والا اور اللہ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ (ایضاً)

وقال وهب رحمة اللہ عليه انما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان ان  
ارضى احدهما اسخط الاخرى (جامع العلوم والحکم ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ)  
حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، اگر ایک کو راضی کرے تو دوسری ناراض ہو جائے۔ (مع العلوم والحکم ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ)

ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں سے کسی نے دنیا اور دنیا داروں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے: وما هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن  
اجتذابها فان تجتنبها كنت سلما وان تجتذبها نازعتك كلابها (جامع العلوم  
والحکم ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ)

ترجمہ: یہ دنیا کیا ہے؟ ایک پرانی بدبو چھوڑتی مردار لاش، جس پر کتے جھپٹ رہے ہیں، اگر آپ اس سے دور رہتے ہیں تو محفوظ اور اگر آپ بھی اس چھینا جھپٹی میں شریک ہوتے ہیں تو اس پر جھپٹنے والے کتے آپ سے لڑ پڑیں گے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا دنیا کے فتنے سے ڈرنا  
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس



تھے، انھوں نے پانی پینے کے لئے مانگا، کسی نے انکو پانی اور شہد لاکر دیدیا، جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسکو منھ کے قریب کیا تو اتاروئے کہ اپنے اصحاب کو بھی رلا دیا۔ پھر صحابہ تو چپ ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں چپے۔ پھر دوبارہ پانی منھ کے قریب کیا اور پھر رونے لگے۔ اتاروئے کہ صحابہ سمجھ کہ انکو ہم نہیں سنبھال سکتے۔ پھر انھوں نے اپنی آنکھوں کو پونچھا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ! آپ کو کس بات نے رلایا؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور فرما رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے کسی کو آپ کے قریب نہیں دیکھا۔ سو میں نے پوچھ لیا، اے رسول اللہ! آپ خود سے کس چیز کو دور فرما رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دنیا تھی جو میرے سامنے آگئی تھی۔ میں نے اس سے کہا جا مجھ سے دور ہو جا۔ وہ پھر لوٹ آئی اور کہا کہ بیشک آپ مجھ سے بچ گئے لیکن آپ کے بعد والا ہرگز مجھ سے نہیں بچ پائے گا۔ (ذم الدین لابن الدینا)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ افطاری کے لئے دسترخوان پر تشریف فرما تھے، دسترخوان پر قسم قسم کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئیں تھیں۔ بیٹھے بیٹھے رونے لگے، اور دسترخوان سے اٹھ کر چلے گئے۔

دنیا سے بے رغبتی اور اسکی مذمت میں احادیث و آثار میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد سلف صالحین کے ہاں زہد کی کتنی اہمیت رہی ہے اسکا اندازہ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں سے کیا جاسکتا ہے۔ الزہد پر مشہور کتابیں یہ ہیں:

- 1 الزہد ابن ابی الدینار رحمۃ اللہ علیہ
- 2 الزہد الکبیر للعلی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ
- 3 الزہد ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ
- 4 الزہد ابن سری رحمۃ اللہ علیہ
- 5 الزہد ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
- 6 الزہد ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ
- 7 الزہد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
- 8 الزہد ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ
- 9 الزہد اسد ابن موسیٰ
- 10 الزہد لہناد رحمۃ اللہ علیہ
- 11 الزہد لویجیر رحمۃ اللہ علیہ
- 12 الزہد ورقا ق خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
- 13 الزہد والرعی والعبادۃ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
- 14 الزہد وصف الزہدین ابن اعرابی رحمۃ اللہ علیہ
- 15 الفوائد والزہد والرعا ق والمرانی جعفر الخلدی رحمۃ اللہ علیہ
- 16 ذم الدینا ابن ابی الدینار رحمۃ اللہ علیہ

یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں اس دنیا سے بچنے کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ درحقیقت آج دنیا کی محبت ہی ہمارے دلوں میں گھر کئے بیٹھی ہے جس کی وجہ سے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کی بے رغبتی اپنے اندر پیدا کریں۔ اسکی لذتوں میں ڈوبنے کے بجائے لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ختم ہو جانے والی، کسی بھی لمحے ساتھ چھوڑ دینے والی، بے وفادار دنیا میں دل لگانے کے بجائے، ابدی، نہ ختم ہونے والی اور وفاء کرنے والی آخرت کے غم سے دل کو آباد کر لیں۔

اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزقِ حلال وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے تب بھی ان صحابہ کو دیکھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا لیکن اس دنیا کے بارے میں انکی عملی زندگی کیسی تھی۔ آج کل لوگ ان صحابہ کی مثال دیدیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس بھی تو بہت پیسہ تھا۔ لیکن یہ حضرات صحابہ کی عمومی زندگی بھول جاتے ہیں۔ ہمارے مالداروں اور صحابہ میں یہ فرق تھا جیسے وہ دو شخص، جنکے پاس پیسہ ہو، دونوں کے گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہوں، عمدہ سے عمدہ لباس انکو میسر ہو، لیکن ایک کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہو، یا کوئی غم ہو جو اسکے دل کو اندر ہی اندر پگھلا رہا ہو۔

جبکہ دوسرے کے گھر میں کوئی غم نہ ہو، آپ بتائیے پہلا والا گھر میں غم کے ہوتے ہوئے دنیاوی آسائشوں سے کس طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے، بیشک آپ اسکے لئے دنیا بھر کے کھانے اکٹھے کر دیں لیکن اس غم کے ہوتے ہوئے ایک نوالہ بھی اسکے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ صحابہ کے پاس بے شک سب کچھ تھا، لیکن انکے دلوں میں آخرت کا غم اتنا شدید تھا کہ ناسور بن گیا تھا۔ جبکہ ہماری مثال دوسرے شخص کی سی ہے، دنیا بھی موجود لیکن دل آخرت کے غم سے خالی۔

لہذا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے، مالدار صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال دینا بالکل زیادتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جیسے مالدار صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھئے، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کس غم میں زندگی گزارا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی ہزار درہم ایک دن میں صدقہ کر دیتی ہیں اور شام کو افطار کے لئے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹے کی دعوت اس لئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ دسترخوان پر دو قسم کے کھانے جمع تھے۔

دین سے دنیا کمانا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 ینخرج فی آخر الزمان رجال ینخلون الدنیا بالذین یلبسون للناس جلود الضان  
 من اللین السنتم احلة من السكر وقلوبہم قلوب الذناب یقول اللہ ابی  
 تغتروں؟ ام علی تجتروں؟ فی حلفت لابعث علی او لیک منهم فتنة تدع  
 الحلیم منهم حیرانا (ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔ یہ لوگوں  
 کو دکھانے کے لئے زاہدوں کا لبادہ اوڑھے ہونگے۔ انکی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی اور دل  
 بھیڑپوں کے دل ہونگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا مجھے ہی دھوکہ دیتے ہو؟ یا میرے اوپر ہی  
 جرأت کرتے ہو؟ میرے جلال کی قسم ان لوگوں پر انہی میں سے ایسا فتنہ مسلط کرونگا کہ انکے اہل  
 عقل و خرد بھی حیران رہ جائیں گے۔

فائدہ..... علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کو دنیا بنانے، دولت  
 کمانے اور عزت و جاہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیں انکے لئے یہ وعید ہے۔ اسکے علاوہ بھی کئی  
 احادیث ہیں جس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ خصوصاً علم دین حاصل کرنے والوں  
 کے بارے میں وعید آئی ہے جو اسکو دنیا کمانے کے لئے حاصل کریں۔

مالِ حلال کے کم ہو جانے کی پیشن گوئی

حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں تین چیزوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ  
 ہوگی: حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا درہم، یا ایسا بھائی جس سے انسیت رکھے یا کوئی سنت جس پر وہ  
 عمل کرے۔ (طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاوسط“ میں اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”الحلیہ“ میں روایت کیا ہے)

گانے بجانے کا فتنہ

گانے بجانے والے... سو اور بندر بن جائیں گے:

لیشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها یعزف علی رؤوسہم بالمعازف  
 والمغنیات، ینخسف اللہ بہم الارض، ویجعل منهم القردة والخنازیر (رواہ الامام

احمد، وابن ابی شیبہ، ابن حبان فی صحیحہ، والطبرانی والبیہقی۔ ورواہ البخاری فی "التاریخ الکبیر"۔  
ترجمہ: میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پیئیں گے، وہ اس (شراب) کو شراب کے  
علاوہ کوئی اور نام دینگے، انکے سروں پر آلات موسیقی اور گانے والیاں گائیں گی، بجائیں گی۔ اللہ  
تعالیٰ انکو زمین میں دھنسا دینگے، اور انکو بندر اور خنزیر بنا دینگے۔ (مسند احمد، ابن ابی شیبہ، صحیح ابن  
حبان، تاریخ کبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ)

عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
قال: تبیت طائفۃ من امتی علی اکل و شرب، ولہو و لعب، ثم یصبحون قرودۃ  
و خنازیر، و لیصیبنہم خسف و قذف، و یبعث علی احياء من احيائہم ریح  
فینسفہم کما نسفت من کان قبلہم باستحلالہم الخمر و ضربہم  
بالدفوف، و اتخاذہم القینات (رواہ الامام احمد و سعید بن منصور)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے  
ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات  
بسر کریں گے۔ پھر صبح کے وقت بندر اور خنزیر ہو جائیں گے۔ اور وہ دھنسیں گے اور پھینکے جائیں  
گے، پھر انکے زندوں پر ہوا بھیجی جائے گی جو انکو اس طرح اکھاڑ پھینکے گی جیسے ان سے پہلے والوں  
کو اکھاڑ پھینکا تھا، (یہ عذاب) انکے شراب کو حلال کر لینے اور ڈھول طبلے اور گانے بجانے کے  
آلات بنانے کی وجہ سے۔

### فتنہ نساء

عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال "ما  
ترکت بعدی فتنۃ أضر علی الرجال من النساء" (صحیح البخاری المکنز ۵۰۹۶)  
ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی  
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں پر  
عورتوں (کے فتنے) سے زیادہ نقصان دہ ہو۔"

فائدہ..... ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں "بیشک عورتوں کا  
فتنہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا ہے۔"..... اس حدیث کی صحت پر قرآن کریم کی آیت بھی شاہد  
ہے۔ "زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین" الایۃ شہوتوں کی محبت لوگوں کے

لئے سجادہ گئی ہے۔ یعنی عورتیں اور بیٹے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورت کو تمام شہوتوں پر مقدم رکھا ہے۔..... سو مسلمانوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اور عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہیں۔ (شرح ابن بطل)

عن سعید بن المسیب رحمة الله عليه يقول ما أيسر الشيطان من شئى الا اتاه من قبل النساء. (شعب الایمان للبيهقي)

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان جب بھی (گمراہ کرنے سے) کسی سے مایوس ہوا تو اسکے پاس عورت کی جانب سے آیا۔ اسکے بعد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”میری ایک آنکھ (ضعیف العمری کی وجہ سے) کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور دوسری بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن مجھے اپنے بارے میں عورت سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اس وقت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چوراسی (84) سال تھی۔

موجودہ دور میں شیطانی قوتوں نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ مردوزن کے اختلاط کو عام کیا جائے۔ مسلمان عورتوں کو یہود و نصاریٰ کی عورتوں کے نقش قدم پر چلانے کے لئے ابلیس نے ان گنت جال بچھائے ہیں۔ ان جالوں کو خوبصورت نعروں، اشتہاروں اور دجل و فریب سے ایسا مزین کر کے دکھایا ہے کہ ماؤں بہنوں کو اس جال کی طرف جانے سے روکنے والے اپنے دشمن، سماج کے دشمن، ترقی و استحکام کے دشمن، آزادی و مساوات کے دشمن حتیٰ کہ اسلام اور دین کے بھی دشمن نظر آتے ہیں۔ جو بھیڑیے انکی تاک میں گھات لگائے بیٹھے ہیں وہ انکے نزدیک امن کے پیامبر، حقوق کے علمبردار، مسیحا، نسواں ٹھہرے۔ شرم و حیا، عفت و پاکدامنی گزرے وقتوں کی بات ہوئی.... اب تو جو اس متعفن دنیا سے جتنا نوچ لے وہی معزز، وہی دانشور، وہی لیڈر بنا۔ لہذا قوم کی بیٹیاں بھی اسی مردہ لاش کے پیچھے بھاگ رہی ہیں... اس بھگدڑ میں باپ کا اڑھایا حیا کا دوپٹہ، کہاں گرا اور کتنے مردوں کے پیروں تلے کچلا گیا..... کچھ خبر نہیں... بس ایک دوڑ ہے..... مردوں سے آگے نکل جانے کی دوڑ..... حالانکہ یہ نادان نہیں جانتیں کہ یہ صرف نعرہ ہے۔ جو مردوں نے عورت ذات کا استحصال (Exploitation) کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ حقیقت سے اسکا کوئی تعلق نہیں۔ انھوں نے عورت ذات کو عزت کی زندگی سے نکال کر سڑکوں، فٹ پاتھوں اور دفنوں میں مزدور بنا کر ذلیل کیا ہے۔ یہ جاہلی تہذیب کے بھیڑیے ہیں جو اپنے شکار کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔

امریکہ و یورپ کو لے لیجئے۔ پالیسی ساز کون ہیں؟ فیصلے کن کے ہاتھ میں ہیں؟ مردوں

کے یا عورتوں کے؟ عورتوں سے دفتروں اور سرکوں پر مزدوری کرا کے دنیا کی کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ یہودیوں کی چاکری کر کے کوئی قوم کامیاب نہیں ہوئی۔ مزدور بھرتی ہوئے اور مزدور ہی فارغ کر دئے گئے۔ یورپ کے صنعتی انقلاب سے اب تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔

مسلمان بہنوں کو سوچنا چاہئے کہ کامیابی وہ نہیں جو ابلیس اور اسکے لوگ دکھا رہے ہیں۔ کامیابی وہ ہے جسکو اللہ اور اسکے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ انکے لئے یہود و نصاریٰ کی فاحشہ عورتیں رول ماڈل نہیں ہونی چاہئیں بلکہ امہات المؤمنین ہی اس لائق ہیں کہ عورت ذات انکو رول ماڈل بنائے۔ اسی میں عزت ہے اسی میں کامیابی۔ اسی میں مرد کی برابری ہے اور اسی میں معاشرے کی تعمیر و ترقی پنہاں ہے۔

عورتوں کے سرکش ہو جانے اور جوانوں کے فاسق ہو جانے کا بیان

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :  
کیف بکم ایہا الناس اذا طغی نساؤکم وفسق فتیانکم؟ قالوا یا رسول اللہ ان  
هذا لکائن؟ قال نعم و اشد منه. (مسند ابو یعلیٰ. طبرانی فی الاوسط)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق۔ لوگوں نے پوچھا۔ اے اللہ کے رسول یہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

عن رجل من الصحابة قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
يقول: لیت شعری کیف امتی بعدی حین تتبخر رجالہم وتمرح  
نساؤہم؟ ولیت شعری حین یصیرون صنفین: صنفا ناصبی نحوہم فی سبیل  
اللہ و صنفا عمالا لغير اللہ (رواہ ابن عساکر فی "تاریخہ")

ترجمہ: ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: کاش! مجھے اپنے بعد اپنی امت کی حالت کا علم ہوتا کہ جب انکے مرد متکبرانہ چال چلیں گے اور انکی عورتیں ناز و انداز سے چلیں گی؟ اور کاش مجھے انکا حال معلوم ہوتا کہ جب وہ دو قسم کے ہو جائیں گے: ایک قسم ان لوگوں کی جو اپنی گردنیں جہاد میں بچھائے ہونگے (شہادت کے لئے: رافم) اور دوسرے وہ لوگ جو غیر اللہ کے لئے عمل کرتے ہونگے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
صنfan من أهل النار لم ارهما: قوم معهم سیاط كأذنان البقر یضربون بها  
الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت  
المائلة لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها فان ریحها لیوجد من مسیرة کذا  
و کذا (صحیح مسلم، مسند احمد)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
جنہیموں کی دو قسموں کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جنکے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح  
کوڑے تھے ان سے لوگوں کو مارتے ہونگے، اور وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہونگی (لیکن اسکے  
باوجود) برہنہ ہونگی، (مردوں کو اپنی طرف) مائل کرتی ہونگی اور خود مائل ہوتی ہونگی۔ انکے سر جھکی  
ہوئی اونٹنی کے کوبانوں کی طرح ہونگے۔ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو  
سوگھ سکیں گی۔ بیشک جنت کی خوشبو اتنی دور کی مسافت سے سوگھئی جاسکتی ہے۔

یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے جس میں آپ نے بعد میں  
آنے والے حالات کی خبر دی ہے۔ اس حدیث میں عورتوں کے فیشن کی خبر دی گئی ہے۔ عورتیں  
ایسے کپڑے پہنیں گی جس سے ستر پوشی نہیں ہوگی۔ انکا بناؤ سنگھار، زیبائش و آرائش صرف اسلئے  
ہوگی کہ غیر مردانکی جانب مائل ہوں۔ عورتیں سر کے بالوں کو اوپر کی جانب اکٹھا کر کے جوڑا  
باندھیں گی جو اونٹنی کے کوبان کی طرح اٹھے ہونگے۔ سنا ہے آج کل نئی دلہنوں کو بیوٹی پارلر والے  
اسی طرح تیار کرتے ہیں کہ انکے سراونٹنی کے کوبان کے مانند لگتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

رخ زیبا پلستر در پلستر      عجب کوبان سا باندھا ہے سر سے  
ٹھک کر رہ گئی ہے والدہ بھی      دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سے

چونکہ ہمارا ”پڑھا لکھا معاشرہ“ اپنی عقلیں ہالی وڈ اور ہالی وڈ والوں کے پاس گروی رکھ چکا  
ہے، سو جیسا بھارتی فلموں میں دیکھا اسی کی نقالی شروع کر دی اور اس پرفیشن کا ٹھپہ لگا کر جائز  
کر لیا۔ حالانکہ کتنے پڑھے لکھے ہیں جنکو یہ علم ہے کہ ہالی وڈ یا ممبئی اور دہلی والوں کے فیشن کون  
ڈیزائن کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کٹرنڈ ہی یہودی ہیں۔ جو اس امت سے ہر وہ کام کرانا چاہتے  
ہیں جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہذا یہ ایسے ہی فیشن نکالتے ہیں  
جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرب ناراض ہو اور انکار ب (ابلیس) خوش ہو۔ بنیادی طور پر اس  
جاہلی تہذیب کے فیشن کے خالق یہودی ہی ہیں جو آکسفورڈ، کیمبرج اور ہارورڈ جیسے تعلیمی اداروں

سے فارغ ہیں۔

عورتوں کے بڑے آپریشن کی پیشن گوئی

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انا قال لتوخذن المرأۃ فلیبقرن بطنھا ثم

لیوخذن ما فی الرحم فلینبذن مخافة الولد (رواہ ابن ابی شیبہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا: ضرور عورت کو پکڑا جائے گا، پھر اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا، اسکے بعد جو کچھ رحم میں ہوگا اسکو لے لیا جائے گا، لڑکا ہونے کے خوف سے اسکو نکال پھینکا جائے گا۔

فائدہ..... بچے کی پیدائش کے وقت خواتین کا بڑا آپریشن کرنا عالمی ادارہ صحت کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہے۔ ملک بھر میں پھیلی این جی اوز کی جانب سے چلائے جانے والے اسپتالوں محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منادیا جائے۔ این جی اوز کی جانب سے چلائے جانے والے اسپتالوں کے قصے عجیب و غریب ہیں۔ باطل قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں مسلمانوں کے بچے کم سے کم پیدا ہوں۔ ان کم کے بارے میں بھی انکی کوشش یہ ہے کہ لڑکے پیدا نہ ہوں۔ اسکے لئے غذاؤں اور مشروبات کے اندر انھوں نے مختلف کیمیکل ملائے ہیں۔ جیسا کہ منرل واٹر کے بارے میں، محترم مفتی ابولبابہ شاہ صاحب (اللہ انکی حفاظت فرمائے۔ آمین) نے، اپنی کتاب ”دجال، کون، کب کہاں“ میں لکھا ہے کہ منرل واٹر میں ایسے کیمیائی اجزا ملائے جاتے ہیں جنکے سبب لڑکیوں کی پیدائش کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی منرل واٹر کی فیکٹری لگائے، اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ قطرے ضرور پانی میں ملائے گا۔ اسکے بغیر اسکو فیکٹری کی اجازت نہیں ملے گی۔

یورپ و امریکہ میں کامیابی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد، یہودیوں کا زور عالم اسلام کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی جانب ہے۔ اسکے لئے بے شمار طریقے استعمال کئے جا رہے ہیں۔ ابتدائی کوششوں میں یہ ہے کہ عوام کو میڈیا کے ذریعے ڈبہ بند غذاؤں اور مشروبات کی طرف لایا جائے۔ ان میں پیپسی، کوکا کولا اور منرل واٹر سرفہرست ہے۔

غذائیت سے بھرپور اشیاء سے لوگوں کو ہٹا کر، برگر، پیزا (Pizza) اور دیگر فاسٹ فوڈ کا عادی بنایا جائے۔ ان چیزوں کے استعمال سے پیٹ تو ضرور بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن انسان کی قوت تولید کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اسکا اندازہ آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک فاسٹ فوڈ کھانے والے کو دیکھئے، دوسری جانب قدرتی غذاؤں کے استعمال کرنے والے کو دیکھئے۔ دیکھنے



میں فاسٹ نوڈ کھانے والا پھولا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن دونوں کی اندرونی طاقت میں کوئی موازنہ نہیں ہوگا۔ اس ابتدائی کام کے بعد ان عالمی شیطانی اداروں نے میڈیا ہی کے ذریعے، اس بات کی محنت کی ہے کہ لڑکیوں کے دلوں میں شادی کی نفرت پیدا کی جائے۔ دیر سے شادی کرنا، شادی کے ”جھنجھٹ“ میں جلدی نہ پھیننا، آزاد زندگی جینا، ان سب باتوں کا مقصد اسکے علاوہ کچھ نہیں کہ مسلمانوں کو فطرت سے ہٹا کر غیر فطری راستوں پر ڈال دیا جائے۔ ایک بار جب پڑی تبدیل ہوگئی تو پھر سارا نظام ہی الٹ جاتا ہے۔ دیر سے شادی کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں جنکو آپ معاشرے کی خراب صورت حال میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

نسلوں کی تباہی کا اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شادی ہو جائے تو پہلے سے ہی شیطانی میڈیا نے لوگوں کی ذہن سازی کر دی ہے کہ زیادہ بچے ہونگے تو رزق کم ہو جائے گا۔ لہذا بچے دو ہی اچھے کے نعرے کو ایسا ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اب اسکو قبول کر چکا ہے، اگر کوئی نہ مانے تو اسکے لئے راک فیلز نے عالمی ادارہ صحت کے ذریعے متعدد انتظامات کئے ہیں۔ مختلف این جی اوز نے ڈاکٹرز کو ہدایات کر رکھی ہیں کہ بچے کی پیدائش بڑے آپریشن (Cesarean Birth) سے کی جائے، چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس بے دردی سے بڑے آپریشن کئے جا رہے ہیں۔ ان سب کوششوں میں سب سے خطرناک کوشش، پولیو کے قطرے پلانے کے ذریعے ہے۔ جس نسل کو یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ (پولیو کے بارے میں تفصیل راقم نے ”برمودا تکون اور دجال“ میں لکھی ہے۔)

قلم کا عام ہو جانا

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت سے پہلے جان پہچان والے لوگوں کو سلام کرنا، تجارت کا عام ہو جانا، یہاں تک کہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد کرے گی، رشتہ داریوں کا ٹوٹ جانا، اور قلم کا عام ہو جانا، جھوٹی گواہی کا عام ہونا، اور حق کی گواہی کو چھپانا ہے۔ (مسند احمد، مستدرک حاکم، حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو صحیح الاسناد کہا ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکی توثیق کی ہے۔)

آثارِ قدیمہ دیکھنے کی ممانعت

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین الا ان تکنوا باکین فان لم

تکو نوبا کین فلا تدخلو اعلیہم لا یصیبکم ما اصابہم (متفق علیہ)  
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان لوگوں کے علاقے میں داخل نہ ہو جن پر عذاب نازل کیا گیا، الا یہ کہ تم روتے رہو، اور اگر رو گئے نہیں تو مت داخل ہو، کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچ جائے جو انکو پہنچا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قوم شمود (حجر) کے علاقے میں آئے، اور اسکے کنویں سے پانی بھرا، اس پانی سے آٹا گوندا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی بھرا گیا تھا اسکو بہانے کا حکم فرمایا اور آٹا (جو اس پانی میں گوندا تھا گیا تھا) اونٹ کو کھلانے کا حکم فرمایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ اس کنویں سے پانی بھریں، جس سے (صالح علیہ السلام کی) اونٹنی پانی پیتی تھی۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو بکثہ انماری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں لوگ اصحاب حجر (پتھروں والے) کی جگہ دیکھنے دوڑے چلے جاتے تھے۔ اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو لوگوں کو آواز دی گئی الصلاة جامعة حضرت ابو بکثہ انماری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہ سن کر ایک شخص نے آواز لگائی ”یا رسول اللہ ہم ان اصحاب حجر پر بڑا تعجب کرتے ہیں؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں تمہیں ان سے بھی زیادہ تعجب کی خبر نہیں دیتا؟ تم ہی میں کا ایک شخص تمہیں، تم سے پہلے والوں کی خبر دیتا ہے اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اسکی بھی۔ لہذا (دین اسلام پر) ثابت قدم رہو اور سیدھے رہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کی کچھ پروا نہ کریں گے۔ اور مستقبل میں ایسے لوگ ہونگے جو کسی چیز سے اپنا دفاع نہیں کریں گے۔“

(مسند احمد، ج: ۱۸۵۱۶)

فائدہ..... لوگوں کو جاہلی تہذیب کی طرف راغب کرنے کے لئے آثارِ قدیمہ کے نام پر جو مہم شروع کی گئی ہے اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر راضی ہونے کے بعد، فرعون، موبہجہ، داؤد، ہڑپا، راجہ داہر، رنجیت سنگھ سے محبت کرنا اور ان پر فخر کرنا، اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دشمنانِ اسلام ان کاموں کے لئے کھربوں ڈالر کے فنڈ بلاوجہ جاری نہیں کرتے۔ وہ اسکا نتیجہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرف

لانے کے بعد اسلام سے انکار شتہ کس قدر رہ جائے گا۔ میوزیم میں آرٹ کے نام پر بھی شیطانی تہذیبوں کی محبت ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے۔

کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ رہنے کی ممانعت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بري من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى ناراهما (رواه ابو داؤد والترمذى بسند صحيح)..... ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہائش رکھے۔ صحابہ نے دریافت فرمایا: اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان اور مشرک ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں۔

فائدہ..... آگ دیکھنے سے مراد گھروں کا دور دور ہونا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو ہجرت پر ابھارا ہے کہ انکو کافروں کے ملک میں نہیں رہنا چاہئے۔

عن جرير بن عبد الله البجلي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة (رواه الطبراني رقم ۲۲۶۱ والبيهقي ۱۷۵۲۸)  
ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مشرکین کے ساتھ رہائش اختیار کی وہ ذمہ سے بری ہے۔

عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله (رواه ابو داؤد بسند صحيح رقم ۲۷۸۷، والطبراني ۷۰۲۳، والديلمی ۵۷۵۶)

ترجمہ: حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کافر کے ساتھ اختلاط کیا اور کافروں کے ملک میں سکونت اختیار کی بیشک وہ انہی جیسا ہے۔  
فائدہ..... علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ عون المعبود میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ایسا شخص بعض وجوہ کی بناء پر کافروں جیسا ہے۔ کیونکہ اللہ کے دشمن کی جانب متوجہ ہونا اور اس کو دوست بنانا لازمی طور پر اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اس کو شیطان دوست بنا لیتا ہے۔ اور اسکو کفر کی جانب لے جاتا ہے۔ علامہ زنجشیری نے فرمایا: یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کیونکہ دوست کی دوستی اور دشمن کی دوستی دونوں ایک دوسرے

کی ضد ہیں، اس حدیث میں دل کو ان اللہ کے دشمنوں ساتھ ہونے سے روکنا ہے۔ اور انکے ساتھ اختلاط اور معاشرت اختیار کرنے سے روکنا ہے۔ (عون المعبود)

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تساكنا المشركين ولا تجمعوهم فمن ساكنهم او جماعهم فليس منا. (رواه الحاكم وصححه على شرط البخارى. وقال الذهبى رحمة الله عليه على شرط البخارى و مسلم ورواه الطبرانى، والبيهقى، والترمذى)

ترجمہ: حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کافروں کے ساتھ سکونت اختیار نہ کرو اور نہ انکے ساتھ اختلاط کرو، جو جس نے انکے ساتھ سکونت اختیار کی یا انکے ساتھ اختلاط کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے اور اسکو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ نیز اسکو طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بیہقی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے)

”لیس منا“ کا معنی

شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”معارف مدنی“ میں لیس منا کے معنی یوں بیان فرمائے ہیں: ”یعنی وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ تکلم و خطاب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لیس منا و عید کا ایسا جملہ تھا جو ان موقعوں پر آپ استعمال فرماتے جہاں صریح و قطعی کفر کی جگہ کفر سے کوئی بہت ہی قریب اور اسلامی زندگی سے بہت ہی بعید حالت کا بتلانا مقصود ہوتا تھا، عام معاصی و فسوق سے یہ حالت زیادہ سخت اور کفر قطعی سے کم ہوتی تھی۔..... پس کچھ ضروری نہیں ہے کہ لیس منا کے یہ معنی کئے جائیں کہ لیس علیٰ ہدینا یا ظاہری منطوق کو چھوڑ کر کوئی اور تاویل کی جائے یا نفی کو نفی کمال پر محمول کیا جائے۔ صاحب شریعت نے جن کاموں کے لئے جو احکام دئے ہیں اور جو الفاظ استعمال کئے ہیں حق نہیں کہ تاویل توجیہ کر کے انکے لغوی مفہوم کا زور و اثر گھٹانے کی کوشش کریں، ایسی کوششیں جنہوں نے کیں انھوں نے مسلمانوں کو اسلام یا ایمان کی عملی زندگی سے محروم کر دیا۔ یہ جو آج تمام عالم اسلام میں دو تہائی مسلمان عملاً ایک قلمرو میں مرجی و تہمی زندگی بسر کر رہے ہیں اگرچہ اعتقاداً اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔“ (معارف حضرت مدنی ص: ۲۰۵)

حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں:

”یہ کیا بات ہے کہ ایک شخص کتنا ہی فاسق و فاجر ہو لیکن اگر چند نزاری عقائد میں ہمارا ہم داستاں ہوتا ہے تو ہم اس کو دنیا کی سب سے بہتر مخلوق یقین کرتے ہیں؟ اور ایک شخص کتنا ہی صاحب عمل و صلاح ہو لیکن چند اخلاقی جزئیات عقائد میں ہم سے متفق نہیں تو پھر اس سے زیادہ شر الہیہ ہماری نظروں میں کوئی اور نہیں ہوتا؟“ (ایضاً)

آخر میں فرماتے ہیں: ”لیس منا کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی کسی جماعت پر بطور جنگ و قتال کے ہتھیار اٹھانا ایک ایسا فعل ہے جس کے کرنے کے بعد انسان مسلمانوں میں شمار ہونے کے قابل نہیں رہتا“۔ (ایضاً)

نوٹ: کافروں کے ملک میں رہنے سے متعلق فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کتابوں میں تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ لیکن آج مسلمان اس معاملے میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. (المائدۃ)..... ترجمہ: نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔

حضرت عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ولیمہ پر مدعو کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسکے گھر گئے تو گانے کی آواز سنی، چنانچہ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ میزبان نے کہا: کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جو جیسے لوگوں کے ساتھ رہا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور جو جیسے لوگوں کے عمل پر راضی ہوا وہ انہی میں شریک ہوگا۔ (مسند ابی یعلیٰ)

قتل کا حکم دینے والے کے بارے میں

عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت النار سبعين جزءا للامر تسعة وستين وللقاتل جزء (رواه احمد ح: ۲۳۷۶۸)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو ستر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہتر (۶۹) حصے قتل کا حکم دینے والے کے

لئے اور ایک حصہ قاتل کے لئے ہے۔“

مسلمان کے قتل پر مدد کرنے والا

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمة لقی اللہ عزوجل مکتوب بین عینیہ آیس من رحمة اللہ (سنن ابن ماجہ ۲۷۱۸) السنن الکبری للبیہقی (۱۶۲۹۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے کلمے کے ایک جز سے بھی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اسکی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا ”اللہ کی رحمت سے مایوس“۔

فائدہ..... یہ حال اس شخص کا ہے جس نے کلمے کے ایک جز سے مسلمان کے قاتل کی مدد کی یعنی پورا جملہ ”اسکو قتل کرو“ نہیں کہا۔ بلکہ صرف اتنا کہا ”اسکو قتل“۔ سو ایسے شخص کے بارے میں یہ وعید ہے۔ پھر مشرف، حامد کرزئی، نوری الماکی اور جلال طالبانی جیسے لوگوں کا کیا بنے گا جنھوں نے لاکھوں مسلمانوں کے قتل میں امریکہ کی مدد کی۔ بم برسائے کے لئے طیاروں کو ہوائی اڈے دیئے۔ کروڑ میزائل مارنے کے لئے انکے بحری بیڑوں کو اپنا سمندر دیا۔ کلمہ گو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے اٹھاون ہزار پروازیں سرزمین پاکستان سے کی گئیں۔ کتنوں کی زبانیں ان قاتلوں کے حق میں چلیں، کتنے قلم مسلمان مقتولین کے خلاف زہرا لگتے رہے اور اگل رہے ہیں۔ کاش! کوئی تو ہوتا جو مقتولین کے قاتلوں کے قتل کے فتوے بھی صادر کرتا۔ کوئی تو ہوتا جو

امریکیوں اور انکے معاونین سے قصاص کا مطالبہ کرتا۔ ایسا لگتا ہے کہ سب قاتل کے ساتھ ہیں۔ بیان بازی کا کیا ہے وہ تو مشرف اور اسکا ٹولہ بھی کرتا رہا۔ مسلمان کو قتل کرنے والے کافروں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ان کافروں کا ساتھ دینے والوں کے بارے میں کتاب و سنت کا کیا حکم ہے؟ کسی کو پروا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب اندرون خانہ میری قوم کے قاتلوں کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ حکومتیں انہی (قاتلوں) کے اشارہ ابرو سے بنتی بگڑتی ہیں۔ انہی کے لبوں کی جنبش سے عہدے بانٹے جاتے ہیں۔ ظاہری مخالفت، تبصرے اور نعرے ہیں۔ چہرے مختلف ہیں لیکن مدعا سب کا ایک ہے وہ یہ کہ قاتل جو چاہے کرتا رہے لیکن مقتولین کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اسکے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائیں..... اس سے اسلام بدنام ہو جائے گا۔ یورپ و امریکہ میں پھیلتا اسلام جو عنقریب واٹ ہاؤس اور ٹین ڈاؤن اسٹریٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا، رک

جائے گا۔ اہل مغرب اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ ہمارے لئے لندن و واشنگٹن کے دورے مشکل ہو جائیں گے۔ سو قاتل قتل کرتا رہے زبان سے اسکو برا بھلا کہو ورنہ دل سے بھی برا جان لو تو بھی امت محمدیہ سے خارج نہیں ہو گے۔ لیکن مقتولین کے حق میں عملاً کچھ کرنا یہ ”حکمت و مصلحت“ کے خلاف ہے۔

یا اللہ یا ربا انا نشکو الیک ضعف قوتنا و قلة حيلتنا و هو اننا علی الناس. نحن غرباء یا رب العرش العظیم (یا اللہ! یا ربا! ہم اپنی کمزوری، قلتِ تدبیر اور کم مائیگی کا، تجھ ہی سے شکوئی کرتے ہیں۔ اے عرشِ عظیم کے رب! ہم غریب ہیں تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں! اغشنا اغشنا اغشنا یا مغیث۔

مسلمان کے قتل میں مدد تو بہت بڑی بات ہے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس جگہ کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا جہاں ظلماً کسی مسلمان کو قتل کیا جائے، کہ اللہ کی ناراضگی اس جگہ پر آئے تو اور لوگ بھی اسکی لپیٹ میں نہ آجائیں۔

حضرت خرشہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مقتول کے پاس موجود نہ ہو مگر کہہ اسکو ظلماً قتل کیا گیا ہو جسکے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی آئے اور تم بھی اسکی لپیٹ میں آ جاؤ۔ (طبرانی)

### گرم پتھروں کی طرح فتنے

وعن حذيفة رضى الله عنه قال: اتتكم الفتن ترمى بالنشف، ثم اتتكم ترمى

بالرصف، ثم اتتكم سوداء مظلمة. (رواه ابو نعيم فى الحلية). حسن

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم پر فتنے آئیں گے جو تم پر ہلکے کا لے پتھر پھینکیں گے۔ پھر تم پر فتنے آئیں گے جو گرم پتھر پھینکیں گے پھر تم پر ایسے فتنے آئیں گے جو تار یک سیاہ ہوں گے۔

فائدہ..... اسکا یہ مطلب ہے کہ پہلے فتنے قدرے ہلکے ہوں گے جو جسم اور دین پر کم اثر انداز ہوں گے۔ اسکے بعد آنے والے فتنے پہلے والوں سے زیادہ سخت ہوں گے جو جسم اور دین پر زیادہ اثر کریں گے۔ پھر اسکے بعد تار یک سیاہ فتنے ہوں گے جن میں حق و باطل کی پہچان بہت مشکل ہوگی۔ لوگ ظاہر دیکھ کر اور انو اہیں سن کر باطل کو حق سمجھنے لگیں گے۔

وعن عامر بن واثلة قال قال حذيفة رضى الله عنه: تكون ثلاث فتن الرابعة

تسوقہم الی الدجال التي ترمی بالنشف والتي ترمی بالرضف والمظلمة التي تموج كموج البحر (مصنف ابن ابی شیبہ) حسن

ترجمہ: حضرت عامر بن واثلہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تین فتنے ہونگے۔ چوتھا فتنہ ان (لوگوں) کو دجال تک لے جائے گا (وہ تین فتنے یہ ہیں) وہ فتنہ جو ہلکے پتھر پھینکے گا۔ (دوسرا) وہ فتنہ جو گرم پتھر پھینکے گا۔ (تیسرا) سیاہ تاریک فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح موجیں مارے گا۔

فائدہ..... اس روایت سے بھی ہم اپنے اس دور کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دور سے گذر رہے ہیں۔ ان تین فتنوں کے بعد جو چوتھا فتنہ ہوگا وہ دجال کے آنے تک چلے گا۔ یہ چوتھا فتنہ کون سا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں اس چوتھے فتنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد سنن ابوداؤد اور مستدرک حاکم رحمۃ اللہ علیہ میں ہے:

عن عمیر بن ہانی قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتن فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الاحلاس فقال قائل وما فتنة الاحلاس يا رسول الله؟ قال هي حرب وهرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل يزعم انه مني وليس مني انما اؤلبياني المتقون ثم يصطليح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمه فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لانفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذاكم فانظروا والدجال من يومه او من غده (مسند احمد ۶۸ ۶۱ سنن

ابی داؤد. مستدرک حاکم) قال صحيح الاسناد واقره الذهبير حمة اللہ علیہ  
ترجمہ: ”حضرت عمیر رحمۃ اللہ علیہ بن ہانی نے فرمایا میں نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا اور انکو تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیا۔ کسی نے پوچھا یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ فتنہ فرار، گھر بار اور مال کے لٹ جانے کا ہوگا۔ پھر خوشحالی و آسودگی کا فتنہ ہوگا۔ اس کا دھواں ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ مجھ میں سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں۔ بلاشبہ میرے اولیاء تو متفقین ہیں، پھر لوگ ایک نا اہل شخص پر متفق ہو جائیں گے۔ پھر تاریک فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا



کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا جسکے تھیڑے اسکو نہ لگیں۔ جب بھی کہا جائیگا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ اسی حالت پر رہیں گے یہاں تک کہ دو خیموں میں بٹ جائیں گے ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب تم لوگ اس طرح تقسیم ہو جاؤ تو بس دجال کا انتظار کرنا کہ آج آئے یا کل آئے۔‘ (ابوداؤد، مستدرک حاکم، مسند احمد)

نوٹ: علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلۃ الصحیحۃ

(نمبر ۹۷۴) میں صحیح کہا ہے۔

فائدہ..... چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ چوتھا فتنہ بھی فتنہ دہیما ہوگا۔ اس فتنے میں دجال کی دجالیت کے اثرات ہونگے۔ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا۔ حق کو باطل اور باطل کو حق دکھلایا جائیگا۔ مسیحا کو دجال، دجال کو مسیحا ثابت کیا جائے گا۔ مجاہد کو دہشت گرد، اور دہشت گرد کو امن و سلامتی کا پیامبر بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جن کے دلوں میں وہن (دنیا کی محبت اور موت کا خوف) ہوگا وہ اس راستے کو اختیار کریں گے جہاں انکا جان و مال خطرے میں نہ پڑے۔ نفسانی خواہشات پر آئچ نہ آئے، چنانچہ جو دجالی قوتیں دکھائیں گی یہ اسی کو حق تسلیم کریں گے۔ جبکہ وہ لوگ جو ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہونگے..... دنیا کی ہر دولت لٹا کر آخرت کے خزانوں کا سودا دل میں سما چکے ہونگے..... راہ حق میں آنے والی مشکلات و مصائب..... بہوں، میزائلوں اور طیاروں کی گھن گرج انکے دلوں پر اتنی برسی ہوگی کہ دل کے کونے کونے سے نفاق کا ذرہ ذرہ اس طرح اڑ گیا ہوگا کہ بس دل میں ایمان ہی جگمگاتا ہوگا..... ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بھر دینگے جسکے ذریعے یہ گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھی، باطل کو اس طرح پہچان رہے ہونگے جیسے نصف النہار کے سورج کی روشنی میں چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ الگ ہوتے جائیں گے۔ خالص ایمان والے..... جن میں ذرہ برابر نفاق نہ ہوگا۔ خالص نفاق والے جن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ باطل قوتوں کے خوف..... لالچ..... کاروباری مصلحتیں..... نوکری چھن جانے کا ڈر..... گرفتار ہو جانے کا اندیشہ..... دنیا کی لمبی چوڑی امیدیں..... ان تمام چیزوں نے لوگوں کے دلوں سے ایمان کو اس طرح نچوڑ لیا ہوگا کہ ایک قطرہ ایمان بھی دل میں باقی نہ بچا ہوگا۔



## قومیت اور وطنیت کا فتنہ

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر اس فتنے نے انتہائی مہلک ضرب لگائی ہے۔ اسکے اثرات بالکل ایسے ہیں جیسے ایک زندہ آدمی کے تمام اعضاء کاٹ کر الگ الگ کر دئے جائیں، ہاتھ الگ پڑے ہوں، پیر الگ، ٹانگیں الگ ہوں دھڑ الگ، سینہ کہیں پڑا ہو تو سر کہیں۔ قومیت و وطنیت کے فتنے نے امت وحدت کی یہی حالت کی ہے۔

### قومیت اور اسلام

دور جاہلیت میں دوستی اور دشمنی کا معیار قبائلی عصبیت ہوا کرتی تھی۔ مختلف قبیلوں میں اتحاد و مخالفت کی بنیاد پر معاشرتی تعلقات استوار ہوتے۔ قبیلے کے کسی بھی فرد کی کسی سے لڑائی ہو جاتی تو وہ تمام قبیلے کی لڑائی تصور کی جاتی۔ اتحادی قبیلے پر بھی اس قبیلے کی مدد کو آنا ضروری ہوتا، اس بات سے کسی کو کچھ سروکار نہ ہوتا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد تمام بتوں کی نفی کی اور مشرکین عرب نے جتنے بھی بت بنا رکھے تھے لا الہ کے ایک ہی وار میں سب کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ آقائے دو جہاں، امام انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصورات کو باطل قرار دیا اور تعلقات کی بنیاد کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر استوار کیا۔ قبیلے، قوم اور وطنیت کے بتوں کو پاش پاش کیا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھائی قرار پایا۔ اسکے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کا خیال رکھنا حتیٰ کہ اس کے لئے جان تک دیدینے کا اعلان کیا گیا، جبکہ سکے خونریز رشتے دار جنھوں نے اس کلمہ کا انکار کیا وہ دشمن قرار پائے۔ کلمہ توحید نے ان سب کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی کہ ہر ایک کا مرنا جینا اسی کلمے کی خاطر ہو گیا۔ جو اس کلمے کا ہوا وہ انکا ہوا اور جس نے اسکا انکار کیا وہ انکا دشمن بنا۔ انکی محبت اس کلمے کے لئے تھی اور نفرت بھی اسی کی خاطر۔ دوستی بھی اسی کے لئے اور دشمنیاں بھی اسی کی بنیاد پر قائم ہوئیں۔ کوئی روم سے آیا تھا تو کوئی فارس سے لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب ایک جان ہو گئے۔

وہ عرب جو پہلے قوموں اور قبیلوں کی آواز پر جنگ و جدل کیا کرتے تھے اب انکا نعرہ یہی کلمہ تھا۔ اسی کی خاطر جنگ تھی اسی کی خاطر صلح۔ جو اس کلمے کی خاطر جان دے گیا زبان نبوت

سے اسکے لئے بشارتوں کا اعلان ہوا اور جس نے اس کلمے کے علاوہ کسی تعصب کی بنیاد پر جان دی وہ ناکام قرار پایا۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب قومیت کی بنیاد پر جہاد میں شریک ہوئے اور مارے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو جہنمی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف وہی لوگ پسند ہیں جنکا سب کچھ یہی کلمہ ہو۔ اسکے علاوہ تمام تعلقات عصبيت و جاہليت ہیں۔ قتل و قتل معيوب چیز ہے لیکن اس کلمہ کی سر بلندی اور دین کے نفاذ کی خاطر ہو تو اس عمل پر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکی اداؤں کی قسمیں کھاتے ہیں، انکے بارے میں درجات کی بلندی کے اعلانات کئے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی قوم، قبیلے یا وطن کی نیت سے جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عصبيت اور جاہليت ہے۔ اور اس پر جان دینے والا جاہليت کی موت مرتا ہے۔

وطنيت بمقابلہ اسلام

دشمنان اسلام نے امت مسلمہ کو خلافت سے محروم کر کے پچاس سے زائد ملکوں میں بکھیر کر رکھ دیا اور ہر ریاست پر اپنے کٹھ پتلی حکمران بٹھادئے۔ یہ حکمران یہودی ماؤں کی گودوں میں پلے بڑھے، اسلام کی نفرت دلوں میں لئے جوان ہوئے۔ اور ساری عمر یہودیت کے وفادار رہے۔ انھوں نے اپنی عوام کو وہی درس دیا جو انکی یہودی ماؤں نے انکو گھٹی میں پلایا تھا۔ چنانچہ اپنے اپنے ملکوں میں انھوں نے اسلامی تصور کے بجائے وطنيت اور قوميت کا تصور دیا۔ وطنيت کے بت نے مسلمانوں کو اپنے سحر میں کچھ اس طرح جکڑا کہ دارالحرب میں رہنے والے مسلمان بھی کافروں کے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھانے لگے۔ حتیٰ کے مسلمانوں کے مقابلے وہ اس کافر ملک کی جانب سے لڑنے لگے اور اسکو کوئی گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ حالانکہ بغیر شرعی ضرورت کے انکے لئے دارالحرب میں رہنا ہی جائز نہیں۔

اس طرح دشمنان اسلام نے وطنيت کا بت بنا کر امت وحدت کو جو مشرق سے مغرب تک ایک اسلامی لڑی میں پروئی ہوئی تھی، بکھیر کر رکھ دیا۔ شرعی مسائل جنکی بنیاد اسلام اور کفر کے بنیادی تصور پر قائم تھی اب وطنيت پر ہونے لگی۔ ان مسائل کو بالکل ہی فراموش کر دیا گیا جو دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے مسلمان کو امت محمدیہ کا حصہ قرار دیتے تھے۔ بلکہ اب اسکو امت کا حصہ بنانے کے بجائے کسی دوسرے وطن کا باشندہ قرار دے کر کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔

اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ملک کے مسلمانوں پر اگر کوئی تکلیف آئی تو انکے پڑوس کے مسلمان اپنے ہنگاموں میں مست رہے۔ کسی مسلم ملک پر کافروں نے چڑھائی کی تو باقی مسلمان سوئے رہے۔ قرآن و سنت کے مطابق یہ حملہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر حملہ تھا لیکن ان حکمرانوں نے جس نئی شریعت کو اپنی عوام کے لئے رائج کیا تھا اسکے مطابق یہ ایک دوسرے ملک کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا اور انکے زمینی حقائق اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے بارے میں سوچتے۔

اس طرح یہود و نصاریٰ ایک کے بعد ایک مسلم ملک پر اپنی حاکمیت قائم کرتے گئے۔ مسلمانوں کے وسائل، علمی درسگاہیں، اور اعلیٰ ذہنوں پر قابض ہوتے رہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا کہ جب اللہ کے دشمن، یہود نے پچاس سے زائد مسلم ملکوں کے ہوتے ہوئے ۱۹۶۷ء میں قبلہ اول پر قبضہ کر لیا۔ قبلہ اول پر قبضے سے بھی عالم اسلام بیدار نہ ہوا۔ اس موقع پر اگرچہ بعض عرب ملکوں نے عرب قومیت کا بت اٹھا کر اسرائیل کے ساتھ جنگ کی لیکن انکے بت انکے کچھ کام نہ آ سکے۔

بات قبلہ اول تک ہی محدود نہ رہی بلکہ یہود و نصاریٰ، حریم شریفین مکہ اور مدینہ کے ارد گرد بھی پہنچ گئے۔ جس سر زمین سے انکو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا تھا ۱۴۰۰ سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پھر اس زمین پر آچکے تھے اور تمام لاؤ لشکر ساتھ لائے تھے۔ اسکو اسلام دشمن قوتوں کی محنت کہا جائے یا اپنی سستی کہ وطنیت کا نعرہ لگا کر بھی مسلمان خود کو مسلمان سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام اور وطنیت اسی طرح ہیں جس طرح اسلام اور لات و منات کے بت۔ وطنیت ایک بت ہے جسکو عالمی فتنہ گروں نے تراشا ہے۔

دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اول و آخر اسلام۔ دین حنیف کا مزاج اتنا حساس ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں سے سو فیصد خالص ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ملاوٹ (شرک) کا معمولی سا شائبہ بھی اسکے مزاج کو گوارا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اعلان فرمایا: یا ایہا الذین امنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور (کچھ اسلام اور کچھ دیگر بتوں کو دل میں بسا کر) شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔

چنانچہ اسلام اگر یہ حکم دے کہ جس وطن میں رہ رہے ہو اسکے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرو تو وطن کو چھوڑ کر مسلمانوں کی مدد کی جائے گی۔ اسلام اگر یہ حکم دے کہ جس وطن میں رہتے ہو

اسکو چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس حکم کو بجالانا واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کی اسلام کو بھی مانتے رہیں اور دل میں وطنیت کا بت بھی سجائے رکھیں۔ اسلام ہندومت، عیسائیت یا یہودیت نہیں، یہ دین حنیف ہے جو صرف اور صرف اپنے ماننے والوں کو اپنا دیکھنا چاہتا ہے۔ جن دلوں میں اسکے علاوہ کسی بھی بت کی محبت ہو وہ دل رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انبیاء کی تاریخ شاہد ہے کہ جب انکی قوم نے انکو رد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہجرت کا حکم فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے سب سے پہلے وطن کا نعرہ نہیں لگایا۔ بلکہ دین کو مقدم رکھا۔ اور وطن چھوڑ کر چلے گئے۔

وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان جہاں پلا بڑھا ہوتا ہے، جن گلیوں میں کھیلتا کودتا ہے اسکی محبت دل میں فطری بات ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن یہ محبت ایسی ہی ہے جیسے مال و دولت اور عزیز واقارب کی محبت۔ جس طرح مال و دولت کے لئے یہ نعرہ نہیں لگایا جاسکتا کہ سب سے پہلے مال و دولت بعد میں اسلام، اسی طرح وطنیت کا نعرہ لگانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام کو وطن چھوڑ کر کشتی میں بیٹھنے کا حکم ہوا اور یہ دعا سکھلائی

فقل الحمد لله الذی نجنا من القوم الظلمین وقل رب انزلنی منزلاً مبارکاً وانت خیر المنزلین۔

ترجمہ: تو آپ کہئے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اور کہئے اے ہمارے رب ہمیں برکت والی جگہ میں اتاریئے اور آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنے کے بعد اعلان کیا: و قال انی ذاہب الی ربی سیہدین..... اور کہا بیشک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ انکے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اصحاب کہف ان سب کو اپنا دین بچانے کے لئے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیدیا گیا۔ اور اعلان کر دیا گیا کہ جو وطن کے مقابلے اسلام کو اختیار کریگا وہی مسلمان سمجھا جائے گا اسکے بغیر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اللہ کے دشمنوں نے ہمیشہ وطنیت کو اللہ والوں کے خلاف اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کبھی لوگوں کو وطنیت پر ابھار کر حق والوں کی مخالفت پر اکٹھا کیا تو کبھی اللہ

والوں کو اپنے ملک سے نکال دینے کی دھمکی دیتے رہے۔

وقال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لنعودن فی ملتنا  
ترجمہ: اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال کر رہیں  
گے یا ضرور تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ گے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کو انکی قوم کے سرداروں نے کہا: قال الملائ الذین استکبروا  
من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین امنوا معک من قریبتنا او لنعودن فی ملتنا  
ترجمہ: انکی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب! ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان  
لانے والوں کو ضرور اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے یا ضرور تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ گے۔  
حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں انکی قوم نے کہا: وماکان جواب قومہ الا ان

قالوا اخر جوہم من قریتکم انہم اناستطہرون  
ترجمہ: اور ان (لوط) کی قوم کا جواب یہی تھا کہ کہنے لگے انکو اپنی بستی سے نکال دو بیشک یہ  
بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔

خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کفار نے یہی حربہ استعمال کرنا  
چاہا: واذ بمکربک الذین کفروا لیشتوک او یقتلوک او یخرجوک  
ویمکرون ویمکروا اللہ واللہ خیر المکربین۔

ترجمہ: اور جب آپ کے خلاف کافر سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل  
کر دیں یا آپ کو نکال دیں اور وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہے تھے اور اللہ  
ہی بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔

اہل عقل کے لئے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ مکہ مکرمہ جیسا مقدس شہر جہاں بیت اللہ ہے،  
جو تمام مسلمانان عالم کا مرکز ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شہر سے کتنی محبت تھی جبکہ  
اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس سب کے باوجود اسکو چھوڑ کر چلے جانے کا حکم  
دیدیا گیا۔ اور فتح مکہ کے بعد بھی کسی مہاجر کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مکہ میں مستقل سکونت  
اختیار کر سکیں۔ کسی مسلمان نے مکہ مکرمہ کے فضائل، اسکی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کو بیان نہیں کیا  
بلکہ سب نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر محبت، عقیدت اور خواہش کو قربان کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اصول و ضوابط بنائے ہیں انہی کی روشنی  
میں ہمیں اپنے عقائد، معاملات اور تعلقات استوار کرنے ہونگے۔ ان اصول و ضوابط سے ہٹ

کرنہ کوئی عقیدت قابل قبول ہے اور نہ محبت۔ پھر بھی اگر کوئی اسلام کے مقابلے ان چیزوں کو دل میں بسائے رکھے تو وہ طاغوت کی پوجا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس طاغوت کی خاطر جنگ کرتا ہے تو وہ جاہلیت (گمراہی) ہے۔ جہاد صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لئے ہو۔

کیا وطن کی محبت ایمان ہے؟

لوگوں میں وطن کے حوالے سے جو یہ مشہور ہے کہ حدیث میں آیا ہے وطن کی محبت ایمان ہے (حب الوطن من الایمان) یہ موضوع ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع“ میں فرمایا: لا اصل له عند الحفاظ یعنی حفاظ حدیث کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام صفحانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ”الموضوعات للصفحانی“ میں موضوع کہا ہے۔

جاننے کے باوجود اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بہتان ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان گڑھا اسکا ٹھکانا جہنم ہے۔

جہاد کیا ہے؟

ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کیا ”یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ فان احدنا یقاتل غضبا، ویقاتل حمیة فرفع الیہ رأسه فقال من قاتل لتکون کلمة اللہ فی سبیل اللہ (متفق علیہ)

ترجمہ: اے رسول اللہ! اللہ کے راستے میں قتال کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی ذاتی غصے کی وجہ سے قتال کرتا ہے، اور کوئی کسی (قومی، وطنی، لسانی) غیرت کی وجہ سے قتال کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سائل کی طرف اٹھایا اور فرمایا: جس نے اسلئے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ (دین) بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے۔

دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ومن قاتل تحت رأیة عمیة او یغضب لعصبة او یدعو الی عصبة او ینصر عصبة فقتل فقتله جاهلیة (مسلم شریف) ترجمہ: اور جس نے ایسے جھنڈے کے تحت قتال کیا جسکا مقصد واضح نہ ہو، یا کسی (قومی، لسانی یا خاندانی) عصیت کی بنا پر غصہ ہو، یا کسی تعصب کی طرف لوگوں کو بلائے اور کسی تعصب کی بنیاد پر مدد کرے اور قتل ہو جائے تو یہ معصیت (گمراہی) کی موت مرا۔

اس حدیث شریف سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں جن سے پچنا ضروری ہے:

1..... جو ایسی جنگ لڑے جس کا مقصد واضح نہ ہو۔ یا اسکو یہ علم نہ ہو کہ وہ کیوں اور کس کے لئے جنگ کر رہا ہے۔

2..... کسی بھی قسم کا تعصب، مثلاً قومی، لسانی، وطنی، خاندانی، ان میں سے کسی کی بنیاد پر غصہ ہونا۔

3..... مذکورہ چیزوں میں سے کسی کی جانب لوگوں کو دعوت دینا یا جماعت بنانا۔

4..... ان تعصبات کی بناء پر کسی کی مدد کرنا۔

اگر کوئی بھی مسلمان مذکورہ حالتوں میں سے کسی حالت میں مارا گیا تو اسکی موت اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہوگی۔

آج کل لوگ مختلف تعصبات کی بناء پر لڑائیاں لڑتے ہیں اور اسکو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاد صرف وہ ہے جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے لڑا جائے۔ اس مقصد کے لئے جان دینے والے شہید کہلائیں گے۔ ورنہ یوں تو ہندو بھی مجاہدین کشمیر کے مقابلے مارے جانے والے فوجیوں کو شہید کہتے ہیں۔





## ایمان اور نفاق

عن علی رضی اللہ عنہ قال ”ان الایمان یدو لمظة بیضاء فی القلب، فکلما زاد الایمان عظاماً زاد ذلک البیاض، فاذا استکمل الایمان ابیض القلب کلہ، وان النفاق یدو لمظة فی القب، فکلما زاد النفاق عظاماً زاد ذلک سواداً، فاذا استکمل النفاق اسود القلب کلہ، وایم اللہ، لو شققتم عن قلب مؤمن لو جدتموه ابیض ولو شققتم عن قلب منافق لو جدتموه اسود“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان رقم ۳۸. وابن المبارک فی الزهد رقم ۱۲۲۰. وابن ابی شیبہ رقم ۳۲۱۰۳۰).

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”بیشک دل میں ایمان تھوڑی سی سفیدی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے اس سفیدی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو دل مکمل سفید ہو جاتا ہے، اور بیشک نفاق بھی دل میں تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے نفاق بڑھتا ہے دل کی سیاہی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، سو جب نفاق مکمل ہو جاتا ہے تو سارا کاسارا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اگر تم مؤمن کا دل چاک کر کے دیکھو تو اسکو سفید پاؤ گے، اور اگر منافق کا دل چیر کر دیکھو تو کالا پاؤ گے۔“

### نفاق کی نشانیاں

عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : اربع من کن فیہ فہو کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا : اذا اتمن خان ، واذا حدث کذب ، واذا عاہد غدر ، واذا خاصم فحجر (متفق علیہ .بخاری باب علامۃ النفاق)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اور جس میں ان (چار) میں سے ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یہاں تک کہ اس کو چھوڑ

دے۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ (متفق علیہ)

فائدہ..... بندے کا اپنے رب کے ساتھ اگر معاملہ ایسا ہو تو پھر کیا؟ اللہ سے کیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عہد۔ اگر کوئی مسلمان اس عہد کی خلاف ورزی کرے تو اسکو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے عہد لیا ”الست برکم“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کے علاوہ امریکہ اور آئی ایم ایف کو رب ماننے لگے تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو حاکم تسلیم کر لیا جائے، غیر اللہ سے خوف کھایا جائے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے بارے میں بندہ اپنے رب سے عہد کرتا ہے۔

نفاق کی ایک علامت..... نہ جہاد کیا نہ جہاد کی تیاری

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق (اخرجه مسلم رقم ۱۹۱۰، واحمد ۸۸۵۲، ابو داؤد ۲۵۰۲، بخاری فی ”التاريخ الكبير، والنسائي ۳۰۹۷، والحاكم ۲۲۱۸، والبيهقي ۱۷۷۲۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس حال میں مر گیا کہ نہ جہاد کیا، اور نہ جہاد کے لئے خود کو تیار کیا، وہ نفاق کی ایک خصلت پر مرا۔ فائدہ..... شارح مسلم شریف، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسکی تشریح میں فرماتے ہیں:

(مات على شعبة من نفاق): والمراد ان من فعل هذا فقد اشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فان ترك الجهاد احد شعب النفاق. (شرح النووي على مسلم، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه)

ترجمہ: اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایسا کیا، تحقیق کہ وہ اس وصف میں، ان منافقین کی طرح ہو گیا جو جہاد سے پیچھے رہتے تھے، کیونکہ جہاد چھوڑنا نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔

علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ السنن السنی علی سنن النسائی میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: قوله (ولم يحدث نفسه) قيل بأن يقول في نفسه يا ليتني كنت غازيا. او المراد ولم ينو الجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى ولو ارادوا الخروج

ترجمہ: (اور نہ خود کو جہاد کے لئے تیار کیا)... اس کے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ وہ اپنے دل میں یوں کہے کاش! میں غازی ہوتا۔ یا اس سے یہ مراد ہے کہ اس نے جہاد کی نیت بھی نہ کی۔ اور اس نیت کرنے کی نشانی سامان جہاد کا تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر وہ (جہاد میں) نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کچھ ساز و سامان تیار کرتے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”مرقات“ میں فرماتے ہیں: والمعنی لم يعزم علی الجهاد ولم يقل یا لیتنی كنت مجاهدا وقيل معناه لم يرد الخروج وعلامته فی الظاهر اعداد آله قال تعالیٰ 'ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ویؤید قوله (مات علی' شعبة من نفاق) ای نوع من انواع النفاق أى من مات علی' هذا فقد اشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد ومن تشبه بقوم فهو منهم وقيل هذا كان مخصوصا بزمانه والظاهر أنه عام . (مرقات المفاتیح، باب ذم من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه)

ترجمہ: اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاد کا عزم نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ کاش! میں مجاہد ہوتا، اس کے معنی میں یہ بھی کہا گیا کہ جہاد میں نکلنے کا ارادہ نہیں کیا، اور اس ارادے کی ظاہری پہچان یہ ہے کہ جہاد کا ساز و سامان تیار کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور اگر وہ (منافقین) جہاد میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لئے کچھ تو ساز و سامان تیار کرتے۔“ اس بات کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی کرتا ہے: (نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم پر مرا) یعنی جو اس حالت میں مرا وہ ان منافقین کے مشابہ ہو گیا جو جہاد سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اور جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھا۔ جبکہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے۔

کسی مسلمان کو کافر یا منافق کہنا

عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر احدهما ان كان الذى قال له كافر فقد صدق وان لم یکن كما قال له فقد باء الذى قال له بالكفر (رواه البخاری فی الادب المفرد. وقال البانی رحمة اللہ علیہ صحیح)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی (مسلمان) نے دوسرے (مسلمان) کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہے۔ جس کو کافر کہا گیا اگر وہ واقعی کافر ہے، تو یہ کہنے والا سچا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، تو اس کہنے والے پر یہ کفر لوٹے گا۔ (اسکو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو صحیح کہا ہے)

فائدہ..... مطلب یہ ہے کہ جسکو کافر کہا گیا اگر اس میں کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے کوئی بھی مسلمان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جھکو تو افض ایمان (ایمان توڑ دینے والی) کہا جاتا ہے، پھر تو اس کہنے والے پر کوئی جرم نہیں۔ لیکن اگر اس شخص سے ایسا کوئی قول یا فعل سرزد نہیں ہوا، جو اس کو دین اسلام سے خارج کر دے، تو پھر اس کہنے والے نے بہت بڑا ظلم کیا، اور یہ کہا یعنی اس کا گناہ اور وبال اس کے اوپر پلٹ کر آئے گا۔ واللہ اعلم

اسی طرح کسی مسلمان کو بغیر ثبوت کے منافق کہنے کا حکم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک حاکم نے اپنے کسی سپاہی کو منافق کہہ دیا۔ امیر المؤمنین نے اس کے خلاف عدالت بٹھادی۔ جب ثابت ہو گیا کہ جسکو منافق کہا گیا ہے وہ منافق نہیں ہے بلکہ حاکم نے بغیر ثبوت کے اسکو منافق کہا تھا، تو امیر المؤمنین نے اس حاکم کو کوڑے لگوانے کا حکم صادر فرمایا۔ لیکن پھر اس سپاہی نے معاف کر دیا۔

چنانچہ اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جس کا وبال خود اپنے اوپر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آجائے، بہت نقصان کی بات ہے۔ دین کی سر بلندی کے لئے کام کرنے والوں کو ہر معاملے میں شریعت کا خیال رکھنا چاہئے۔ اللہ کے حکم پر نہ تو غصے کو غالب آنے دیا جائے، نہ انتقام کو اور نہ کسی ذاتی خواہش کو۔ اللہ کے لئے سب کچھ قربان کر دینے والوں کی ہر ادا، اللہ کی رضا کے تابع ہونی چاہئے۔ خصوصاً ذمہ دار حضرات اپنے مامورین کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ کیونکہ مامورین اس بات کو ہر مجلس میں بیان کریں گے۔ اس سے فتنے پھیلیں گے۔ دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے نازک معاملات صرف ذمہ داران کی حد تک رہنے چاہئیں۔ ضروری نہیں کہ ہر سچ بات سب کو بتائی جائے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا ہی ڈالیے جتنا وہ ہضم کر سکیں۔ اللواء والبراء کی جن بحثوں کی مبادیات کا بھی عوام کو علم نہیں، اسکے مطابق فوراً احکامات صادر کریں گے تو لوگ رد کر دیں گے۔ نیز دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا نہ تو دانشمندی ہے اور نہ ہی بہادری۔

مجاہدین کو تحریک بالاکوٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انگریزوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ”وہابی“ ہونے کا پروپیگنڈہ کر کے اس تحریک کی کمر توڑ دی تھی۔ لہذا آج آپ کے خلاف امریکہ تکفیری اور خارجی کا پروپیگنڈہ کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ علماء حق کو اعتماد میں لیں تاکہ وہ اس سازش کو توڑ سکیں، نیز آپ کو اس بارے میں پاکستانی مسلمانوں کے حالات و مزاج کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہاد کو نقصان پہنچے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت و الجماعت کے راستہ سے چمٹا رہنے والا بنائے اور ہماری ذات سے دین کے معاملے میں خیر پیدا فرمائے اور ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (آمین)

عالم اسلام کے ناسور..... منافقین

جعفر ابن حیان کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی نفاق (منافق) نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں نفاق سے پاک ہوں تو یہ میرے لئے زمین بھرے سونے سے زیادہ محبوب ہے۔ (صفة النفاق و ذم المنافقین للفریابی)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ نفاق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ منافقین آج بھی موجود ہیں۔ متاخرین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نفاق ہر زمانے میں موجود اور زندہ ہے، اور منافقین کا وجود کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ انکے نزدیک نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نفاق اعتقادی دوسرا نفاق عمل اور نفاق اخلاق۔ نفاق اعتقادی اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھا لیکن نفاق عمل و اخلاق اب بھی موجود ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت نفاق بکثرت موجود ہے۔ چنانچہ الفوز لاکبیر میں منافقین کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا:

”اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ کی مرضی پر امراء کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں“۔ (الفوز لاکبیر)

نفاق قیامت تک باقی رہے گا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی دلیل ہے جو پیچھے گزر چکی۔ جس میں یہ ذکر ہے کہ دجال سے کچھ پہلے لوگ دو نیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔

ایک خالص ایمان والوں کا خیمہ دوسرا خالص نفاق والوں کا خیمہ۔

ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا نفاق اب بھی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ”لو خر جوا من ازقة البصرة لاستوحشتتم فیہا“، کہ اگر منافقین بصرہ کی گلیوں سے نکل جائیں تو تمہارا یہاں دل بھی نہ لگے۔ (صفة النفاق و ذم المنافقین للفریابی)

اپنے بارے میں نفاق سے ڈریئے

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مستقل باب باندھا ہے جس کا نام ہے ”باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ و هو لایشعر“ (مومن کا اپنے اعمال ضائع ہونے کا خوف کرنا کہ اس کو احساس بھی نہ ہو)۔ اس باب کی تشریح میں حاشیہ سندھی میں محدث ابوالحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”ای خوفہ من ان یکون منافقا (یعنی مومن کا اپنے بارے میں اس بات کا خوف کرنا کہ کہیں وہ منافق نہ ہو گیا ہو)۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت یہ روایت نقل کی ہے:

عن ابی ملیکة قال ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم ینحاف النفاق علی نفسہ ما منهم احد یقول انه علی ایمان جبریل ومیکائیل.

ترجمہ: حضرت ابو ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ رضی اللہ عنہم کو پایا۔ وہ سب اپنے بارے میں نفاق کا خوف کرتے تھے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ وہ جبرائیل ومیکائیل کے ایمان جیسا ایمان رکھتا ہے۔“

معلی ابن زیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں حسن بصری کو اللہ کی قسم کھاتے سنا کہ کوئی مومن ایسا نہیں گذرا جو (اپنے بارے میں) نفاق سے نہ ڈرتا ہو اور کوئی منافق ایسا نہیں گذرا جو اپنے بارے میں نفاق سے مطمئن و مامون نہ ہو۔ اور وہ فرماتے تھے کہ جو (اپنے بارے میں) نفاق سے نہیں ڈرا وہ منافق ہے۔ (صفة النفاق و ذم المنافقین للفریابی)

ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مومن کی صبح یا شام اس کے بغیر نہیں گذرتی کہ وہ اپنے بارے میں منافق ہونے کا خوف نہ کرتا ہو۔ (حوالہ مذکورہ)

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین زیادہ شری یا آج کے: عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ

قال ان المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون (الصحيح البخارى ۷۱۱۳)

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیشک آج کے منافقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین سے زیادہ شری ہیں۔ وہ اس دور میں (اپنا نفاق) چھپاتے تھے، اور آج (منافقین) اپنا نفاق ظاہر کرتے ہیں۔

فائدہ..... اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس دور کے منافقین کی حالت دیکھ لیتے جنکا نفاق اتنا واضح ہے کہ زبانوں سے رال کی طرح ٹپکتا رہتا ہے، تو کیا فرماتے؟ یہ قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس میں بیان کی گئی حدود انکو، جاہلیت، وحشت، درندگی اور انسانیت کی توہین نظر آتی ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق اراه قال بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم (سنن ابى داؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مؤمن کو منافق سے بچایا (راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اسکے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔

قال عمر رضى الله عنه : ما اخاف عليكم احدر جليلين : رجل مؤمن قد تبين ايمانه، ورجل كافر قد تبين كفره ولكن اخاف عليكم منافقا يتعوذ بالايمن ويعمل غيره (صفة النفاق و ذم المنافقين للفريابى)

ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہارے بارے میں دو لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتا، ایک مؤمن آدمی جس کا ایمان واضح ہو چکا ہو، دوسرا کافر جس کا کفر واضح ہو چکا ہو، البتہ میں تمہارے بارے میں اس منافق سے ڈرتا ہوں جو ایمان کو آڑ بناتا ہے اور عمل اسکے منافی کرتا ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ جو نقصان اسلام کو منافقوں نے پہنچایا ہے، وہ یہود و نصاریٰ اور ہندو مل کر بھی نہیں پہنچا سکے۔ آج عالم اسلام پر یہود و ہنود کی بالادستی صرف اور صرف انہی منافقین کی بدولت ہے۔ ہر ملک میں یہودیوں نے ایسے منافق بٹھار رکھے ہیں، جو بات تو ہماری زبان میں کرتے ہیں لیکن انکے دل اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ عالم اسلام کے بیش قیمت وسائل کو کوڑیوں کے داموں بیچ کر صرف اپنے اقتدار کو دوام دیتے

ہیں، امت مسلمہ کو گلی گلی، شہر شہر اور دنیا کے ہر حصے میں ذلیل کرانے کی ذمہ داری انہی نے اٹھا رکھی ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کی آزادی، عزتِ نفس، ایمانی غیرت اور دینی حمیت کو نگوں کے بدلے نیلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منافقین کے حال کو بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اہل ایمان کو چاہئے کہ وہ قرآن میں غور کریں اور اللہ کے دشمنوں سے خود کو بچائیں۔

انکو پہچانینے یہ کون ہیں، جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات انکو اچھے نہیں لگتے؟ یہ کون ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قادیانیوں کو برابر کے حقوق دینے کے مطالبے کرتے ہیں؟ یہ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس کتاب میں موجود اسلامی سزاؤں کو، کھلے عام وحشت، جاہلیت اور درندگی کا نام دیتے ہیں؟

خدا را! اب حق و سچ کہنے کا وقت ہے... اگر کہنے کی طاقت نہیں تو کھلے دل سے سن تو لیجئے۔ آخر کب تک اپنی جماعت اور اپنے چاہنے والے کے پیچھے صرف اسلئے بھاگتے رہیں گے کہ آپ کے دل میں، انکی عقیدت کا مندر بنا ہوا ہے..... یہ اپنائیت جو اسلام کے مقابلے میں آجائے کہیں ہمیں لے ہی نہ ڈوبے..... یہ اپنائیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں آجائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کس کی لاج رکھیں گے، دل میں سچے مندر کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دل سے پوچھئے..... دل کے بند درپچوں کو کھول کر..... اس دل سے سوال کیجئے..... اللہ نہ کرے، اگر ایسا وقت آجائے کہ ایک طرف امام مہدی کا لشکر ہو اور دوسری جانب وہ، جس سے آپ کو انتہائی عقیدت و محبت ہے، تو آپ کس کو چھوڑ دینگے اور کس کو اختیار کر لیں گے؟ کس سے راضی ہونگے اور کس سے ناراض ہو جائیں گے؟

ان صحابہ کو یاد کیجئے جن سے محبت کا دعویٰ ہے..... میدان جنگ ہے..... اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے، کافروں کی کھوپڑیاں نیزے کی انیوں پر اچھالی جا رہی ہیں..... شمع نبوت کے پروانے..... عشقِ نبی میں سب کچھ قربان کر دینے کے لئے نکل آئے ہیں..... بیٹے کے سامنے اسکا باپ آجاتا ہے..... اب ایک طرف باپ اور دوسری جانب اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جو بھی کافروں کی طرف سے لڑے اسکی گردن مار دو..... آپ خود سے سوال کیجئے..... اپنا ایمان جانچنے کے لئے..... اٹھی ہوئی تلوار کے سامنے وہ ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے..... ناراض نہ ہوئیے..... دل کو، جھنجھوڑ کے پوچھئے..... میں بھی خود سے پوچھتا ہوں..... کہ اے نفاق میں



لت پت دل! اس وقت تیرا کیا رد عمل ہوگا جب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں کوئی ایسا کھڑا ہوگا، جس کو تو پوجا کی حد تک چاہتا ہے؟ اے میرے دوغلے دل! جان کیوں چراتا ہے بتا تو سہی..... تجھے اللہ ہی سب سے محبوب ہیں یا تیرے اندر واقعی ضم کدے آباد ہیں؟

میں جو سر بسجودہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا  
تیرا دل تو ہے ضم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

مؤمن و منافق کا گناہ

عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر یرى ذنوبه كذباب مرّ علیٰ انفه فقال به هلكذا. (صحیح بخاری، رقم: ۲۳۰۸)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا ”مؤمن اپنے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ (گناہ کا پہاڑ) اسکے اوپر گر ہی نہ جائے، اور فاجر (منافق) اپنے گناہ کو اس طرح (بے اعتنائی سے) ٹال دیتا ہے، جیسے مکھی کو جو اسکی ناک کے پاس سے گزرے۔ (بخاری شریف)

فائدہ..... مؤمن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ جبکہ فاجر و منافق گناہ کے بعد کہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کر لیا جو آسمان ٹوٹ پڑے۔ قرآن کریم نے بھی منافقین کی اس بری عادت کو بیان کیا ہے۔ ”واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وارؤوسهم و رأيتهم يصدون وهم مستكبرون“۔

ترجمہ: اور جب ان (منافقین) سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لئے استغفار کر دیں، تو مذاق سے سروں سے اشارے کرتے ہیں، اور آپ انکو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رکتے ہیں۔

منافقین یہ سمجھتے تھے کہ انھوں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جو انکے لئے استغفار کی جائے۔ یہ انکا جہل، خوش فہمی اور انتہائی غفلت تھی کہ انھیں اپنے ایمان کے تباہ ہو جانے کا احساس بھی نہ تھا۔ اس دور میں بھی کتنے ہی ایسے مل جائیں گے جو اللہ سے جنگ کرنے کے باوجود بھی دعوے کرتے ہیں کہ وہ تو پکے سچے مسلمان ہیں انکے لئے بیت اللہ کے دروازے کھلتے ہیں۔

قسم اس ذات کی جو بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کے دلوں سے واقف ہے! وہ شخص

کیسے مؤمن ہو سکتا ہے جو اسلامی احکامات کا مذاق اڑائے، گمراہی کی سرپرستی کرے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مل کر بے گناہ مسلمانوں کا خون بہائے۔

نفاق کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے خوف کا یہ عالم تھا تو ہم سیاہ کار کس زمرے میں آتے ہیں۔ جو کفر کی بالادستی بھی قبول کر لیتے ہیں، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی بھرے پیڑوں برداشت کر جاتے ہیں، امت کی بیٹیوں کو زندہ بھسم کر دیا جائے، یا کافر اٹھا کر بیجا میں ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کے بدترین دشمنوں کے اتحادی بن جائیں اور کلمہ گو مسلمانوں کی بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں ہم کپکے سچے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ کبھی اپنے بارے میں نفاق کا خوف تو کیا ہم تو دوسروں کو نفاق کے سرٹیفیکٹ جاری کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم انکو بھی منافق کہہ ڈالتے ہیں جو ایسے وقت میں اسلام کی آبرو بچائے ہوئے ہیں جب لوگوں کی اکثریت اسکو لٹتا ہوا دیکھ کر خاموش ہے اور بہت سے لوٹنے والوں کے اتحادی ہیں۔

بلکہ ہمارا تو اپنے بارے میں ایسا پختہ یقین ہے کہ ہم ایمان کی اعلیٰ چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ نفاق قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اس قدر خوش فہمی اور بے خوفی، گویا اللہ سے طے ہو گیا ہو کہ ہمیں جنت میں داخل کر کے ہی رہے گا۔ آخر کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ لہذا جہنم کی آگ کی کیا مجال جو ہمارے قریب بھی آجائے۔ اس رویہ کی کیا وجہ ہے؟ نفاق سے بے خوفی، تمام بد اعمالیوں کے باوجود اللہ سے لمبی چوڑی امیدیں، کفر کے سودی نظام کے تحت زندگی گزارنے، جھوٹ، حرام کمائی، طاغوت کی پوجا، کفر کی قوت کے سامنے سر جھکانا، جہاد فرض عین ہونے کے باوجود جہاد کا انکار، تاویلیں، بہانے حتیٰ کہ جہاد کرنے والوں کو گالیاں، بددعا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لئے نرم گوشہ اور ہمدردی، جو چاہیں کرتے رہیں، دل میں کوئی خوف نہیں آتا بلکہ ایک سجدہ میں تمام گناہ معاف ہو جانے کا یقین؟

کیا ہمارا ایمان اور رحمت کی امید صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے اعلیٰ درجے کی ہے؟ کیا ہمارے سجدوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ طاقت ہے؟ ہماری تسبیحات، استغفار اور توبہ کیا اس عاشق سے زیادہ موثر ہیں جو شب زفاف میں نئی نیلی دلہن کو چھوڑ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جا پہنچا اور شہید ہو گیا۔ جسکو فرشتوں نے غسل کرایا؟ غسل الملائکہ اپنے بارے میں نفاق سے اتنا ڈرتے، کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلاتے پھرتے تھے 'نافق

حنظلة نافق حنظلة“ حنظله منافق ہو گیا حنظله منافق ہو گیا۔

لیکن آج کے مسلمان ہیں کہ بے خوف، گناہوں پر جری، جو خواہش ہوئی پوری کی، آخرت پر دنیا کو ترجیح، خواہشات پر دین قربان، گناہوں پر دوام، اور ایک استغفار میں سارے گناہ صاف۔ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیا بنا ڈالا؟ یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ برہمن کا ہندو ازم نہیں، کہ سارا سال جو چاہا کیا اور لگا کے ایک ہی غوطے میں یوں پاک ہو گئے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔

اس رویہ کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عرصہ دراز سے میٹھے میٹھے فضائل سن کر شوگر کا مریض ہو گیا ہے۔ وعیدیں سنانے والے بہت کم ہیں۔ کوئی حاذق حکیم ہو جو وعیدوں کے کڑوے شربت سے پھولے ہوئے نفس کی حالت درست کرے۔ معاشرے میں عام ہوتی بیماریوں کا علاج کرے۔ نفس پر ایسی ضربیں لگائے کہ اسکی چولیس ہل کر رہ جائیں۔ اس نفس کو اس کی اوقات کا پتہ چلے۔ پھر کہیں جا کر دل میں خوف پیدا ہوگا۔

منافقین قرآن کی نظر میں

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. (البقرة)  
ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔

يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في  
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. (البقرة)  
ترجمہ: وہ (منافقین) اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ انکے دلوں میں مرض ہے سو اللہ نے انکا مرض اور زیادہ کر دیا، اور انکے لئے دردناک عذاب ہے بسبب اسکے جو وہ تکذیب کرتے ہیں۔

فائدہ..... منافقین خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اگرچہ انھیں اسکا احساس نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفاق انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور اسکو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس روایت میں ہے: حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”ابو درداء رضی اللہ عنہ جب کسی ایسی میت کو دیکھتے جو اچھی حالت میں فوت ہوئی ہوتی، تو کہتے ”اس کو مبارک ہو، کاش! اسکی جگہ میں مر گیا ہوتا“۔ ان سے ام درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟“

انہوں نے جواب دیا ”بیوقوف کیا تمہیں علم ہے کہ (ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ) آدمی صبح کے وقت مؤمن ہوگا اور شام کو منافق ہو جائے گا؟“ ام درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ”اسکا ایمان سلب ہو جائے گا اور اسکو احساس تک نہ ہوگا۔ (اسلئے) میں نماز اور روزوں میں باقی رہنے کے بجائے ایسی (اچھی) موت کی زیادہ تمنا کرتا ہوں۔“ (صفة النفاق و ذم المنافقین للفریابی)

کافر حکمرانوں سے ملاقاتیں

واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الي شيطينهم قالوا انامعكم انمانحن مستهزءون (البقرة)..... ترجمہ: اور وہ (منافقین) جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں اپنے (کافر) شیاطین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بلاشبہ ہم تو (ان مسلمانوں) سے مذاق کرتے ہیں۔

فائدہ..... عالم اسلام کا مقتدر طبقہ مسلم عوام کے سامنے کچھ اس طرح کے بیانات دیتا ہے: ”ہم امریکہ کو من مانی نہیں کرنے دینگے“..... ”ہم بیت المقدس کی آزادی کے لئے پرامن کوششیں جاری رکھیں گے“..... ”ہم اپنی سرزمین اپنے افغان بھائیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینگے“..... ہم بھارت کو اپنے دریاؤں پر ڈیم نہیں بنانے دینگے“..... ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دینگے“..... ”امریکہ کو ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دی“..... ”ہم مسلمان ہیں“..... ”اپنے ملک میں غیر ملکی افواج ہرگز برداشت نہیں کر سکتے“..... ”کشمیریوں کے خون سے کسی کو سودا نہیں کرنے دینگے“..... ”ہم پکے سچے مسلمان ہیں“.....

لیکن جب یہی طبقہ بھارت یا امریکہ کے شیطانوں سے ملاقات کرتا ہے تو یوں کہتا ہے ”ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہماری قوم بیوقوف، ناسمجھ اور جذباتی ہے، لہذا انکو بیوقوف بنانے کے لئے ایسے بیانات دیدیتے ہیں“.....

جہاد کے خلاف بولنے میں احتیاط کیجئے

ويلعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواهم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتنون. الذين قالوا لآخوانهم وقعدوا الواطعون انا ما قتلوا اقل فادراء و اعن انفسكم الموت ان كنتم صدقين (آل عمران ۱۶۷، ۱۶۸)

ترجمہ: اور تاکہ جان لے انکو جو منافق ہو گئے، اور ان سے کہا گیا آؤ! قتال کرو اللہ کے

راستے میں یا دفاع کرو، کہنے لگے اگر ہمیں قتال کا علم ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، وہ (منافقین) اس دن ایمان کے مقابلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنی منہ سے ایسی بات کرتے ہیں جو انکے دلوں میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور (جہاد سے) بیٹھے رہے، اگر یہ (مجاہدین) ہماری بات مان لیتے (یعنی قتال کے لئے نہ جاتے) تو قتل نہ کئے جاتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو روک کر دکھاؤ۔

فائدہ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ منافقین قتال نہ ہونے کا امکان ظاہر کر کے راستے سے واپس لوٹ آئے۔ لیکن آج کے دور میں تو لوگ کفار سے قتال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسکے باوجود قتال کے لئے مجاہدین کے ساتھ نہ نکلتے ہیں اور نہ ہی انکی مدد کرتے ہیں۔

کافروں کو دوست بنانے والوں کے لئے دردناک عذاب

بشر المنافقين بان لهم عذابا الیما. الذین یتخذون الکافرین اؤلیاء من

دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فان العزة لله جمیعا. (النساء ۱۳۹)

ترجمہ: (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، جو مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، سو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے۔

الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکم معکم وان کان

للكفرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ومنعکم من المؤمنین. (النساء ۱۴۱)

ترجمہ: جو لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی جانب سے فتح مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو (کافروں سے) کہتے ہیں کیا ہم (مسلمان) تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا تھا۔

منافقین کافروں کو دوست کیوں بناتے ہیں

فتری الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم بقولون نخشی ان تصیبا

دائرة فعسی اللہ ان یاتنی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی

انفسہم ندمین (المائدہ ۵۲)

ترجمہ: تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کافروں کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر آفت نہ آجائے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ فتح دیدیں، یا اپنی جانب سے فیصلہ فرمادیں جسکے نتیجے میں وہ (منافقین) شرمندہ ہو جائیں اس بات پر جس کو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔

فائدہ..... علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”یہ منافقین کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہود و نصاریٰ کو دوست بناتے تھے اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہود یا نصاریٰ یا مشرکین کی آفت ہم پر نہ ٹوٹ پڑے۔“ (تفسیر طبری) کافروں کے پاس اسلئے جاتے ہیں کہ کافروں کی طرف سے کوئی مصیبت ان پر نہ ٹوٹ پڑے۔ اگر کافروں کا ساتھ نہیں دینگے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔

کافروں کو دوست بنانے والے انہی جیسے ہیں

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ الطحاوی میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت کا یہ عقیدہ ہے: و نحب اهل العدل والامانة و نبغض اهل الجور والخيانة. ترجمہ: اور ہم (یعنی اہل سنت و الجماعت) انصاف کرنے والوں اور امانت داروں سے محبت کرتے ہیں اور ظالموں اور خائنوں سے بغض رکھتے ہیں۔ (عقیدۃ الطحاوی) ارشادِ ربانی ہے: یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم

اولیاء بعض. و من یتولہم منکم فانه منہم (المائدہ ۵۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا بیشک وہ انہی میں سے ہوگا۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیریوں فرماتے ہیں: اور جس نے مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصاریٰ کو دوست بنایا تو بلاشبہ وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے انہیں دوست بنایا اور مسلمانوں کے مقابلے میں انکی مدد کی تو وہ انہی (یہود و نصاریٰ) کے دین والوں اور ملت والوں میں شمار ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی کسی کو دوست بناتا ہے تو وہ اپنے دوست اور اسکے دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس دین سے اسکا دوست راضی ہوتا ہے وہ اسکے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب یہ (مسلمان) اپنے (یہودی یا عیسائی یا کسی بھی کافر) دوست اور اسکے دین سے راضی ہے تو جو اسکے دوست اور اسکے دوست کے دین کا دشمن ہوگا یہ بھی اس کا مخالف ہوگا۔ اس طرح اسکا اور اسکے دوست کافر کا ایک ہی حکم

ہو گیا، پھر یہ حکم ترک مولاۃ قیامت تک باقی ہے۔ (تفسیر طبری، ج: ۶، ص: ۲۷۷)

ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا اور انکے فیصلے سے زیادہ اچھا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے یہود و نصاریٰ کو دوست بنایا وہ انہی میں سے ہے۔ سو جب نص قرآنی سے یہود و نصاریٰ کے دوست انہی میں سے ہیں تو ان دوستوں کا حکم بھی ان یہود و نصاریٰ جیسا ہی ہوگا۔ (احکام اہل الذمۃ)

اسکے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جن میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ کفار کو دوست بنائیں۔ حتیٰ کے والدین تک سے روک دیا گیا اگر وہ ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کرتے ہوں۔ ارشاد ہے: یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فالذک ہم الظالمون..... ترجمہ: ایمان والو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کرتے ہوں۔ تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہی ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔

امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ کافروں کو دوست بنائیں، یا انکی مدد کریں، یا ان سے مدد لیں یا اپنے معاملات انکے سپرد کریں۔ نیز یہ حکم ہے کہ کافروں سے برأت اور تعظیم و اکرام چھوڑنا واجب ہے۔ خواہ وہ کافر اپنے ماں باپ ہوں یا اسکے بھائی بہن، البتہ کافر والدین کے ساتھ احسان اور اچھی طرح رہنے کا حکم ہے۔ اس (ترک مولاۃ) کا مسلمانوں کو حکم اسلئے کیا گیا ہے تاکہ وہ منافقین سے الگ ہو جائیں کیونکہ منافقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں اور جب ان سے ملتے ہیں تو انکے لئے عزت و تعظیم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دوستی و تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ (احکام القرآن للجصاص، ج: ۴، ص: ۲۷۸)

دوسری جگہ کافروں کو دوست بنانے سے متعلق ارشادِ باری ہے:

لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یتفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیئی الا ان تتقوا منهم تقاة ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر۔ (آل عمران: ۲۸)

ترجمہ: مؤمن کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے علاوہ۔ اور جس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں الایتم اندیشہ کرتے ہو کسی بات کا ان سے اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتے ہیں۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”ای من ولایتہ شیسی من الاشیاء بل هو منسلخ عنہ بكل حال (فتح القدیر) یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ مکمل خارج ہو چکا۔

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فقد بری من اللہ وبری اللہ منہ بار تدادہ عن دینہ و دخولہ فی الکفر . جس نے ایسا کیا تو وہ اللہ سے بری اور اللہ اس سے بری ہے۔ اسکے دین سے پھر جانے اور کفر میں داخل ہو جانے کی وجہ سے۔ (تفسیر طبری)

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر روح المعانی میں من دون المؤمنین کی تشریح یوں کی ہے ”یا اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی دوستی کے اصل حقدار مسلمان ہی ہیں اور مسلمانوں کی دوستی متضاد ہے کافروں کی دوستی کے..... اس میں اشارہ ہے کہ کافروں کی دوستی مسلمانوں کی دوستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔“ (روح المعانی)

مسلمانوں کے قاتل، بتوں کے پجاریوں کو دوست بنانے والے  
عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام فیقولون من خیر البریة یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیة یعدون اهل الاوثان ویقتلون اهل الاسلام فمن لقیهم فلیقتلهم فان فی قتلهم اجرا لمن قتلهم یوم القیامة . (بخاری کتاب المناقب حدیث ۳۶۱۱۔ و کتاب فضائل القرآن ۵۰۵۔ و کتاب استنباط المریدین ۶۹۳۰، و رواہ ابو عمر الدانی ۲۸۰۔)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو کم عمر، کم عقل ہوں گے۔ وہ سنت کے بات کریں گے۔ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔ بتوں کے پجاریوں کو بلائیں گے اور اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ سو جو ان کو پالے ان کو قتل کرے کیونکہ ان کے قتل میں قتل کرنے والے کے لئے قیامت تک اجر ہے۔

منافق سب کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں

فما لکم فی المنافقین فتین واللہ ارکسہم بما کسبوا التریدون ان تہدوا من

اضل اللہ ومن یضل اللہ فلن تجد له سبیل (النساء ۸۸)



ترجمہ: تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہوئے جاتے ہو، حالانکہ اللہ نے انکو لوٹا دیا ہے بسبب انکے کرتوتوں کے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت پے لے آؤ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو آپ اس کے لئے ہرگز راستہ نہیں پائیں گے۔

ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فان تولوا فخذوہم و اقلوہم حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا (النساء ۸۹)

ترجمہ: ان (منافقین) کی دلی خواہش ہے کہ تم بھی کفر کر بیٹھو جیسے انھوں نے کفر کیا، سو تم برابر ہو جاؤ، لہذا تم ان کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر آئیں، پس اگر وہ باز نہ آئیں، تو ان کو پکڑو، اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور انکو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔

فائدہ..... امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کلمہ گو تھے لیکن مسلمانوں کے مقابلے کفار مکہ کی مدد کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ سے آئے۔ مسلمانوں سے انکا سامنا ہو گیا۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ان خبیثوں کی جانب چلو اور انکو قتل کر دو کیونکہ یہ ہمارے مقابلے ہمارے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سن کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کر دو گے جو تمہاری طرح کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا صرف اس وجہ سے انکی جان و مال کو حلال کر لو گے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا؟“

اس طرح اہل ایمان ان لوگوں کے بارے میں دورائے ہو گئے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمادیا کہ یہ منافق ہیں۔ اگر یہ باز نہیں آتے تو جہاں پاؤ انکو قتل کرو۔ یہ شری لوگ ہیں۔ انکی دلی خواہش ہے کہ تم بھی انکی طرح کفر کر بیٹھو۔ (تفسیر طبری)

ان منافقین کی دلی خواہش ہے کہ سچے مسلمان بھی ان جیسے ہو جائیں۔ کوئی ”ماڈریٹ“ تو کوئی ”روشن خیال“، کوئی ”عقلیت پسند (Rationalist)“ ہے۔ ان سب کی کوشش ہے کہ ان منافقین کا دین پھیلا یا جائے۔ جو انکا دین پھیلائے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ اس کوئی وی چیئلز پر بلایا جاتا ہے۔ لیکن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جانب لوگوں کو بلائے، جس میں جہاد بھی ہو، وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس وقت انکا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے اور تحمل بھی۔ رواداری اور برداشت قریب بھی نہیں آتی۔

## اللہ پر توکل اور منافقین

اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن

يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم (انفال ۴۹)

ترجمہ: جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ بھی جنکے دلوں میں مرض ہے، کہ ان (مسلمانوں) کو تو انکے دین نے مست بنا دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے بیشک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

فائدہ..... طالبان کی پسپائی کے وقت کے اخبارات اٹھا کر دیکھئے، لکھنے والے طالبان کے بارے میں کیا کیا لکھتے تھے۔ یہ امریکہ سے لڑنے چلے تھے۔ مدرسوں کے ”ملا“، جنھیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں، یہ وقت کی ”مہذب، ترقی یافتہ اور جدید ٹیکنالوجی کی مالک قوت“ کا مقابلہ کریں گے۔ وہ کہتے تھے، ”یہ کیسا اسلام ہے، ان طالبان نے اسلام کی غلط تشریح کی ہے، انکو پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں کتنی چلک ہے، یہ امریکہ سے کیسے لڑ سکتے ہیں۔“ لیکن ان منافقوں کو معلوم نہیں کہ جو تیاری کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں نکلتے ہوں، دنیا کی ساری طاقتیں انکے پیروں کی ٹھوک پر ہوتی ہیں۔ آج وہی امریکہ ہے جس کی خدائی سے ہمارے حکمران اس قوم کو ڈراتے تھے، وہی امریکی کمانڈوز، امریکی میرینز،... انکی کھوپڑیاں ہیں جو ان ملاؤں کی ٹھوکروں پر لڑھکتی پھرتی ہیں۔ اس وحشی، ابلہ سی اور مرتخ پر کمندیں ڈالنے والی تہذیب کے درندوں کی لاشیں کئی کئی دن گدھ نوچتے رہتے ہیں، اٹھانے والے بھی اب اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں۔ لیکن جنکے دلوں میں کھوٹ ہے وہ اب بھی نہیں سمجھیں گے۔

منافقین مسلمانوں سے الگ ہیں

ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون (التوبة ۵۶)

ترجمہ: اور وہ (منافقین) اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ الگ قوم ہیں۔

جہاد کا مذاق اڑانے والے منافق ہیں

ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نحوض ونلعب قل اباللہ و آياته ورسوله كنتم

تستهزءون (التوبة ۶۵)

ترجمہ: اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم ویسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کو کہہ دیجئے کیا تم اللہ، اسکی آیات اور اسکے رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔

ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے جا رہے تھے۔ کچھ منافقین بھی ساتھ تھے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے واہ جی واہ! اس آدمی (محمد) کو دیکھو یہ شام کے محلات و قلعے فتح کرنے چلا ہے۔ اس بات کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے۔ منافقوں نے کہا: ہاں تو ویسے ہی ہنسی مذاق میں کہہ رہے تھے۔ آج کے منافقین بھی مجاہدین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایسی ہی باتیں کہتے ہیں ”ان مولویوں کو دیکھو! یہ دہلی فتح کریں گے..... لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے..... انکو دیکھو! یہ واشنگٹن فتح کرنے نکلے ہیں۔“

جہاد کے ذکر پر منافقین کا ردِ عمل

ويقول الذين امنوا لو لا نزلت سورة فاذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم (محمد ۲۰)

ترجمہ: اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں اترتی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت اتاری گئی جس میں قتال کا ذکر ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے ان پر غشی طاری ہو موت کی، سوانکے لئے بہتر ہے۔ (اطاعت و فرمان برداری)

فائدہ..... امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ سورت جس میں قتال کا ذکر ہو وہ سورۃ حکمت ہے۔ اور یہ جہادی سورتیں منافقین پر سارے قرآن میں سب سے سخت ہیں۔ (تفسیر طبری) ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ اپنے اندر جھانک جھانک کر دیکھتا رہے کہ کوئی ایسی بیماری اس میں سرایت تو نہیں کر گئی جسکو قرآن نے منافقین کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے؟ سوچیں! کہیں جہاد و قتال سن کر یہی حالت تو نہیں ہو جاتی؟

افلا يتندرون القرآن ام على قلوب اقفالها (محمد ۲۴)  
ترجمہ: کیا وہ (منافقین) قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا انکے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔

اتحادی کافروں سے منافقین کی قسمیں وعدے  
الم تر الى الذين ناقوا يقولون لآخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب

لئن اخرجتم لئخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ایدا وان قوتلتم لننصرنکم  
والله یشہد انہم لکذبون (الحشر ۱۱) لئن اخرجوا لا یخرجون معہم ولئن  
قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصر وہم لیولن الابدبار ثم لا ینصرون (الحشر ۱۲)

ترجمہ: (اے نبی) کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں  
سے کہتے ہیں، اگر تم جلا وطن کئے گئے تو اللہ کی قسم ہم بھی تمہارے ساتھ وطن چھوڑ دینگے، اور  
تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو بخدا ہم  
تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ (منافقین) جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اہل  
کتاب کافروں کو جلا وطن کیا گیا تو یہ انکے ساتھ وطن نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی  
تو یہ انکی مدد نہیں کریں گے، اور بفرض حال اگر مدد کی بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہونگے، پھر  
انکی مدد نہیں کی جائے گی۔

خوش نما باتوں سے دھوکہ نہ کھائیے

واذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وان یقولوا تسمع لقولہم کانہم خشب

مسندۃ (المنافقون ۴)

ترجمہ: جب آپ انھیں دیکھیں تو انکے جسم آ پکو خوشنما معلوم ہوں، وہ جب باتیں کرنے  
لگیں تو آپ انکی باتوں پر کان لگالیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئی۔

یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما وہم جہنم وبئس

المصیر (التحریم ۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! کافروں اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور انکا ٹھکانہ  
جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔



## جادو کا فتنہ

روئے زمین پر جاری اس خیر و شر کے معرکے میں شرکی تمام قوتیں، خیر کو مٹا کر، شر کے غلبے کے لئے کوشاں رہی ہیں۔ اس معرکے میں ابلیس کو اسکے تمام شیاطین (جنات، شیاطین انسان، بشمول منافقین) کی مدد حاصل رہی ہے۔ شرکی قوتیں ہر طرح کے مادی اسباب کے ساتھ ساتھ شیطانی حربے بھی استعمال کرتی رہی ہیں۔ ان شیطانی حربوں میں جادو کو بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمن یہود نے، اللہ کی تعلیمات کے بجائے ابلیس کی تعلیمات کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ خیر کا علم چھوڑ کر انھوں نے شیطانی علم حاصل کرنی کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينِ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ (البقرة)** ترجمہ: وہ یہود اس چیز کے پیچھے پڑے جو شیاطین، سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔

یہود نے اس جادو کو سیکھا اور ہر دور میں خیر کی قوتوں کو اس کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان اللہ کے دشمنوں نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو قتل کر کے ختم کرنا چاہا، وہیں اپنے جادو کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔

ایک یہودی لبید ابن اعصم نے، اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چھ ماہ سخت تکلیف میں رہے۔ اس واقعہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے:

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سحر حتی کان یری أنه یاتی النساء ولا یتبهن قال سفیان هذا اشد ما یكون من السحرا اذا كان کذا فقال ”یا عائشة اعلمت أن الله قد افتانی فیما استفتیتہ فیہ اتانی رجلان فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی فقال الذی عند رأسی لآخر ما بال الرجل قال مطوب قال ومن طبه قال لبید بن اعصم رجل من بنی زریق حلیف لیهود کان منافقا قال وفیم قال فی مشط و مشاققة قال وابن قال فی جف طلعة ذکر تحت رعوقة فی بئر ذروان“ قالت فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم البئر حتی استخرجه فقال ”هذا البئر التی اربتها وکان ماؤها نقاعة الحناء، وکان نخلها رؤوس الشیاطین“ قال فاستخرج قالت فقلت افلا ای تنشرت فقال ”اما والله فقد شفانی واکره ان اثیر علی احد من الناس شرا“ (الصحیح البخاری، باب السحر)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ (اتناخت جادوتھا) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس آئے ہیں، حالانکہ آتے نہیں تھے (راوی سفیان کہتے ہیں کہ یہ صورت حال سخت ترین جادو میں ہوتی ہے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے عائشہ! کیا تمہیں علم ہے کہ جس مسئلے میں، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے باخبر کر دیا ہے۔ رات خواب میں میرے پاس دو شخص آئے۔ ایک میرے سر کی جانب اور دوسرا میرے پیروں کی جانب بیٹھ گیا۔ میرے سر کی طرف جو بیٹھا ہوا تھا اس نے پیر کی طرف والے سے کہا ”ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا، جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، انکو کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے بتایا لبید ابن اعصم نے، جس کا تعلق بنی زریق قبیلے سے ہے، منافق ہے اور یہود کا حلیف ہے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے کہا سر کے بالوں اور گتکھی میں۔ پہلے نے پوچھا کہاں رکھا ہے؟ دوسرا بولا بنو ذروان کے کنویں میں، پتھر کی چٹان تلے، تر کھجور کے درخت کی چھال میں“۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر آئے اس کو نکال لیا۔ پھر فرمایا ”یہ وہی کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا گویا اس کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا گدلا پانی۔ اور وہاں کھجور کے درخت شیطانوں کے سر کے مانند تھے۔“ میں نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ان سے بدلہ لینا چاہئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے تو شفا دیدی اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک یہودی اس جادو کو مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتے آرہے ہیں۔ وہ اسکو مسلمانوں کے خلاف انفرادی سطح پر بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور اجتماعی یعنی امت کی سطح پر بھی۔

علماء حق پر جادو کرنا

ہندو اور یہودی دونوں علماء حق پر جادو کرتے ہیں۔ تاکہ ان کو جسمانی یا ذہنی طور پر مفلوج کر دیا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کئی بزرگوں پر دین دشمنوں کی جانب سے سحر کیا گیا ہے۔ ساحروں کی یلغار اور جرأت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ علماء پر انکی مساجد میں آکر جادو کا حملہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ہمارے ایک محترم مفتی صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آچکا ہے۔ مفتی صاحب اپنی مسجد میں ذکر میں مشغول تھے کہ ایک اجنبی آیا اور مفتی صاحب کے سامنے آکر بیٹھ گیا، سب سے پہلے اس اجنبی نے پوری مسجد کی نظر بندی کر دی، پھر مفتی صاحب کو انکا نام اور مسجد کا نام بتایا اور کہا کہ میں بغداد سے آیا ہوں، اس نے اپنی باطنی تصرف سے مفتی صاحب کے دل پر حملہ کیا اور کہا کہ میں (نعوذ باللہ) تمہارا نبی ہوں اور تمہیں نوازنے کے لئے آیا ہوں، مفتی صاحب نے درود شریف کا ورد شروع کیا لیکن اس جادوگر نے بری طرح مفتی صاحب کے دل پر حملہ کیا تھا، وہ خود کو یہ ثابت کر رہا تھا کہ میں تمہیں نوازنے کے لئے آیا ہوں، کافی دیر تک مفتی صاحب کے دل کی کیفیت عجیب و غریب رہی۔ مفتی صاحب مسلسل درود شریف کا ذکر فرما رہے لیکن دل کی وہ کیفیت نہیں تھی جو عام حالت میں ذکر کرتے وقت ہوتی تھی، صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص اپنے جادو سے باطنی طور پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تین دن تک رہا اور تین دن تک مسلسل تصرف قلبی کے ذریعے انکے عقیدے کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسکی حقیقت کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ وہ اسرائیل سے آیا تھا۔ اسکے سحر کے اثرات مفتی صاحب کے گھر میں بھی ہوئے، حتیٰ کہ اس ظالم نے اس سودے پر بھی سحر کیا ہوا تھا جو دکان سے خرید کر لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائیں۔

دلوں میں پھوٹ ڈالنا..... جادو سے دلوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں۔

ذہنوں کو قابو میں کرنا..... شہروں میں اس وقت جادو کے حوالے سے بہت بری صورت حال ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور کوٹہ، پشاور وغیرہ میں جادو سیکھے سکھانے اور رشتہ داروں پر کرنے کا عمل بہت زیادہ ہے۔ کراچی میں ایک ڈاکٹر ہے جو جادو سکھانے کی ایک کلاس کے پندرہ ہزار

روپے فیس لے رہا ہے۔ یہ کلاسیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں منعقد ہوتی ہیں۔ پہلے موسیقی سنائی جاتی ہے، پھر حاضرین کو مراقبے (Meditation) میں لیجا یا جاتا ہے، اسکے بعد کسی کے بھی ذہن کو اپنے قابو میں کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ خالص شیطانی عمل ہے، موسیقی کے ذریعے شیطین آتے ہیں اور پھر یہ شیطین انکے لئے کام کرتے ہیں۔

شیطانی اثرات کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں بے برکتی، مختلف نشانات، مثلاً ستارے، لہر کا نشان، سانپ سیڑھی، کتے، سورا اور گائے کے کارٹون وغیرہ پر جادو کر کے مسلمانوں کے گھروں میں داخل کر دیتے ہیں۔

میاں بیوی میں تفریق..... اسکے لئے یہود و ہنود مستقل سفلیات سے کام لے رہے ہیں۔





## جادو کی اقسام

جادو کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو صرف تخیل، شعبدہ بازی اور نظر بندی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری قسم وہ ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، احناف، شوافع اور حنابلہ کی رائے کے مطابق اسکے اثرات انسانی جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑے یہودی جادوگر

یہودیوں کے ہاں روحانیت سے متعلق علوم کو ”کبالہ“ (Kabbalah) کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ روحانیت وہ نہیں جس کا تصور اسلام میں ہے۔ یہودیوں کی روحانیت کا بڑا حصہ شیطانیت، سفلیات اور جادو سے متعلق ہے۔ کبالہ وہ علم ہے جس میں انسانی ذہن کو قبضے میں کرنے کے تمام طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، برقیاتی لہروں (Electronic Waves) کے ذریعے، ہینائزم اور ٹیلی پیٹھی کے ذریعے۔

کبالہ کی حقیقت یہودی مذہبی پیشواؤں ہی کو معلوم ہے۔ دیگر قوموں سے اس کو چھپانے کے لئے انھوں نے اس علم کے کئی اور ہم نام، دنیا میں متعارف کرائے ہیں۔ مثلاً ”قبکہ“ ”قبالہ“ وغیرہ۔ ان میں سے کونسا حقیقت ہے اس کا جاننا خاصا مشکل کام ہے۔

یہودیوں میں ایک سے بڑا ایک جادوگر رہا ہے۔ انھوں نے اس شیطانی عمل کے ذریعے مسلمانوں کے اندر مختلف فتنے پھیلائے ہیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان یلغاروں سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی حفاظت کے بندوبست کریں تاکہ اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نامراد ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذہنی غلامی میں مبتلاء ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات کو صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اسلام دشمن قوتیں ہمیں دکھانا چاہتی ہیں، جسکی وجہ سے ان حادثات سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہم الٹے فکری گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ذیل میں جن افراد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ سب وہ ہیں جو ظاہراً کچھ اور تھے جبکہ حقیقت میں کچھ اور۔ ہمیں چاہئے کہ دین کے دشمنوں سے ہوشیار

رہیں خواہ وہ کہیں بھی چھپے ہوں۔ ان پر اسرار شخصیات میں چند نام یہ ہیں:

1 ابو عیسیٰ اصفہانی..... یہ آٹھویں صدی عیسوی کے اوائل میں تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ خلافت بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں کی باہمی خون ریزی اسی کے باطنی تصرفات کا نتیجہ تھی۔

2 ابراہیم ابوالعافیہ..... یہ اندلس کے ایک متمول گھرانے کا فرد تھا۔ اسکی پیدائش ۱۲۴۰ء میں ہوئی۔ ۱۲۷۸ء میں بیت المقدس سے واپس آ کر اس نے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کیا۔ یہ اس قدر باطنی قوتوں کا مالک تھا کہ اس نے اپنے جادو کے زور سے، عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا، پوپ نکولس سوم کو تصرف قلبی سے یہودی بنانے کی کوشش کی۔ پوپ نکولس کو جب اسکی سازش کا علم ہوا تو اس نے اس پر، اپنے فتوے کے ذریعے لعنت کی اور اسے موت کی سزا کا حکم سنایا۔ قبل اسکے کہ ابراہیم ابوالعافیہ کو پھانسی ہوتی پوپ نکولس خود تیسرے دن مر گیا۔ بعد میں عیسائی عدالت نے اسکو زندہ نذر آتش کرنا چاہا تو اس نے سزا دینے والے پورے عملے کو بشمول ججوں کے مسحور کر دیا۔ وہ اسے سزا دینے میں ناکام رہے۔

3 عاشر لیملن..... یہ سولہویں صدی میں اپنے باطنی تصرفات سے خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسکا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے بیت المقدس واپس دلوائے گا۔

4 سباتائی زیوی (1626-1676)..... سباتائی زیوی (Sabbatai Zevi) ۱۶۲۶ء میں سمرنا (موجودہ ازمیر) (ترکی) میں، ایک تاجر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ یورپ کی دو بڑی تاجر تنظیموں کا نمائندہ تھا۔ یہ خود بھی کامیاب تاجر تھا۔ عربی اور عبرانی زبان کا بڑا عالم تھا۔ نیز یہ کبالہ (Kabbalah) کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ یہودی اسکو بڑا زاہد و عابد تصور کرتے۔ ۱۶۴۸ء میں اس نے اپنے نبی (مسیح) ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسکی شہرت اس وقت دنیا میں پھیل گئی جب مصر جا کر اس نے پولینڈ کی ایک خانہ بدوش، یہودی فاحشہ عورت سے شادی کر لی۔ اس خبر نے تمام دنیا کے یہودیوں میں کہرام مچا دیا۔ کسی عابد و زاہد یہودی عالم کا، خانہ بدوش فاحشہ یہودن سے شادی کرنا یہودیوں کے ہاں اگلے مسیح کی نشانی تھی۔ چنانچہ وہ ”مسیح“ جسکا انھیں انتظار تھا، فاحشہ یہودن سے شادی کر چکا تھا۔ اس لڑکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے ساتھ ”مسیح“ کے علاوہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ لہذا خدا نے اسکو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسیح کے آنے تک جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کرتی رہی۔ (موسوعۃ الیہود و الیہودیہ، از عبدالوہاب المسیری) (اللہ کی لعنت ہو اس مسیح دجال پر جسکی بیوی ایک زانیہ فاحشہ ہوگی)

سباتائی زیوی نے یہودیوں کو تمام مذہبی قیدوں سے آزاد کر دیا اور تمام شریعت کو ختم کرنے

کا اعلان کیا۔ سباتائی زوی یہودی تاریخ کا ایسا نام ہے، جس نے یہودیت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور ایک نئی تحریک، جو تمام مذہبی قید و پابندیوں سے آزاد تھی، کی بنیاد ڈالی۔ دور جدید کی صیہونی تحریک جسکو تھیوڈر ہرزل (1860-1904) نے قائم کیا درحقیقت اسکی بنیاد سباتائی نے ہی رکھی تھی۔ خود ہرزل سباتائی کا عقیدت مند تھا۔

**5** یعقوب فرینک 1726-1791..... یعقوب فرینک (Jacob Frank) کی پیدائش ۱۷۲۶ء میں یوکرین میں ہوئی۔ یہ بھی غیر معمولی روحانی قوتوں کا مالک تھا۔ یوکرین سے ترک وطن کر کے ترکی آگیا اور ”دوئمہ“ کا رکن بن گیا۔ دوئمہ یہودی روحانی قوتوں کے اکابرین کی وہ جماعت ہے جو جادوئی تصرفات کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی روحانی اکابرین تھے جو انیسویں صدی کے اواخر میں خلیفہ عبدالمجید ثانی کے پاس فلسطین کی خریداری کا سودا کرنے کے لئے گئے تھے۔ اس وفد کا سربراہ قرہ صوہ آفندی تھا۔ یہ آفندی ننگ ملت، ننگ دین، اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کا مربی تھا۔ اور یہی آفندی تھا جو خلیفہ کے پاس خلافت کے خاتمے کا پروانہ لے کر گیا تھا۔

یعقوب فرینک وہ یہودی ہے جس نے عالم یہودیت کے لئے جھنسی آزادی کو بنیادی دینی شعار قرار دیا۔ اس نے مجازی جھنسی صورت میں، خدا کو پانے کا طریقہ بتایا۔ اس نے خدا کے قرب اور اس تک ترقی کا راستہ یہ بتلایا کہ انسان جتنا پستیوں میں گرے گا، جتنا شریعت کے دامن کو تار تار کرے گا اتنا ہی خدا کا مقرب ہوتا جائے گا۔ (موسوعۃ الیہود و الیہودیت)

**6** سعیدارمنی..... اس کو تاریخ میں سرد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عالمگیر اور نگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا۔ اسکو باطنی تصرفات کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ۱۶۵۹ء میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو موت کی سزا دیدی۔

**7** اسرائیل بن ایلی زر (1700-1760)..... اسکو بعل شیم توو (Baal Shem Tov) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی روحانی تحریک صید ازم (Hasidism) کا بانی ہے۔ اسکی پیدائش ۱۷۰۰ء میں یوکرین میں ہوئی۔ یہ بے پناہ ماطنی قوتوں کا مالک تھا۔ چھو کر سخت بیماروں کو اچھا کر دیا کرتا، پانی پر چلتا، نگاہیں ڈال کر درختوں اور جنگلوں کو آگ لگا کر جھلسا دیتا۔ جادو کے ذریعے غیر معمولی کام کر دیا کرتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ براہ راست خدا سے رابطے میں ہے۔ اور اسکی سفارش عذاب میں پڑے یہودیوں کو نجات دلاتی ہے۔ اسکی ساری کوششیں خلافت عثمانیہ کو اپنے جادوئی تصرفات سے ختم کرنے کے لئے تھیں۔ نیز یہود کو بھی اس

نے بہت فائدہ پہنچایا۔ جبکہ اسکے مخالفین اس پر عورتوں کا رسوا اور شہوتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسکے قصے جو تو اتر کی حد تک مشہور ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ایک بار ایک نوجوان لڑکی اسکے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اسکے لئے دعا کر رہا تھا۔ دعا کرتے ہوئے ہی یہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ (موسوعۃ الیہود والیہودیہ، ج: ۱۳، ص: ۴۸۹)

یاد رہے کہ یہ تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں بلکہ اس تحریک نے پوری یہودیت کو اپنی پلیٹ میں لیا اور آج بھی بڑی تعداد میں یہودی اس پر عمل پیرا ہیں۔ یہ شراب کا شوقین اور دیگر نشہ آور ادویات کا عادی تھا۔ (ایضاً)

**8** زیوی حرش کلیشر..... زیوی حرش کلیشر (Zevi Hirsch Kalischer) کی پیدائش ۱۷۹۵ء میں ہوئی۔ یہ پولینڈ نژاد تھا اور جرمنی میں ظاہر ہوا۔ صیہون کی واپسی کے لئے مغرب کی تمام یہودی اور غیر یہودی قوتوں کو یکجا کرنے میں اسکے جادوئی تصرفات کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ مشہور یہودی سرمایہ دار منر ایمشل روتھ شلیڈ (۱۷۱۲ء تا ۱۸۳۳ء) (Meyer Amschel Rothschild) کو بھی اسی نے اس مشن میں لگایا۔ خلافتِ عثمانیہ کے خلاف تمام باطنی قوتوں کو جمع کرنا اس کا کارنامہ ہے۔ اسی نے یہودیوں کو یہ ماڈرن تصور دیا کہ ”مسیح“ کی آمد کے لئے خود ہمیں ہی راہ ہموار کرنی ہوگی۔

انکے علاوہ متعدد مشہور یہودی جادوگر تاریخ میں ملتے ہیں جو اس درجے تک پہنچے کہ انھوں نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنے جادوئی تصرفات کو عالم اسلام کے خلاف استعمال کرتے رہے۔



## راک فیلرز..... بے تاج بادشاہ

راک فیلرز (Rocke Fellers) خاندان ظاہر آپسٹ جبکہ اصلاً یہودی اور مسلکاً شیطان کے پیجاری (Satanists) ہیں۔ یہ خاندان ان پانچ کبالہ خاندانوں میں سے ہے جو یہود کے مطابق دجال کی آمد کے وقت اسکے مشیر خاص ہونگے۔ راک فیلرز ہماری اس معلومات سے بھری دنیا میں ہونے کے باوجود، انتہائی پر اسرار، اور پردے کے پیچھے رہ کر اس دنیا کی سیاسی، اقتصادی، عسکری، فلاحی اور مذہبی دنیا کی ڈوریں ہلا رہا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جس کو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں، یہ تجارت، بیڈکاری، فلاحی، ثقافتی تعلیم و صحت اور سائنسی تحقیق سے متعلق ہے، جبکہ ان سب کاموں کی آڑ میں یہودی روحانی (شیطانی) منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر کے شیطان کے نئے مذہب ”نیورلڈ آرڈر“ کو دنیا میں نافذ کرنا اور ”مسیح موعود“ (کانے دجال) کی آمد کے لئے راہ ہموار کرنا ہے۔ نیز باطنی علوم (Mysticism) سے یہود مخالف قوتوں کو تباہ کرنا، ہالی وڈ، عالمی میڈیا اور جادو کے ذریعے دنیا کو اپنی سوچ میں رنگنا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے راستے سے دنیا کی دولت کو اپنے قبضے میں کرنا۔

مختصر الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ خاندان کٹر صیہونی اور دجالی مشن کے لئے خود کو وقف کئے ہوئے ہے۔ دنیا کے سیاسی اسٹیج پر جو ڈرامے آپ مختلف ملکوں میں ہوتے دیکھ رہے ہیں، اسکے پیچھے امریکی حکومت کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن راک فیلرز وہ نام ہے جنکے اشارہ ابرو پر امریکہ کی حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ کوئی بھی صدر اس وقت تک عزت سے وائٹ ہاؤس میں رہ سکتا ہے جب تک انکے لکھے ڈرامے میں، انکی ہدایات کے مطابق اداکاری کرتا رہے۔ لیکن اگر کسی نے ذرا اپنی مرضی سے ڈرامے میں تبدیلی کرنی چاہی، تو پھر ایسے لوگوں کے انجام سے امریکی تاریخ کے اوراق، سرخ و سیاہ نظر آتے ہیں۔ اسکی بڑی واضح مثال سابق امریکی صدر، ابراہیم لنکن (قتل ۱۵ اپریل ۱۸۶۵ء) اور صدر جان ایف کینیڈی (قتل ۲۲ نومبر ۱۹۶۳ء) کا قتل ہے۔ جان ایف کینیڈی کے بھائی اور اسکے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اسکا کچھ احساس سابق صدر بل کلنٹن کو بھی ہے کہ کس طرح وائٹ ہاؤس کے مالکوں نے کلنٹن کی رنگ رلیوں کو دنیا کے سامنے

کھول کر رکھ دیا تھا۔

اس خاندان کو آپ اس دنیا کا بے تاج بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ مبالغہ لگے کیونکہ انکے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ لیکن جو عالمی ادارے اس وقت دنیا کو کنٹرول کئے ہوئے ہیں، یہ ان سب اداروں کے مالک ہیں۔ جی ہاں! یہ لفظ بندے نے درست استعمال کیا ہے۔ سربراہ، چیئر مین، ڈائریکٹر، یا اس جیسے اور الفاظ انکی بے تاج بادشاہت کا مفہوم نہیں ادا کر سکتے۔ یہ خاندان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مالکوں میں سے ہیں، اقوام متحدہ انکے گھر میں بنائی گئی۔ امریکہ اور ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والی ”کاونسل آن فارن ریلیشن (C.F.R.)“ کے بانی یہ ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے، سی آئی اے، میڈیا بشمول ہالی وڈ سے لیکر تمام امریکی اداروں پر سی ایف آر (C.F.R.) یعنی کاونسل برائے خارجہ تعلقات کا کنٹرول ہوتا ہے، نام کے اعتبار سے یہ اگرچہ خارجہ تعلقات سے متعلق ہے لیکن یہی وہ ادارہ ہے جو تمام امریکہ کو چلاتا ہے۔ امریکی صدر سے لیکر خفیہ اداروں تک میں اسکے ممبران جاتے ہیں۔ صدر کسی بھی پارٹی کا ہوسا ایف آر کا ممبر ہونا ضروری ہے۔

اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کے مالک راک فیلرز ہیں۔ جانوروں پر تحقیقات، جراثیمی اور وبائی امراض (خصوصاً ایڈز) پھیلانے کے طریقے، خاندانی منصوبہ بندی، نیشنل جغرافیکا، عالمی ادارہ صحت (W.H.O.)، اور خلائی تحقیقاتی ادارے ”ناسا“ وغیرہ میں راک فیلر انتہائی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اداروں کو انکی جانب سے بڑی رقم فراہم کی جاتی ہے۔ خلائی، عسکری، اور جینیاتی (Genetic) میدانوں میں جدید ٹیکنالوجی انہی کی تجربہ گاہوں سے نکل کر، انہی کی فیکٹریوں میں تیار ہو کر امریکی حکومت کو پہنچی جاتی ہے۔

یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جب ہم کسی ٹیکنالوجی، مثلاً ڈرون طیارے، یا بینک وغیرہ کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ یہ امریکی ہیں تو اسکا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ حکومت امریکہ کی ملکیت ہیں۔ بلکہ یہ ان یہودیوں کی ملکیت ہیں جو وہاں کے چپے چپے کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ راک فیلر پر لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پورا جنوبی امریکہ انکی ملکیت ہے۔ جبکہ امریکی حکومت و عوام انکے قرضوں میں گردن تک دھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بینک کا نام نیشنل بینک، یا فیڈرل ریزرو بینک دیکھیں تو ضروری نہیں کہ وہ اس ملک کا ہی ہو، یا وفاق کا ہو۔ یہودی اسی طرح ناموں کے ذریعے دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے خفیہ دفاتر کے نام مسجدوں کے نام تک پے رکھ لیتے ہیں۔

دنیا کی بڑی اسلحہ ساز فیکٹری کے مالک راک فیلرز ہیں، جنگ عظیم اول (1914-1918) اور جنگ عظیم دوم (1939-1945) دونوں میں اتحادیوں کو تیل اور اسلحہ اسی خاندان کی کمپنیوں نے فراہم کیا۔ ویت نام کی جنگ امریکہ کو لڑوانے والا یہی خاندان تھا، حالانکہ اسکے بعد ہونے والی رپورٹوں کے نتائج تقریباً ایسے ہی تھے جیسے عراق کی جنگ کے بعد خفیہ رپورٹوں کے نتائج تھے۔ دنیا پریشان ہے کہ آخر وہ کون سی اتنی بڑی قوت ہے جس نے سی آئے اے کو غلط اطلاعات فراہم کر دیں اور پھر تمام دنیا کو ان جھوٹی معلومات کی بنیاد پر عراق پر حملے کے لئے تیار بھی کر لیا۔ حالانکہ انکا اپنے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سب کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ لوگ ہش کولن طعن کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ امریکی صدر دنیا کا کمزور ترین صدر ہوتا ہے جسکے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اسکا تو اپنے بیڈروم پر بھی مکمل حق نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی یہودیوں کی آنکھوں (خفیہ کیمروں) کے سامنے ہوتا ہے۔

وسط ایشیائی ریاستوں کے غیور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لئے، روس کے اندر کمیونسٹ انقلاب کے لئے رقم فراہم کرنے والا ڈیوڈ راک فیلر تھا (اسکا ذکر آگے آئے گا)۔

ماڈرن دنیا کی پسند و ناپسند، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کا انداز، غرض مکمل طرز زندگی (Life Style) کیسی ہوگی، اسکا فیصلہ، اس خاندان کی لڑکیاں کرتی ہیں۔ جی ہاں۔ ہالی وڈ کو چلانے والی اسی خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ (مذکورہ تمام حوالے فرڈیننڈ لنڈ برگ کی کتاب "The Rockefeller Syndrome" سے لئے گئے ہیں)

اس خاندان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پردے کے پیچھے رہ کر امریکہ کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس خاندان کی لڑکیوں کی بھی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ کہتی ہیں ہم عام زندگی گذارتی ہیں تاکہ میڈیا کی نظروں سے بچ سکیں اور اگر ہمیں کالج وغیرہ سے واپسی میں کبھی اپنی کار کا انتظار کرنا پڑ جائے تو کسی آڑ میں کھڑی ہوتی ہیں۔

دجال کی میڈیا کا کمال دیکھئے کہ ٹیکس چوروں کو انسان دوست اور فلاحی کام کر نیوالا (Philanthropist) بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کے درآمد شدہ (Imported) وزیر اعظم، شوکت عزیز، پچیس سال اس خاندان کے ملازم رہے ہیں۔

افغانستان پر امریکی حملہ اور قبضہ اس تمام آپریشن کی نگرانی اسی خاندان کا ایک بائیس سالہ نوجوان کر رہا تھا۔ طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے کابل آنے والا یہی نوجوان تھا، جو اپنے ذاتی طیارے سے وہاں پہنچا۔ اس نے مشرقی زبانوں میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات

پھر یاد رہے کہ راک فیلر کا یہ عروج انکی ذاتی محنت سے زیادہ انکو، الویمناتی، شیطانی فرقے اور فریمیسن کی تمام شانوں کے تعاون کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ سرکردہ یہودیوں کا مشن ایک ہے جبکہ میدان کار آپس میں تقسیم ہیں۔ چنانچہ ہر میدان والے اپنی جگہ کام کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فلم ایکٹر، مصنف، شاعر یا ادیب دجالی مشن کے لئے مخلص ہے، تو دنیا بھر کی یہودی خفیہ شاخیں انکے ساتھ تعاون کریں گی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئی مصنف یا ادیب دنیا کے افق پر چھا جائے گا۔

اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح خیر کی قوتوں کے ساتھ دنیا بھر کی خیر کی قوتیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اسکا اعلان فرشتوں میں کرتے ہیں، تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان والے فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں دنیا والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح اہل حق کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام رحمانی قوتیں اسکی حمایت و مدد کے لئے یکجا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ابلیس جس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس سے محبت کا اعلان اپنے خاص چیلوں میں کرتا ہے۔ وہ اس اعلان کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر تمام شیاطین جن وانس اس آدمی کی حمایت میں ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں شاید بہت عجیب لگ رہی ہوں، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پے در پے یلغاروں کے باوجود ہم یہ بات ہی ماننے کے لئے تیار نہیں کہ دنیا میں ہمارا کوئی دشمن بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہود و ہنود اور عیسائی سب ہمارے بھائی۔ ہمیں احساس نہیں کہ ہمارا مقابلہ ایسے دشمن سے ہے، جو دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دے۔

کثیر القومی کمپنیوں (Multi National) کے بارے میں ایک اور بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گذرتا جا رہا ہے مشہور یہودی خاندانوں کی کمپنیاں ایک دوسرے میں ضم (Merge) ہوتی جا رہی ہیں۔ تجارتی دنیا میں اگرچہ یہ ایک کاروباری مسئلہ ہے لیکن جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ بے تاج بادشاہ ہونے کے باوجود آپس کے تعلقات میں ضابطے کے پابند ہیں۔ نیز دجال کے لئے راہ ہموار کرنے کے مشن میں تسلسل کے ساتھ ہر ایک لگا ہوا ہے۔

مثلاً روتھ شیلڈ خاندان کو آپ لے لیجئے، یہ لوگ یورپ، آسٹریلیا پر قبضہ کئے ہوئے ہیں۔ بے پی مارگن بھی عالمی بینکاروں میں کسی سے کم نہیں۔ لیکن مشن کے حوالے سے ان سب میں اتفاق اور یکسوئی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ پیسہ کمانے کی یہودی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی



ہے کہ یہ آپس میں دست و گریباں ہونے چاہئیں۔ خصوصاً ایسے وقت میں جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کو خریدنا چاہتی ہے اور وہ کمپنی بیچنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ پھر بھی کوئی تیسری قوت درمیان میں آتی ہے اور بڑے بڑے معاملات، اتفاق، رائے سے حل ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی بات سے بعض محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان سب کے پیچھے انکا گریڈ ماسٹر (دجال) موجود ہے جو تمام صورت حال کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور انکو اپنے منصوبے کے مطابق چلا رہا ہے۔

راک فیلر خاندان کا اصل پہلو وہ ہے جو انکی مذہبی وابستگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بڑا کردار اس خاندان کی ماں، جان ڈی راک فیلر جوئیر کی بیوی Abby Aldrich Rockefeller کا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت، خالص مذہبی بنیادوں پر کی گئی۔ انکو یہودی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی تمام اقوام سے اعلیٰ ہونے کا تصور ذہنوں میں بٹھایا گیا۔ بچپن سے ہی گھر میں صبح دعائیہ تقریب ہوتی ہے۔ ہر بچے کا اس میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ شریک نہ ہو، یا تاخیر کر دے تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے، جو اسے اپنے جیب خرچ سے بھرنا پڑتا ہے۔ ان بچوں کو اسرائیل کی حفاظت اور وسیع تر اسرائیل کے قیام کی اہمیت بچپن سے ہی سمجھادی جاتی ہے۔

چنانچہ راک فیلر فیملی امریکہ میں ایسی بہت سی تنظیموں کو فنڈ فراہم کرتی ہے جو انکے مسیح موعود کانے دجال (Anti-Christ) کی آمد کے حوالے سے عوام میں کام کر رہی ہیں۔ شیطان کی پوجا کرنے والی جماعت (Sanatist) کے منصوبہ سازوں میں شامل ہیں۔ راک فیلر پر لکھنے والے انگریز مصنفین نے صیہونی خفیہ تنظیم، نورانیین (Illuminati) کے ساتھ انکے گہرے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ درحقیقت یہ خاندان ان پانچ کبالہ خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے جو (انکے خیال کے مطابق) دجال سے براہ راست رابطے میں رہتے ہوئے اور اسکے احکامات کے مطابق دنیا کی سیاسی بساط سے کھیلنے ہوئے۔ چنانچہ نورانیین، کبالہ، فریمیسن کی تمام شاخیں اور دیگر خفیہ صیہونی تنظیمیں ان سب کی سرپرستی راک فیلر وغیرہ کرتے ہیں۔

جان ڈی راک فیلر: راک فیلرز خاندان کا جد امجد جان ڈی راک فیلر، John D. Rockefeller ۱۸۳۹ء میں نیویارک میں پیدا ہوا۔ سولہ سال کی عمر میں یہ منشی لگ گیا۔ ۱۸۶۲ء میں اس نے تیل کا کاروبار شروع کیا۔ اور اسٹینڈرڈ آئل کمپنی (Standard Oil Company) بنائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک منشی، امریکہ بھر کی نوے فیصد آئل ریفائنری کا مالک بن بیٹھا۔

ظاہر نظر سے دیکھیں تو اسکو جان راک فیلر کی محنت، لگن، ذہانت اور قسمت کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اس ترقی میں، دھونس، دھاندلی، بے ایمانی، رشوت، ناجائز کمیشن، حکومت میں یہودی اثر و رسوخ اور سب سے بڑھ کر یہودی سازشی عناصر (جو کہ یہ خود سب سے بڑے ہیں) کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے کچھ بدعنوانی اور ناجائز کمیشن کے معاملات عوام کے سامنے بھی آئے، لیکن راک فیلر آئے دن ترقی ہی کرتا چلا گیا۔

جان ڈی راک فیلر مستقبل میں جن دجالی منصوبوں کو پروان چڑھانا چاہتا تھا، اسکے لئے اس نے چار خیراتی (درحقیقت ڈکیتی کے) ادارے قائم کئے۔ جن میں سے راک فیلر فاؤنڈیشن اور راک فیلر انسٹی ٹیوٹ برائے میڈیکل ریسرچ (موجودہ راک فیلر یونیورسٹی) مشہور ہیں۔

راک فیلر فاؤنڈیشن صرف ایسے مقاصد کے لئے فنڈ فراہم کرتی ہے جو دجالی منصوبوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح راک فیلر یونیورسٹی میں انہی شعبوں میں تحقیق کی جاتی ہے جو آئندہ چل کر دجال کے کام آسکے۔ اس طرح خیراتی اداروں کی آڑ میں اس خاندان نے دنیا بھر میں اپنے بچوں کو مضبوط کیا۔ نیز اپنی بے شمار کالی دولت کو ٹیکس سے مستثنیٰ بھی کر لیا۔ انکی دولت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں، کہ تمام دنیا کا سونا اس وقت آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے قبضے میں ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ دونوں ادارے انہی کے ہیں۔ چنانچہ 1981 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حکومت امریکہ کے خزانے میں کتنا سونا پڑا ہے، تو اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی اور آپکو بھی ہونی چاہئے، کہ امریکی خزانہ سونے سے خالی تھا۔ امریکہ کا اگر یہ حال ہے تو دیگر ممالک کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔

جان ڈی راک فیلر ۲۳ مئی ۱۹۳۷ء کو فلوریڈا (امریکہ) میں موت کے منہ میں چلا گیا۔

جان ڈی راک فیلر جونیر (John D, Rockefeller, junior-1960-1874)

یہ جان ڈی راک فیلر کا بیٹا تھا۔ اس نے نیویارک میں، اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے لئے زمین چندے میں دی۔ اسکے پانچ بیٹے تھے:

1..... جان ڈی راک فیلر سوم (1906-1978)

2..... نیلسن راک فیلر (1908-1979)

3..... لارنس ایس راک فیلر (1910)

4..... ون تھراپ راک فیلر (1912-1973)

ان پانچوں نے الگ الگ شعبوں میں یہودیت کی خدمت کی۔ جان ڈی راک فیملر سوم نے آرٹ کا میدان سنبھالا۔ اس آرٹ نے مسلمان معاشرے میں جو تباہی مچائی ہے اسکے اثرات آپ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح مسلم معاشرہ غیر اسلامی رنگ میں رنگتا جا رہا ہے۔ آرٹس کی دنیا کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو نیشنل کالج آف آرٹس سے مل سکتی ہیں۔ یا وہ این جی اوز جو آرٹ کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ بظاہر معصوم سے نام والا یہ میدان درحقیقت کسی بھی معاشرے کی چولیس ہلا دینے کے لئے یہودی ماہرین نے اختیار کیا ہے۔

نیلسن راک فیملر..... اقوام متحدہ کا بانی

نیلسن راک فیملر نے سیاست کا میدان چنا۔ اس میدان میں ایسے کارنامے انجام دے گیا کہ امریکی اور بین الاقوامی سیاست کو یہودیوں کی لوٹڈی بنا گیا۔ یہ کام اس نے ۱۹۲۱ء میں ”سی ایف آر (C.F.R)“ قائم کر کے کیا۔ اسکے علاوہ اقوام متحدہ کے قیام میں اس کا بنیادی کردار تھا۔ اقوام متحدہ اسکے گھر میں بیٹھ کر بنی۔ اسی نے اقوام متحدہ کے دفاتر کے لئے نیویارک میں جگہ دی۔

نیلسن راک فیملر نے امریکی حکومت میں مختلف شعبوں میں سیکریٹری اور مشیر کے طور پر کام کیا۔ جہاں بیٹھ کر حکومتوں سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لئے اہم شعبوں کو چنا۔ آرٹ کی سرپرستی کی۔ اسقاط حمل (Abortion) کا بل لانے والوں میں اس کا دماغ شامل تھا۔ ڈاکٹر ہنری کیسنجر نے جس میٹنگ میں دنیا کی آبادی کم کرنے کے منصوبے بنائے، نیلسن ایسے تمام منصوبوں کا روح رواں تھا۔

۱۹۶۶ء میں ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر ریاست نیویارک کا گورنر بنا۔ ۱۹۷۴ء میں اسکو امریکہ کے نائب صدر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ ۱۹۷۹ء میں نیویارک میں اس کا انتقال ہوا۔

لارنس راک فیملر

لارنس ایس راک فیملر ۱۹۱۰ء میں نیویارک میں پیدا ہوا۔ اس نے قدرتی وسائل اور میڈیکل ریسرچ کے شعبے کو اختیار کیا۔ ایسے نئے تجارتی میدانوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جنکی بنیاد جدید ٹیکنالوجی پر تھی۔ اس نے ”جزیرہ سینٹ جان“ میں، امریکی حکومت کو پانچ ہزار ایکڑ زمین چندے میں دی۔

جب ہم نیشنل پارک، نیشنل میوزیم، آرٹ اینڈ کلچرل سینٹر جیسے نام سننے میں تو اکثریت کو ان کے نام سے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت ان شعبوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ فریمین اور دیگر صیہونی تنظیمیں، ایسی ہی جگہوں سے دجالی حکومت کے خاکوں میں حقیقت کا رنگ بھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جگہیں وہ نیوکلیئر ریکٹر ہیں جہاں ثقافتی یلغار کے ایٹم بم تیار کئے جاتے ہیں، اور پھر ساری دنیا کے ذہنوں اور جسموں پر دجال کے کارندے حکومت کرتے ہیں۔ مثلاً میوزیم کو لے لیجئے۔ ثقافتی ورثے کے نام پر کہیں فرعون کی تہذیب کا تقدس ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہوگا، تو کہیں ہڑپا اور موہنجوداڑو کی جاہلی تہذیب سے لوگوں کو متاثر کیا جا رہا ہوگا۔

ون تھراپ راک فیئر: یہ ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱ ریاست ارنکساس کا گورنر رہا۔ لیکن بعض خود سر عادتوں کی بدولت یا پھر یوں کہہ لیجئے خفیہ منصوبوں میں کچھ رکاوٹ پیدا کرتا، ون تھراپ اس خاندان کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔

ڈیوڈ راک فیئر..... بڑا تاجر بڑا جادوگر

بادشاہ گر، ڈیوڈ راک فیئر جس نے مختلف امریکی صدور کی جانب سے انتہائی اہم عہدوں کی پیشکش ٹھکرائی اور پس پردہ کر صیہونیت کے خفیہ منصوبوں کے لئے خود کو وقف کیا۔ ۱۹۱۵ء میں نیویارک میں پیدا ہوا، ہارورڈ اور شکاگو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد ڈیوڈ راک فیئر عالمی بینکر بن گیا۔ ۱۹۶۱ء میں چیز مین ہٹن بینک کا صدر بن گیا۔ اسکوسی ایف آر (C.F.R) کا چیئرمین بھی منتخب کیا گیا۔ ڈیوڈ کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھنے کے باوجود امریکہ کی جانب سے انتہائی اہم دورے کرتا جن میں وہ امریکہ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک کے لئے نئے پروگرام لے کر جاتا۔

دی راک فیئر سنڈرم (The Rockefeller Syndrome) کا مصنف فرڈیننڈ لنڈبرگ لکھتا ہے: ”ڈیوڈ جب بین الاقوامی دورے پر نکلتا ہے تو اسکے ملاقاتیوں اور دیگر معاملات کی فہرست ایک کتاب کے برابر ہوتی ہے۔ وہ جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو ملک کا سربراہ اس سے اس طرح ملتا ہے جیسے وہ کسی ملک کا سربراہ ہو۔ اور اسی طرح اسکی ملاقاتوں کا شیڈول طے پاتا ہے۔“ ڈیوڈ راک فیئر اپنے دوروں میں اپنے ساتھ ترقی یافتہ ملکوں کے سابق صدور اور وزراء اعظم کو بھی لے کر جاتا ہے۔

مصنف آگے لکھتا ہے ”وہ ہر سال اپنے گھر پر کئی ممالک کے وزراء، خزانہ، اعلیٰ سرکاری

حکام، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور اقوام متحدہ کے حکام کی میزبانی کرتا ہے.... اور وہ اپنے گھر نیویارک میں ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ تفریح کرتا ہے بسا اوقات انکوارت بھی اپنے گھر ہی ٹھہراتا ہے۔“

فرڈیننڈ مزید لکھتا ہے ”ڈیوڈ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصہ کی معلومات ایک منٹ میں لے سکتا ہے۔“

ڈیوڈ خود کہتا ہے ”میں نہیں سمجھتا کہ میرے کام سے زیادہ فائدہ مند کوئی کام ہوگا۔ بینک ہر کسی کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو بینک سے تعلق نہ رکھتا ہو، (دی راک فیلر سنڈرم مصنف فرڈیننڈ لڈ برگ)

لڈ برگ نے لکھا ہے ”ویت نام کی جنگ کے پیچھے سو فیصد ڈیوڈ راک فیلر اور اسکے بھائیوں کا ہاتھ تھا۔“

عراق اور افغانستان پر حملہ کرانے میں اسی یہودی خاندان کا ہاتھ ہے۔ یہ بے راک فیلر چہارم ہے۔ اسکا تذکرہ آگے آئے گا۔ جس طرح ویت نام کی جنگ جنوب مشرق ایشیا پر یہودیوں کا کنٹرول کرنے کے لئے لڑائی گئی اسی طرح عراق کی جنگ اسرائیل کے راستے کی رکاوٹ ختم کرنے اور جزیرۃ العرب پر یہودیوں کا قبضہ کرنے کے لئے کی گئی ہے۔

ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ڈیوڈ راک فیلر نے بنوایا تھا۔ ڈیوڈ خود آرکیٹیکٹ ہے۔ آرکیٹیکچر (تعمیرات) کی دنیا میں اس نے ایسے ڈیزائن متعارف کرائے جو قدیم یہودی ثقافت کی نشانی ہیں۔ گھروں کے اندر فرش، دیواروں پر چھ اور آٹھ کونے والا ستارہ، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں، شیطان کا سینگ (Long Horn) شیلڈ اور اسکے طرح کے بہت سارے ڈیزائن اور نشانات ہیں جو فن تعمیر میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

اسٹینڈرڈ آئل، چیز مین ہٹن بینک، نیشنل سٹی بینک، یونائیٹڈ اسٹیٹ ٹرسٹ کمپنی، Equitable Life and Mutual of New York، جیسے نامور ادارے انکے ہاتھ میں ہیں۔ ڈاکٹر ہنری کیسنجر کے پیچھے راک فیلر تھے۔

ڈیوڈ راک فیلر کی مذہب سے وابستگی کے بارے میں، فرڈیننڈ لڈ برگ لکھتا ہے: ”وہ خدا کے اتنا ہی قریب ہے جتنا کہ پاپ یا کنٹر بری کا آرک بشپ۔“

لڈ برگ کا یہ تبصرہ اس خاندان کے افراد کی مذہب سے وابستگی کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ یہود کے ہاں اس درجے کا مذہبی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کبالہ عالم بھی رکھتے ہیں۔

اس خاندان کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا اصل مقصد انکا یہی خفیہ جادوئی کردار ہے۔ مسلمان تاجروں کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ کے دشمن کس طرح دین حق کو مٹانے کے لئے نسل در نسل ہر میدان میں محنت کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے تاجر حضرات صرف اسلئے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے کہ انکا کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا۔ حالانکہ جتنا مقدر میں لکھا جا چکا اسکو دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی۔

ڈیوڈ راک فیئر نے اپنی خودنوشت ۲۰۰۲ء میں شائع کی۔ اس میں وہ لکھتا ہے:

"They claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as "internationalists" and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it." (Memoirs by David Rockefeller .P:405)

ترجمہ: لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم (راک فیئر خاندان) امریکہ کے سیاسی اور اقتصادی اداروں پر قابض ہیں۔ بعض لوگوں کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم "خفیہ کبالہ" کا حصہ ہیں، جو امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، مجھے اور میرے خاندان کو "بین الاقوامیت کا حامی" تصور کرتے ہیں۔ نیز وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اوروں کے ساتھ مل کر، ایک ایسا بین الاقوامی، سیاسی اور اقتصادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو (موجودہ سے) زیادہ مکمل ہوگا۔ اگر یہی الزام ہے تو میں مجرم ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔"

ڈیوڈ راک فیئر جونیر

یہ ۱۹۴۱ء میں پیدا ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ ڈیوڈ راک فیئر (سینئر) کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے اہم مسائل ہیں، یہ ان سب کے پیچھے متحرک ہے۔ عالمی (یہودی) سیکورٹی، اسلحہ کنٹرول، بین الاقوامی تعلقات، اقتصادی ترقی (یہودی مفادات کے مطابق) تجارت اور معاشیات کے میدانوں میں پردے کے پیچھے رہ

کرسیا سی کھڑے چلیوں کو استعمال کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

جے راک فیئر..... عراق و افغانستان میں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل

جے راک فیئر ۱۸ جون ۱۹۳۷ء میں پیدا ہوا۔ یہ جان ڈی راک فیئر جوئیر کا پوتا اور جان ڈی راک فیئر سوم کا بیٹا ہے۔ جبکہ ڈیوڈ راک فیئر کا بھتیجا ہے۔ ۱۹۸۵ء سے سینٹ کامبر ہے۔ مغربی ورجینیا کا گورنر رہ چکا ہے۔ یہ سینٹ کی انٹیلی جنس کمیٹی کا چیئر مین بھی رہا۔ (جنوری ۲۰۰۹ء کو ریٹائر ہو چکا ہے)۔ عراق پر حملے کے لئے بش انتظامیہ اور پیناگون کو بھڑکانے والا یہی شخص ہے۔ سی آئی اے سے لیکر میڈیا تک میں، اپنے خاندانی قبضے کی بدولت، صدام حسین کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیا۔

۲۰۰۲ء میں اس نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا اور وہاں مختلف ممالک کے سربراہان، سے عراق پر امریکی حملے کے بارے میں اپنی ذاتی رائے پر بحث و مباحثہ کیا، اسی سال اس نے صدام حسین کے وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں (Weapons of Mass Destruction) کے خلاف اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عراق کے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے خطرہ بہت قریب آچکا ہے۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے۔

اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا: ”میں نے جنوری ۲۰۰۲ء میں سعودی عرب، اردن اور شام کا دورہ کیا تھا۔ وہاں کے سربراہان سے میں نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ صدر بش عراق پر حملے کے لئے اپنا ذہن بنا چکے ہیں۔ یہ فیصلہ 9/11 کے فوراً بعد کیا جا چکا تھا۔“

گوانتانامو بے، بگرام اور ابوغریب جیل میں وحشیانہ تشدد

گوانتانامو بے، بگرام اور ابوغریب جیل میں دوران حراست مجاہدین اور عام مسلمانوں پر جو وحشیانہ تشدد کیا گیا وہ جے راک فیئر کے کہنے پر ہوا۔ سابق نائب صدر ڈک چینی بھی اس میں ملوث ہے۔ لیکن سی آئی اے نے، تشدد کے نئے طریقے کے بارے میں صرف دو لوگوں کو بریف کیا جن میں ایک یہ جے راک فیئر بھی تھا۔ تشدد کے ان مناظر کی ویڈیو سی آئی اے نے بنا کیں تھیں، جو ضائع کر دی گئیں۔ اسکے لئے جب تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تو جے راک فیئر نے اس کمیٹی کو ختم کر دیا اس نے کہا ”یہ انٹیلی جنس کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔“

”مہذب لوگ“ کا لے کر توت

بیسویں صدی عیسوی میں، دنیا کو جن اقتصادی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا وہ راک فیئر اور

دیگر چند یہودی خاندانوں کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ تاکہ دنیا کے بڑے ممالک کو اپنے سامنے مجبور کر کے یہود مخالف قوتوں کے خلاف عالمی جنگ کا (انسانی) ایندھن مہیا کرنے پر مجبور کر سکیں۔ پہلی جنگ عظیم کا مقصد اسکے علاوہ کچھ نہ تھا کہ خلافت عثمانیہ توڑ کر ایک عالمی یہودی حکومت قائم کی جائے تاکہ دجال کی عالمی حکومت کے لئے ایک ماڈل تیار کیا جاسکے۔

اس خاندان کے بارے میں پڑھ کر آپ شاید سوچ رہے ہونگے، کہ دنیا کا کونسا شعبہ ہے جو اس خاندان کے قبضے سے باہر ہے؟ یقیناً بہت سارے معاملات میں یہ براہ راست شریک نہیں، لیکن مکمل ان سے علیحدہ بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ دیگر معاملات جن خاندانوں کے قبضے میں ہیں، ان میں اس خاندان کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں۔ مثلاً جے پی مورگن (J.P Morgan)، روتھ شیلڈ وغیرہ۔

دنیا میں جتنے ناپاک کام ہیں، یا ہر وہ کام جس سے بنی آدم کی تذلیل ہوتی ہے، یہ خاندان ایسے تمام کاموں کا موجد ہے۔ البتہ تعلیم یافتہ طبقہ کو دھوکہ دینے کے لئے، ان غلیظ کاموں پر خوبصورت لیبیل لگا دیا جاتا ہے، کہیں میڈیکل ریسرچ کے نام پر، کہیں سائنس و ٹیکنالوجی کے نام پر، کبھی وائلڈ لائف اور لائیو اسٹاک تو کبھی انسانیت کے نام پر چلنے والی این جی اوز کے روپ میں۔ دنیا بھر کے مردہ خانوں سے بچوں اور عورتوں کے اعضاء کاٹ کر ان کی خفیہ تجربہ گاہوں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ جہاں انسان کے ہر حصے پر مختلف تجربات کئے جاتے ہیں۔ اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم میں، یہودی نسل ختم ہو جائے تو یہودی چیز کے ذریعے، یہود کی نسل کی از سر نو تخلیق کی جاسکے۔ یہ کام اکثر فلاحی ادارے کرتے ہیں، جنکو یہ خاندان مختلف ناموں سے اربوں ڈالر سالانہ امداد دیتا ہے۔ جراثیمی ہتھیار بنا کر، آفت زدہ علاقوں میں اڑکا تجربہ کیا جاتا ہے۔ انہی کی سرپرستی میں عریانیت کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔

انکی خفیہ تجربہ گاہوں میں جراثیمی ہتھیار (مختلف بیماریوں کے جراثیم اکٹھے کر کے بم کی شکل دی گئی ہے) تیار کئے گئے ہیں۔ افریقہ اور دیگر ممالک میں ان جراثیموں کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اسکے ساتھ ساتھ اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے اپنی ہی دواساز فیکٹریوں میں اسکی دوائی تیار رکھی جاتی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹروں کے ذریعے انہی کی کمپنی کی دوائی لکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں پھیلی کئی خطرناک بیماریوں کے بارے میں سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ امراض قدرتی طور پر نہیں بلکہ انکے جراثیم کسی لیبارٹری میں تیار کئے گئے تھے۔ ان میں ایڈز کا وائرس H.I.V قابل ذکر ہے۔



امریکہ کے اندر، ایف بی آئی اور سی آئی اے امریکی بچوں کو اغوا کر کے شیطان کے پیچاریوں کے پاس پہنچاتی ہے جن کو انکی مذہبی تقریب میں شیطان کو خوش کرنے کے لئے ذبح کیا جاتا ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی یا غیر یہود اقوام کی نسل کشی

دجال کی آمد سے پہلے پہلے راک فیلر کی یہ کوشش ہے کہ دنیا میں موجود غیر یہودی اقوام کی آبادی کو کم سے کم کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی مزاحمت دشواری کا باعث نہ بنے۔ اسکے لئے خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر انسانیت کا قتل جس بہیمانہ انداز میں جاری ہے، اسکا اصل چہرہ اگر عوام کو دکھایا جائے، تو لوگ یہودیوں اور خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام چلانے والوں کو چوراہوں پر لٹکا دیں۔ لیکن یہ دجالی میڈیا کا کمال ہے کہ وہ صرف ان مسائل کو اجاگر کرتا ہے جس میں دجالی قوتوں کی رضا ہوتی ہے یا پھر انکے مفادات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ چنانچہ حق گوئی کا دعویٰ کرنے والے کالم نگار، ٹی وی پر آنے والے دانشور سب کچھ جاننے کے باوجود، قوم کی نسل کشی اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ زبان کھولنے کی صورت میں انکے آقا ان سے ناراض ہو جائیں گے اور یورپ و امریکہ کے دروازے انکے لئے بند کر دئے جائیں گے، بلکہ انکے اپنے ملک کی زمین بھی انکے لئے تنگ ہو جائے گی۔

نسلِ انسانی کو تباہ کرنے کے لئے دنیا میں جتنے پروگرام چل رہے ہیں انکے منصوبہ ساز راک فیلر ہیں۔ یہ خاندانِ تریجی بنیادوں پر دنیا کی حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں اس پالیسی کو بزورِ قوت نافذ کریں۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو دنیا سے خیر کا خاتمہ کر کے مکمل شر (ابلیس) کا مذہب نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں لوگ ابلیس کی پوجا کریں..... ہر وہ کام کیا جائے، جس سے انسانیت کی تذلیل ہو..... اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترے..... ابلیس خوش ہوتا رہے۔

گیری ایلن (Gary Allen)، راک فیلر کے مقاصد کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے

“The Rockefeller game plan is to use population, energy, food, and financial controls as a method of people control which will lead, steadily and deliberately, into the Great Merger, a one-world government .

ترجمہ: راک فیلر کا منصوبہ، آبادی، توانائی، اور معاشی کنٹرول کو، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے

لئے، بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ جو تسلسل اور سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ ایک عظیم انضمام، یعنی ایک عالمی حکومت کی طرف جائے گا۔

اس خاندان نے خلافتِ عثمانیہ توڑنے سے لے کر فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام تک میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ عرب حکمرانوں کو اپنے سحر میں جکڑ کر، بیت المقدس پر قبضہ کرایا۔ انھوں نے یونینیا کے مسلمانوں کے خون سے ہولی پھیلی، عراق میں درندگی کی نئی تاریخ رقم کی۔ ابو غریب جیل میں انسانیت کو رسوا کر کے، ایلست کو خوش کرنے والے یہی تھے۔ افغانستان میں دنیا کا ہر اسلحہ طالبان پر استعمال کیا۔ معصوم بچوں..... عورتوں اور بوڑھوں پر نئے نئے بموں کے تجربات کئے۔ اللہ کے دیوں کو، گوانتانا موبے کے پنجروں میں انہی کے حکم سے ذلیل کیا جاتا رہا..... قرآن کی بے حرمتی انہی خبیث، بد باطن اور شیطان کے پجاریوں کے حکم پر کی گئی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اخبارات میں مہم انہی کعب بن اشرف کی اولاد کے اشاروں پر کی جاتی ہے۔

### ایک سوال

یہاں ایک بات ذہن میں آسکتی ہے۔ کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی طاقتور ہیں تو امریکہ کے صدر کیوں نہیں بنتے؟ اس کا اصل جواب تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ ایس ما ثقفوا الا بحبل من اللہ و حبل من الناس۔ الایۃ..... ترجمہ: ان یہود پر ذلت ڈال دی گئی ہے، وہ جہاں بھی ہوں، الایہ کہ اللہ سے عہد اور لوگوں سے عہد کے ساتھ۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کو اپنے مٹ جانے کا خوف ہے جو، یہودی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے یہ تاریخی تفصیل چاہتا ہے، جس کا یہاں موقع نہیں۔ جبکہ آسان سا جواب یہ ہے کہ جو بادشاہ گری کا مزا جانتے ہوں، وہ بادشاہ بننا پسند نہیں کرتے۔ نیز چونکہ ان کا اصل کام سازشوں کے ذریعے اپنے ناپاک منصوبوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے سو یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ سامنے آنے کے بجائے کسی کو ڈھال بنا کر اپنا کام چلاتے رہیں۔ ان میں سے اگر کبھی کوئی فرد سامنے آنا چاہے تو خود انہی کو لوگ اسکو ”سبق“ سکھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہی بندے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ البتہ ۱۹۹۲ء سے یہودیوں نے سامنے آنا شروع کیا ہے۔ یہی انکی تباہی و بربادی کا آغاز ہے۔

## روتھ شیلڈ (Rothschild) خاندان

نوٹ: یہ لفظ روتھ شیلڈ ہے، یہ جرمن زبان کا لفظ ہے، جسکے معنی سرخ ڈھال کے ہیں۔ جرمنی میں سرخ کو Rot اور ڈھال کو Schild کہتے ہیں، اس طرح یہ لفظ روتھ شیلڈ ہے۔ لفظ Schild کے معنی Sign یعنی نشان کے بھی ہیں۔ لیکن یہاں اسکے ڈھال والے معنی مراد ہیں۔ کیونکہ یہودی سلیمان علیہ السلام کی ڈھال کو قوت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ یہودی خاندان بھی کبالہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ انھوں نے یورپ اور آسٹریلیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ اس خاندان کا جد امجد ”میسرا بمشل باعوز“ ۴۳۳ء میں فرینکفرٹ جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ لوگوں کو سود پر قرضے دیتا تھا۔ اسکے گھر کے دروازے پر ایک سرخ رنگ کا داؤدی ستارہ (چھ کونوں والا) لٹکا ہوا تھا۔ اسکے پانچ بیٹے تھے جو پورے یورپ میں پھیل گئے اور بینک کے کاروبار پر قابض ہو گئے۔

1. Amschel Mayer Rothschild
2. Salomon Mayer Rothschild
3. Nathan Mayer Rothschild
4. Kalmann (Carl) Mayer Rothschild
5. Jacob (James) Mayer Rothschild

یہی وہ شخص ہے جس نے ۱۷۷۰ء میں یہودی خفیہ تنظیم الویناتی (Illuminati) کے قیام کا منصوبہ بنایا اور اسکے لئے ایڈم وائیزت کو اعتماد میں لیا۔ راک فیلر اور روتھ شیلڈ جیسے لوگوں کے نزدیک بڑی بڑی حکومتوں کی کیا حیثیت ہے اس کا اندازہ اس مکالمے سے لگایا جاسکتا ہے جو ۱۸۱۱ء میں ناتھن میسر روتھ شیلڈ اور بعد میں ہونے والے امریکی صدر، انڈریو جیکسن کے درمیان ہوا۔ امریکہ میں روتھ شیلڈ کے بینک آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کی تجدید کا بل امریکی کانگریس نے مسترد کر دیا تھا۔ اس وقت یہ مکالمہ ہوا:

“Either the application for renewal of the charter is granted, or the United States will find itself involved in

a most disastrous war.”

ترجمہ: یا تو چارٹر کے تجدیدی کی درخواست منظور کی جائے گی یا امریکہ خود کو بہت تباہ کن جنگ میں ملوث پائے گا۔ اسکے جواب میں انڈریو جیکسن نے کہا:

“You are a den of thieves vipers, and I intend to rout you out, and by the Eternal God, I will rout you out.”

ترجمہ: تم سانپوں اور چوروں کی آماجگاہ ہو، اور میرا ارادہ تمہیں نکال باہر پھینکنے کا ہے۔ قسم ہے ابدی خدا کی! میں تمہیں نکال باہر کروں گا۔ روتھ شیلڈ نے جواب دیا:

“Teach those impudent Americans a lesson. Bring them back to colonial status.”

ترجمہ: ان بے شرم امریکیوں کو سبق سکھا دو، ان کو نوآبادیاتی دور میں واپس لے آؤ۔

ناتھن روتھ شیلڈ نے جو کہا اس کو عملی شکل بھی دی۔ اس نے ۱۸۱۲ء میں برطانیہ کے ذریعے امریکہ پر جنگ مسلط کرادی۔ واضح رہے کہ امریکہ سے پہلے برطانیہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ انقلاب فرانس خالص یہودی انقلاب تھا۔ جس کا روح رواں الوی میناتی کا ایڈم وائیزت تھا۔ جبکہ سارا خرچہ روتھ شیلڈ نے اٹھایا۔ Sir Walter Scott نے ”دی لائف آف نیپولین“ میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے۔

غیر یہود اقوام کی بیٹیوں کو گھروں سے کھینچ کر اہلیسی تہذیب کے جبروں میں پھنسانے والے یہودی اپنی بیٹیوں کو کیوں گھروں میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ آزادی نسواں کی تحریکوں کے لئے اربوں کے فنڈ جاری کرنے والے اپنے گھر کی عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق کیوں نہیں دیتے۔ مسلم ممالک میں سانپ بچھڑوں کے مانند ریگتی این جی اوز، اپنے آقاؤں سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتیں کہ اپنی بہو بیٹیوں کو بھی اسی طرح سڑکوں اور فنڈ پاتھوں پر چھوڑ دینے جس طرح آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ روتھ شیلڈ نے اپنے بیٹیوں کے لئے جو زندگی کا لائحہ عمل مرتب کیا اس میں ایک اصول یہ تھا:

Only male members of the family were allowed to participate in the family business (It is important to note that Mayer Amschel Rothschild also has five daughters, (The History of the House of Rothschild By Andy and Daryl)

ترجمہ: گھرانے کے صرف مرد حضرات کو خاندانی کاروبار میں شریک ہونے کی اجازت دی

گئی تھی۔ یہ قابل توجہ ہے کہ میئر ایٹشل روتھ شیلڈ کی پانچ بیٹیاں بھی تھیں۔  
۱۹۸۰ء میں انھوں نے دنیا بھر کے قومی اداروں کی نجکاری (Privatization) کے  
لئے حکومتوں پر زور ڈالنا شروع کیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے برطانیہ جیسے ملکوں کی بڑی بڑی کمپنیوں کو  
خرید لیا۔

۱۹۹۵ء میں سابق اٹاک انرجی سائنسدان، ڈاکٹر کٹی لٹل (Kitty Little) نے دعویٰ  
کیا کہ ”روتھ شیلڈ دنیا کی 80 فی صد یورینیم کی سپلائی پر قابض ہیں جس کی وجہ سے نیوکلر توانائی  
پرائی اجارہ داری قائم ہے۔“

یہودی شخصیات سے متعلق ایک وضاحت

آپ جتنی بھی یہودی شخصیات کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ہر ایک کو پڑھ کر یوں محسوس ہوگا،  
گویا یہودیت کے لئے سب سے زیادہ خدمات اسی کی ہیں۔ اسکی کیا وجہ ہے؟

اسکی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے، اور اسکے لئے نسل در  
نسل قربانیاں بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کام ساری دنیا میں منظم انداز میں کیا جاتا رہا ہے۔ تمام  
دنیا کو مختلف خطوں میں تقسیم کر کے ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ لیکن یہ سب ایک تنظیم کے تحت کیا  
جاتا رہا ہے۔ ان میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو منصوبہ سازی کرتے ہیں، کچھ اس کو عملی شکل دینے کے  
لئے طریقہ کار وضع کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مظہر عام پر آ کر اس منصوبے کو عملی جامہ  
پہناتے ہیں۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہودیت کے لئے سب سے اہم خدمات، الو میناتی کے  
بانی، ایڈم وائیزت نے انجام دیں۔ راک فیلر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا  
کام اسی خاندان نے کیا ہے۔ یہی معاملہ روتھ شیلڈ اور دیگر یہودی خاندانوں کا ہے۔ اسکی وجہ یہی  
ہے کہ ایک منصوبے میں بہت سارے سرکردہ یہودی، علیحدہ علیحدہ خدمات انجام دیتے ہیں۔



## اسماعیلی فرقہ اور آغا خان فیملی

اسماعیلی..... اسماعیلی فرقہ باطنی فرقوں میں سے ہے، جنہوں نے ظاہراً اسلام کا نام لیا اور باطن میں کافر ہی رہے۔ مثلاً، نصیری، اسماعیلی، قرامطہ، قادیانی، بہائی وغیرہ  
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنیوں کے رد میں ”فضاح الباطنیۃ“ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے۔ ان کے مذہب کے بارے میں لکھا ہے ”ظاہر مذہبہم الرفض وباطنہم الکفر المحض“

اسماعیلیوں کے عقائد

جیسا کہ انکے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہود کے ساتھ یہود، اور نصاریٰ کے ساتھ نصاریٰ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آغا خانیوں کا یہی حال ہے۔ حسن بن صباح کے بعد ۵۵۹ھ میں اسکے ایک جانشین، حسن بن محمد ثانی نے پچھلی تمام شریعت کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، قیامت اور دنیا فنا ہو جانے کا اعلان کیا، اور کہا جو اس کی دعوت پر لبیک کہدے گا وہ زندہ اٹھایا جائے گا اور جو لبیک نہیں کہے گا ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے گا۔ اس دن کو ”عید قیام“ کا نام دیا گیا۔ اس دن سے آج تک اسماعیلیوں نے خود کو تمام شرعی احکامات سے آزاد کیا ہوا ہے۔ نماز، روزہ، حج سب معاف۔ صرف اپنی آمدنی کا دسواں حصہ اپنے ”معبود“ آغا خان کو پیش کر دیں تو یہی ہر عمل اور گناہ کا کفارہ ہے۔ ”اس معبود“ کی محبت و معرفت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ و افضل مانتے ہیں۔ انکے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالیٰ کا نور حلول کر گیا ہے سو وہ بھی اللہ ہی ہیں۔

اسماعیلیوں کے نزدیک انکے سارے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوتار ہیں، اسلئے جو حیثیت (اللہ کی روح کا حلول کر جانا) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے وہی انکے تمام اماموں کی ہے۔ اس طرح یہ آغا خان کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ اور آغا خان بھی اس پر راضی ہے۔

ڈاکٹر محمد کامل حسین، آغا خان سوم کے ساتھ اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں:

”میں اکثر ان سے فلسفیانہ بحثیں کرتا رہتا تھا، خصوصاً اسماعیلی عقیدے کی ترقی کے بارے

میں، مجھے یہ جان کر سخت حیرانی ہوئی کہ وہ ان تمام باتوں کے بارے میں اچھی طرح معلومات رکھتے ہیں، ایک دن میں نے ان سے ایک سوال کی اجازت مانگی، جس پر انکو غصہ آجاتا تھا جب انھوں نے غصہ نہ کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے پوچھا: مجھے آپکی ذہانت و فطانت نے حیرت میں ڈال دیا ہے، اس سب کے باوجود آپ ان (اسماعیلیوں) کو اس بات کی اجازت کیسے دیدیتے ہیں کہ یہ آپکو معبود پکارتیں۔“

آغا خان یہ سن کر تھپتھپے مار کر ہنسے۔ اتنا ہنسے کہ آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ مجھ سے پوچھا کہ ”آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں! ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا میں گائے سے بہتر نہیں ہوں۔“

### آغا خان کا نیا قرآن

یہ آغا خان سوم، سر سلطان محمد شاہ تھا، جس نے ۳۰ جولائی ۱۸۹۹ء کو تنزانیہ کے شہر Zanzibar میں ایک فرمان جاری کیا، جس میں کہا ”خلیفہ عثمان (رضی اللہ عنہ) نے قرآن کے بعض حصے حذف کر دئے تھے۔ میں اصل قرآن لکھنا شروع کروں تو اس میں چھ سال لگیں گے، پھر میں تمہارے لئے یہ بھیجوں گا، پھر تم دیکھنا کہ عثمان نے قرآن سے کیا حذف کیا تھا“ (مجلد الراصد العدد التاسع)

### اسماعیلیوں میں تقسیم..... بوہری اور نزاری

مصر میں فاطمی (شیعہ) حکومت کے فرمانروا مستنصر باللہ فاطمی (۴۲۷ھ تا ۴۸۸ھ مطابق ۱۰۳۵ء تا ۱۰۹۵ء) نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے نزار کو بنایا تھا۔ لیکن مستنصر کے مرنے کے بعد اس کے وزیر افضل بن بدر جمالی نے مستنصر کے چھوٹے بیٹے اور اپنے بھانجے، مستعلی کو امام بنا دیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جمالی نے نزار اور اسکے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسماعیلی فرقے کے بہت سے مبلغوں اور پیروکاروں نے مستعلی کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، جن میں سب سے مشہور نام حسن بن صباح کا ہے، حسن بن صباح نزاری تھا۔ یہ بدستور نزار اور اسکے بیٹے کی امامت کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس طرح اسماعیلی دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک مستعلی، جبکہ دوسرے نزاری کہلائے جانے لگے، بوہریوں کا تعلق اسماعیلی مستعلی سے ہے جبکہ آغا خانیوں کا تعلق اسماعیلی نزاری سے ہے۔

### ٹارگٹ کلنگ کا ماہر..... حسن بن صباح

حسن بن صباح (۲۳۰ھ تا ۵۱۸ھ مطابق ۱۰۳۸ء تا ۱۱۲۴ء) ایرانی، اسماعیلی شیعہ تھا۔ اس

نے ایران کے شمال مغربی علاقوں میں آکر مختلف قلعوں پر قبضہ کر لیا اور اپنے جادو سے بیوقوف لوگوں کو اپنا مرید بنانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا مرکز ایران کے شہر قزوین کے قریب ”قلعۃ الموت“ میں بنایا۔ اسکے ”حشاشین“ (Assassins) مسلمانوں کو قتل کرنے میں مشہور رہے ہیں۔ انکا کام مسلمانوں کی سیاسی اور دینی قیادت کو قتل کرنا تھا۔ انھوں نے بڑی تعداد میں علماء اور مجاہدین قیادت کو قتل کیا۔ کئی مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کی مدد کرتے رہے۔ حاجیوں کو لوٹ کر قتل کر دیتے تھے۔ لیکن نعرہ یہی لگاتے رہے کہ ہم یکے سچے مسلمان ہیں۔

حسن بن صباح نے قلعہ ”الموت“ میں، اپنی جنت بنا رکھی تھی۔ جہاں حسین دوشیزائیں تھیں جنکو وہ حوریں کہتا تھا، اور اپنے مریدوں کی خدمات کے عوض انکو پیش کرتا تھا۔ مریدوں کو ہر وقت اپنے سحر (Hypnotism) اور حشیش کے نشے میں ڈبوئے رکھتا تھا۔

علامہ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: جب حسن بن صباح کے پاس امیر کا قاصد پہنچا اور اسے تسلیم کرنے کا پیغام دیا تو حسن بن صباح نے اپنے ایک ”مرید“ کو بلایا اور حکم دیا کہ خود کو قتل کر لو۔ اس نے اسی وقت خنجر نکالا اور شہ رگ کاٹ ڈالی اور تڑپ تڑپ کر جان دیدی۔ اسکے بعد دوسرے کو حکم دیا کہ قلعے کی فصیل سے نیچے چھلانگ مارو۔ اس نے فوراً نیچے چھلانگ ماری۔ پھر وہ قاصد کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ اپنے امیر کو جا کر کہو کہ میرے پاس ایسے بیس ہزار جانا باز ہیں۔ یہی میرا جواب ہے۔ (المنتظم فی تاریخ الملوک، ج: ۷، ص: ۶۴)

یہاں یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ مجاہدین کی جانب سے دنیا بھر میں فدائی کارروائی کرنے والوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈہ کیا گیا کہ یہ لوگ فدائی کو مصنوعی جنت میں رکھتے ہیں اور جنت کا ٹکٹ دے کر اس کو فدائی کارروائی کے لئے بھیجتے ہیں، یہ پروپیگنڈہ میڈیا میں موجود کسی باطنی کی شر انگیزی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان لٹانے والوں کو ان بد بختوں پر قیاس کرتا ہے جو حسن بن صباح کی حشیش کے نشے میں دھت ہو کر اپنی جانیں ضائع کیا کرتے تھے۔

حسن بن صباح اپنے بارے میں پکا سچا مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں اور جس دین پر میں ہوں یہی دین برحق ہے۔ (لوعیۃ اللہ علی المنافقین)

محمد حامد الناصر نے ”الجہاد والتجدید“ میں لکھا ہے: انکا کام صلیبیوں کی مدد کرنا تھا۔ انھوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جو صلیبی لشکر پر بہت بھاری تھے۔

۵۵۲ھ میں انھوں نے نیشاپور (ایران) کے علاقے میں حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور



تمام حاجیوں کو قتل کر کے انکا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ اس قافلے میں علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ موجود تھے، اسلام کے دشمنوں نے کسی کا خیال نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک شیعہ آیا، مقتولین اور زخمیوں کے درمیان کھڑا ہو کر آوازیں لگانے لگا ”اے مسلمانو! ملحدین جا چکے ہیں، اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو میں پانی پلاؤنگا۔ یہ سن کر کوئی زخمی سراٹھاتا تو یہ لعنتی اسکو جا کر قتل کر دیتا۔ اس طرح جو کچھ بچے تھے اس نے شہید کر دئے۔ (اکامل فی التاریخ ابن اثیر)

حسن بن صباح کے پیروکار اصفہان اور قرظون کے گرد و نواح میں تھے۔

اسماعیلیوں کی ہندوستان آمد

اسماعیلی فرقے کا پہلا مبلغ برصغیر میں چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں آیا۔ اور حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پہلی اسماعیلی ریاست سندھ میں قائم کر لی۔ اس کا نام حاتم بن شیبان تھا۔ حاتم کے بعد اسماعیلی حکومت کا حاکم حمید نامی اسماعیلی بنا۔ اسکو سلطان سبکتگین (محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد) نے ملتان کی جنگ میں شکست دی اور اسکو قتل کر دیا۔ اسکے بعد اسکا پوتا، ابو الفتح داؤد قرامطی حاکم بنا۔ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ (دور سلطنت ۹۹۸ء تا ۱۰۳۰ء) نے گمراہ فرقوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو داؤد قرامطی نے محمود غزنوی سے معاہدہ کر لیا۔ لیکن درپردہ سلطان کے خلاف ہندوستان کے ہندو راجاؤں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا۔ بالآخر سلطان نے تنگ آ کر ۴۰۱ھ میں اس پر چڑھائی کی اور اسکو ایک قلعے میں قید کر دیا۔ ہندوستان سے فارغ ہو کر سلطان نے اس پہلی اسماعیلی ریاست کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ انکے دارالحکومت کو تباہ کر دیا۔ اس وقت یہ لوگ بھاگ کر گجرات (بھارت) چلے گئے۔ وہاں یمن، مصر اور بحرین سے آئے اسماعیلی پہلے سے موجود تھے۔ گجرات جا کر یہ بوہری بن گئے۔

دوسرا دور

اس کے بعد انکی ہندوستان آمد کا بڑا سلسلہ تیرھویں صدی عیسوی میں اس وقت شروع ہوا جب ہلاکو خان نے ۱۲۵۶ء میں حسن بن صباح کے قلعہ الموت اور ایران میں دیگر قلعوں کو تباہ کر دیا۔ ایران سے بھاگ کر یہ لوگ برصغیر میں آکر آباہونے لگے۔ یہ سلسلہ سو لھویں صدی عیسوی تک مسلسل چلتا رہا۔ ایران سے انتشار کے بعد اسماعیلیوں کا امام اسلام شاہ بنا تو اس نے اپنے فرقے کے لئے کوئی ایسی زمین تلاش کی جہاں رہ کر وہ خود کو منظم کر سکیں۔ اسکی نظر مغربی ہندوستان (پاکستان) پر پڑی۔ چنانچہ اس نے پنجاب، ملتان، سندھ، کشمیر اور کراچی کے ساحلی علاقوں پر

توجہ مرکوز کی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ علاقے مسلمانوں کی حکومت کے مرکز دہلی سے دور دراز تھے، جہاں انکے لئے خفیہ طور پر اپنا کام کرنا آسان تھا۔

اس نے اپنے مشہور مبلغوں کو ہندوستان بھیجا۔ جن میں پیر صدر الدین اور پیر شمس الدین تبریزی پہلے آئے۔ پیر صدر الدین انتہائی مکار و ذہین آدمی تھا۔ اس نے ہندی زبان سیکھی اور اپنا نام بھی ہندوستانیوں کی طرح رکھ لیا۔ سندھ کے شہر کوٹری کو اس نے اپنا مرکز بنایا۔ اس نے ہندی میں ”دس اوتار“ نامی کتاب لکھی، جس میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہیں۔ ہندو اس کے خوب معتقد ہوئے۔ ۸۱۹ھ مطابق ۱۴۱۶ء میں پنجاب میں انتقال ہوا۔ اسلام شاہ کے بعد انکا امر غریب مرزا بنا۔ سولہویں صدی عیسوی میں انھوں نے اپنا مرکز ایران سے ہندوستان منتقل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کی تاریخ خاموش ہے۔ نہ انکے مبلغوں کا کچھ پتہ چلتا ہے اور نہ کسی امام کا۔ لگتا ہے یہ لوگ اپنی حقیقت چھپا کر، خفیہ طور پر مسلمانوں کے اندر اپنا کام کرتے رہے۔ اس لمبے عرصے پر وہ خفا میں رہنے کے بعد، انیسویں صدی عیسوی میں آغا خان اول کی صورت میں انکا وجود سامنے آتا ہے۔

### اسماعیلیوں کے خدا..... آغا خان

یہودی خاندانوں میں یہ خاندان بھی روحانی، جادوئی اور کبالہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اصفہانی یہودی ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اپنا شجرہ نسب یہ بیان کرتے ہیں:

علی، حسن، حسین، سجاد، باقر، صادق، اسمعیل، محمد احمد، تقی، ذکی، مہدی، قائم، منصور، معز، عزیز، حاکم، ظاہر، مستنصر، نزار، مستعلی، امیر، قاسم، آغا خان اول، آغا خان دوم، آغا خان سوم، آغا خان چہارم، حسن علی شاہ آغا خان اول (1800-1881)

آغا خان اول کے باپ کا نام شاہ خلیل اللہ علی تھا۔ اسکو ۱۸۱۷ء میں ایران میں قتل کر دیا گیا۔ اس پر اسماعیلیوں نے ایران بھر میں فسادات شروع کر دیئے۔ آغا خان اول ایران میں کرمان صوبے کا گورنر تھا۔ اس نے ۱۸۴۰ء میں بغاوت کردی اور پورے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ حکومت نے اسکو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ انگریزوں کی مداخلت پر اسکو رہا کیا گیا۔ جیل سے واپس آ کر اس نے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا اور قندھار (افغانستان) آ کر مسلمانوں کے خلاف، انگریزوں کے ساتھ ہو گیا یہاں سے فارغ ہو کر کراچی آیا۔ یہاں کراچی کے ساحل پر قبضہ کرنے کے لئے انگریز، مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ انگریزوں

کی طرف سے لڑا۔ ان خدمات کے بدلے انگریزوں نے اس کی بھرپور مالی امداد کی اور ممبئی میں اس کو مرکز بنا کر دیا۔ ممبئی پہنچ کر آغا خان کے لئے خود اسماعیلی زعماء نے پریشانی کھڑی کر دی۔ انھوں نے اسکی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ ہمارے (یعنی علی بن طالب رضی اللہ عنہ کے) نسب سے نہیں ہے۔ (یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اسماعیلی فرقے کے زعماء نے آغا خان کے علوی ہونے کا انکار کیا تھا۔) یہ مسئلہ انگریزوں کی عدالت میں گیا، انگریزوں نے اسکی مکمل حمایت کی اور آغا خان کے نسب پر ”حقانیت“ کی مہر لگا دی کہ یہ نزاری، ہیں اور انکا شجرہ علی بن طالب سے ہی جا کر ملتا ہے۔ چنانچہ انکو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ (مجلد الراصد العدد التاسع)

اس نے صوبہ سرحد اور قبائل کو کنٹرول کرنے میں بھی انگریزوں کی مدد کی۔ چونکہ بظاہر یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لہذا یہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے اور بہت کم عرصے میں مسلمانوں کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے۔

### آغا علی شاہ آغا خان دوم (1831-1885)

آغا خان اول کے بعد اسکا بیٹا آغا علی شاہ آغا خان دوم (1831-1885) تھا۔ اس نے باپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور مسلم معاشرے کو کھوکھلا کرنے کا کام جاری رکھا۔ انکا طریقہ کار یہودیوں والا ہے۔ حکومتی ڈھانچے کو خرید کر اسکو اپنے لئے استعمال کرنا۔

### سر سلطان محمد شاہ آغا خام سوم

اسکے بعد اسمعیلیوں کا امام آغا خان سوم سلطان محمد شاہ بنا۔ اسکی عمر اس وقت صرف سات سال تھی۔ اسکی ماں شمس الملک کا تعلق خاندان فجر سے تھا۔ آغا خام سوم ۲ نومبر ۱۸۷۷ء کو کراچی میں پیدا ہوا۔ متحدہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر بنا۔ اس سے بھی زیادہ اسکی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ۱۹۳۰ء میں اس کو لیگ آف نیشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ ملکہ برطانیہ و کٹوریہ کی جانب سے اسکو کئی خطاب دیئے گئے۔ جب اس نے برطانیہ کا دورہ کیا تو اس کو گیارہ توپوں کی سلامی دی گئی۔

اسماعیلیت کو اصل ترقی اسی کے دور میں نصیب ہوئی۔ تحریک آزادی میں اس نے مسلمانوں کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ۱۹۳۰ء میں گول میز کانفرنس کے لئے، ہندوستان کے تمام طبقات کی جانب سے متفقہ طور پر نمائندہ تسلیم کیا گیا۔

فلسطین کی آزادی سے متعلق گول میز کانفرنس میں، جو شرائط حکومت برطانیہ نے رکھی

تھیں، اسکوعربوں نے رد کر دیا تھا۔ چنانچہ مئی، ۱۹۳۹ء میں برطانیہ نے عربوں کو راضی کرنے کے لئے آغا خان سوم کی خدمات حاصل کیں۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سادگی بھی دیکھنے کے اسی عرصے میں فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو کشمکش جاری تھی، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں۔ تب مسلمانان ہند نے حکومت برطانیہ کو اس بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ایک تحقیقی کمیٹی بنا کر فلسطین بھیجی جائے، جو اس بات کا جائزہ لے کہ فریقین (مسلمان اور یہودی) میں سے کس کی غلطی ہے۔ کس کا موقف انصاف پر مبنی ہے۔ اس کمیٹی کے ساتھ ہمارا (مسلمانوں کا) نمائندہ آغا خان سوم ہوگا۔

ع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ

تقسیم کے بعد یہ خاندان کراچی آ گیا۔ ۱۱ جولائی ۱۹۵۷ء کو آغا خان سوم کا انتقال ہوا۔ اسکی وصیت کے مطابق اسکومصر کے قدیم شہر اسوان (Aswan) میں دفن کیا گیا۔ اسکی اس وصیت کی وجہ اسکے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آسکی کہ اسوان فرعون کے دور میں اہم شہر سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پرفرعونوں کے دور میں بڑے بڑے مندر تھے۔ آغا خان سوم نے خلاف دستور اپنے بیٹے کے بجائے اپنے پوتے کو اسماعیلی فرقے کا امام بنایا۔ یہ نیا امام آغا خان چہارم پرنس کریم ہے۔

کریم الحسینی آغا خان چہارم

کریم الحسینی آغا خان چہارم ۱۹۳۶ء میں جنیوا (سوئٹزرلینڈ) میں پیدا ہوا۔ اس نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں۔ پہلی شادی ایک برطانیہ کی ماڈل (پیسوں کے عوض جسم کی نمائش کرنے والی) سالی کروکر پول (Sally Croker-Poole) سے کی۔ یہ بھارتی فوج کے ایک کرنل کی بیٹی ہے۔ شادی کے بعد اس کا نام شہزادی سلیمہ رکھا گیا۔ ۱۹۹۸ء میں دوسری شادی جرمنی کی شہزادی گبریل زونینجن سے کی۔ بعد میں اس کا نام شہزادی ”اینارا“ رکھا گیا۔ اس نے بعد میں آغا خان کو طلاق دیدی۔

جدید تعلیم سے آراستہ اسماعیلیوں کی حماقت، فکری پسماندگی اور گمراہی کا تصور اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ انکے حاضر امام کی اہلیہ ایک جسم کی نمائش کرنے والی عورت بنی۔ اس کی امامت کو مزید سند عطا کرنے کے لئے ۱۹۵۷ء میں ملکہ برطانیہ نے اسکو ”ہائی نیس (Highness)“ کا خطاب دیا۔ پرنس کریم آغا خان کے بیٹے پرنس حسین آغا خان نے بھی ۱۶ ستمبر ۲۰۰۶ء کو ایک امریکن کرسٹن جے واٹس سے شادی کی ہے۔

آج کے اسماعیلیوں (آغا خانیوں) کا جھنڈا دیکھئے۔ یہ سبز رنگ کا ہے جسکو ایک سرخ لکیر ایک کونے سے دوسرے کونے تک کاٹ رہی ہے۔ اس سے پہلے اسماعیلیوں کا جھنڈا سبز رنگ کا تھا۔ حسن بن صباح نے جب قلعہ الموت پر قبضہ کیا تو اس پر بھی سبز جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سرخ جھنڈا اس وقت لہرایا جائے گا جب ہمارے نائب امام ظاہر ہوں گے۔ حسن بن صباح کی جنت ”قلعہ الموت“ کو جب ہلا کو خان نے (۱۲۵۶ء) میں تباہ کیا تو اسکے بعد اسماعیلیوں نے اپنے اماموں کے مزار پر سرخ اور سبز دو جھنڈے لہرائے۔ انیسویں صدی میں آکر ان دونوں (سرخ و سبز) جھنڈوں کو ایک کر دیا گیا اور یہ اسماعیلیوں کا جھنڈا قرار پایا، جس کو وہ ”میرا جھنڈا (My Flag)“ کہتے ہیں۔

اس خاندان کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہراً پر امن سمجھے جانے والے، اندرون خانہ کس طرح برصغیر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ آج بھی خاموشی کے ساتھ، پاکستان کے مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکا ڈالنا چاہتے ہیں۔ نیز چونکہ آغا خان خاندان کا ہمارے اس خطے سے تعلق ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم ماضی کا آئینہ سامنے رکھ کر اپنا حال دیکھیں اور اپنی صفوں میں گھسے ہوئے ”آج کے آغا خان“ تلاش کریں۔

حسن بن صباح کا انداز قاتلانہ تھا۔ جبکہ آغا خانی ظاہراً بہت پر امن شہری جبکہ اندرون خانہ انکا نظام انتہائی خفیہ ہے۔ حسن بن صباح کے حشاشین کی طرح ان میں ایک خفیہ گروہ ہے جو اسی طرح قتل کی وارداتیں کرتا ہے جس طرح حشاشین کیا کرتے تھے۔ اسکے علاوہ کسی بھی قاتل گروہ کو اپنے لئے استعمال کرنا، اپنے مفادات کی حفاظت کے لئے انھیں آگے رکھنا انکے لئے مشکل کام نہیں ہے۔ پاکستان کے سیاسی، اقتصادی اور عسکری میدانوں میں آغا خان کی مداخلت اگرچہ پر امن انداز میں ہے لیکن اس میں دھونس دھاندلی اور لالچ بھی شامل ہے۔ آغا خان فاؤنڈیشن کے کام کرنے کا انداز بالکل وہی ہے جو راک فیلر فاؤنڈیشن کا ہے۔ امداد، لالچ، میڈیا اور خوف کے ذریعے کسی بھی ملک کے اداروں کے سربراہوں کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اسکی بڑی واضح مثال پاکستان کے تعلیمی نظام کو آغا خان فاؤنڈیشن کے تحت دینے کی کوشش ہے۔ وہ کونسی قوتیں ہے جو اداروں میں بیٹھ کر آغا خان کے لئے کام کر رہی ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی میاں محمد سومرونے کس بنا پر قوم کی ہزاروں اکیڈمز میں آغا خان فاؤنڈیشن کو مفت میں دیدی۔ اسکے عوض انکو کیا ملا؟ پرنس کریم آغا خان پاکستان آتا ہے تو اس سے ملنے والوں میں ملک کے سربراہان سے لے کر فوج کے جرنیل تک ہوتے ہیں۔ اس خاندان کی پراسراریت، خفیہ کارنامے، اور یہود کے ہاں اہمیت

کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ، برطانوی وزارتِ خارجہ اپنی خفیہ فائلیں ہر پچاس سال بعد عام (Declassify) کر دیتی ہے۔ لیکن وسطی ایشیا، افغانستان اور شمال مغربی ایشیا کی وہ خفیہ فائلیں جو آغا خان خاندان کے خفیہ کارناموں سے متعلق ہیں، انکو مزید ایک سو پچاس سال تک عام نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

افغانستان میں اس وقت بھی آغا خان نے بڑے بڑے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ ۲۰۰۲ء میں آغا خان نے افغانستان کے لئے پچھتر ملین ڈالر (\$75 million) کی امداد دی، جو کسی بھی فرد کی جانب سے ملنے والی امداد کی سب سے بڑی رقم ہے۔ افغانستان میں کام کرنے والا موبائل نیٹ ورک ”روشن“ بھی آغا خان کا ہے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ گلگت و بلتستان کو خاموشی سے الگ صوبے کی حیثیت دیدینا کیا آغا خان اسٹیٹ کے خاکے میں رنگ بھرنا نہیں ہے۔ اس آغا خان اسٹیٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کوہستان اور گلگت کے سنی ہیں۔ اصل مسئلہ گلگت کے سنی ہیں یہ ہر دور میں پاکستان کے وفادار رہے ہیں، لیکن انکو چھیڑنے کی صورت میں، کوہستان والے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور شاہراہ ریشم بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح آغا خان اسٹیٹ کی راہ میں (موجودہ) شاہراہ ریشم بھی مسئلہ بنتی ہے۔

ان تمام مسئلوں سے نمٹنے کے لئے آغا خان نے بہت تیزی کے ساتھ دو عملی اقدام کئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ناران سے براستہ بابوسرٹاپ چلاس تک سڑک کی تعمیر، اسکے بعد یہ خطرہ ختم ہو جائے گا کہ کوہستانی شاہراہ ریشم بند کر دیں، ناران سے چلاس شاہراہ کی تعمیر پاکستانی حکومت نے دفاعی نقطہ نظر سے کرائی ہے، شاید ایسا ہی ہو، لیکن جہاں حکمران طبقہ نشے میں دھت، اسلام دشمن قوتوں کی سبائی خواب گاہوں میں مدہوش پڑا ہو، وہ اگر ہزار سڑکیں اور ہوائی اڈے بھی تعمیر کر لیں تو ان پر دشمن کی فوج اور طیارے اتر کرتے ہیں، اسکے علاوہ کوہستان یوں بھی بھاشا ڈیم کی تعمیر سے خالی ہو جائے گا۔

## جادوگر سائنسدان

تاریخ میں جتنے مشہور یہودی سائنسدان، فلسفی، ادیب، مفکر اور دانشور گذرے ہیں ان میں سے اکثر روحانی پیشوا اور جادو کے ماہر تھے۔ اس کو مسلمانوں کی سادگی ہی کہا جائے یا کچھ اور کہ جب، البرٹ آئنسٹائن، اسحاق نیوٹن یا چارلس ڈارون اور لارڈ میکالے کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اس سے صرف ایک سائنسدان، فلسفی اور مفکر مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ انکی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے۔ جبکہ انکی اصل زندگی وہ ہے جو انھوں نے ایک جادوگر یا روحانی شخصیت کے طور پر گذاری۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انکی سائنسی کاوشوں میں اس طلسماتی دنیا کا بڑا دخل ہے جہاں انھوں نے ابلیس و شیاطین کے ساتھ مل کر کام کیا۔ راقم نے ”برمودا تکون اور دجال“ میں محمد عیسیٰ داؤد کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی کہ البرٹ آئنسٹائن کی سائنسی تحقیقات میں دجال تعاون کرتا رہا ہے۔ محمد عیسیٰ داؤد کے اس خیال کی بنیاد انکے اس نظریے پر قائم ہے کہ موجودہ جدید ٹیکنالوجی کا علم، یہودی سائنسدانوں سے پہلے ابلیس، دجال اور انکے جنات کو تھا۔

بندے کے پاس اس حوالے سے کوئی اور دلیل نہیں تھی۔ لیکن الحمد للہ اب اس کی ایک دلیل ملی ہے جس کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں بیان کیا ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بحث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ شیخ اور مرید کو کس طرح دھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ جب اللہ کے علاوہ کسی بندے کو حاجت روا ماننے لگتے ہیں تو شیطان اس کے سامنے اس بزرگ کی شکل میں آجاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میری حاجت واقعی میرے شیخ نے پوری کی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مرید دور سے اپنے شیخ کو پکارتا ہے تو شیطان اس کی آواز کو شیخ تک پہنچا دیتا ہے، اگر شیخ شریعت نہیں ہے تو وہ اس کو پہچان نہیں پاتا اور جواب دیدیتا ہے۔ اس جواب کو شیطان اس مرید تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح مرید دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے شیخ دور سے ہی میری حاجت روائی کر دیتے ہیں۔

اس طرح کا ایک واقعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو خود

ایک شیخ نے سنایا جنکے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا: ”ان شیخ نے بتایا کہ جنات نے مجھے ایک سفید چمکدار کوئی چیز دکھائی، جو پانی اور شیشے کی طرح کی تھی۔ مجھے جس چیز کی خبر وہ دینا چاہتے اس (سفید چیز) میں تصویری شکل میں دکھادیتے، چنانچہ لوگوں نے اسکے ذریعے خبریں دیں، اور وہ جنات مجھ تک میرے مریدین کی بات پہنچادیتے جو مجھ سے مدد مانگتے۔“ (مجموع الفتاویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ)

اس واقعے میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ سفید چمکیلی چیز جو پانی اور شیشے کی طرح تھی۔ اس کو آپ باسانی ٹی وی اور کمپیوٹر مانیٹر کی اسکرین کہہ سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین میں کرنٹ دیں اس میں اگر کوئی سنگل نہ ہوں تو یہ سفید چمکدار، پانی اور شیشہ کی طرح ہی لگتی ہے۔ نئی ایل سی ڈی اسکرین میں یہ اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔

جنات اس کے اندر تصویری شکل میں خبریں دکھاتے۔ دوسری چیز مریدین کی آواز شیخ تک پہنچانا۔ یہ ریڈیو ہی کی طرح کوئی چیز ہوگی۔

جنات کی دنیاوی کاموں میں مہارت کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا گیا ہے۔: **يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قدور و راسيات (سورة سبا آیت ۱۳)**  
ترجمہ: وہ (جنات) سلیمان علیہ السلام کے لئے بڑی بلند و بالا تعمیرات، جسے، حوضوں جیسے بڑے بڑے برتن بناتے، اور جھمی ہوئی دیگیچیاں جیسا وہ چاہتے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ آئنسٹائن، نیوٹن، ڈارون اور لارڈ میکالے کے سحر میں اس بری طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ انکے خلاف کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا خواہ انکو کتنے ہی دلائل دیدیئے جائیں۔ نیز ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے صرف موجودہ دور ہی ترقی یافتہ ہے، پہلی قومیں ترقی یافتہ نہیں تھیں۔ امم سابقہ بھی اپنے دور میں ٹیکنالوجی کی معراج پہ پہنچتی رہی ہیں۔ البتہ بنیادی سائنس ہر ایک کی مختلف رہی ہے۔ مثلاً موجودہ سائنس تیز رفتار سفر کے لئے ہوائی جہاز کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیتی ہے۔ لیکن ماضی میں بعض قومیں ہم سے زیادہ تیز رفتاری سے زمین کے فاصلے طے کرتی رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انکو طیاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ یہی کام انھوں نے زمین کی کشش ثقل (Gravitation) ختم کر کے کیا، جو ہماری اس سائنس کی پہنچ سے ابھی تک باہر ہے، اور انتہائی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے۔ مصر کے فرعون بڑی بڑی چٹانیں بغیر کسی مشینری کے ہوا میں اٹھا لیتے تھے، جبکہ ہم اسکے لئے بڑی بڑی دیو ہیکل مشینری کے محتاج ہیں۔ لہذا یہ کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہودی سائنسدانوں کو انکی ایجادات میں جنات و شیاطین تعاون کرتے رہے ہوں۔



جبکہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسحاق نیوٹن (Issac Newton) ڈیوڈ ریکارڈو (David Ricardo) کارل مارکس (Karl Marx) فرائڈ (Freud) یونگ (Jung) صرف سائنسدان نہیں بلکہ کٹر یہودی روحانی شخصیتیں تھیں جو قبالہ (یہودیوں کا جادوئی علم) کا علم بھی رکھتی تھیں۔ انکے علاوہ کوپرنیکس (N.Copernicus) کیپلر (Keplar) گیلیلو (Galileo) بیکن (Bacon) دیکارتے (Descartes) والٹیر (Voltaire) روسو (Rousseau) ایبٹ سیس (Abbot seiyes) ڈانتن (Danton) ٹالسٹائی (Tolstoy) یہ تقریباً سب فریمیسن اور قبالہ (کبالہ) کے ماہر تھے۔



## رحمانی نظام بمقابلہ شیطانی نظام

مسلمانوں کے خلاف بے شمار شیاطین کام کرتے ہیں۔ ہر شیطان کا کام اور ذمہ داری الگ الگ ہے۔ اسکے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کے لئے اپنے فرشتوں کے ذریعے رحمانی نظام قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ رحمانی نظام انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ اسکی حساسیت کا اندازہ نماز میں نمازی کے آگے سے نہ گزرنے کے حکم سے لگا سکتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اسکے آگے سے اگر کوئی گزر گیا تو نماز پر کیا فرق پڑے گا؟ حالانکہ نماز پڑھنے والا اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ لیکن حدیث میں، نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں کتنی سخت ممانعت آئی ہے۔

یہ روحانی نظام پاکی و طہارت، صدق و وفا، اخلاص و لہیت اور تعلق مع اللہ پر قائم ہے۔ جوں جوں یہ تعلق کمزور ہوگا، مسلمان کا رحمانی دفاعی نظام بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔

دشمنان اسلام نے ہمارے اس رحمانی نظام کو گہرائی سے پڑھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انکو اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے کے لئے کن کن چیزوں سے روکنا ہے اور کن راہوں پر ڈالنا ہے۔ ان اللہ کے دشمنوں نے روحانی نظام میں ایسا فساد برپا کیا ہے کہ رحمت کی جگہیں بھی انکی شیطانی حرکات سے محفوظ نہیں ہیں۔ عام استعمال کی چیزوں کو بھی فساد زدہ کر کے مسلمانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ تعلیم جدید، سائنس و ٹیکنالوجی اور ادب تک میں زہریلی اثرات واضح محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں آگاہ فرمایا جو اس رحمانی نظام سے متعلق ہیں۔ کن اعمال کو اختیار کر کے اور کن باتوں سے خود کو بچا کر، ہم شیاطین و جنات اور جادو سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تدخل الملائكة بیتا فیہ کلب ولا صورة  
تماثیل (متفق علیہ)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں کتا اور جاندار کی تصویر ہو۔

مستدرک حاکم کی روایت میں جنبی (ناپاک آدمی) کا بھی ذکر ہے۔ جبکہ ابوداؤد کی روایت میں گھنٹی کا بھی ذکر ہے۔

حدیث میں بیان کردہ اس رحمانی نظام کو سامنے رکھئے اور آج مسلمانوں کے گھروں کا جائزہ لیجئے۔ تصاویر سے تو پہلے ہی گھر بھرے ہوئے تھے، اب تو خنزیر اور کتوں کے کارٹونز نے ایسا قبضہ کیا ہے کہ بچے ہر وقت اپنے آغوش میں ہی چھپائے پھرتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح گھروں کے دروازوں پر گھنٹیاں ٹانگ دی گئی ہیں۔ یہ وہ گھنٹیاں ہیں جو دستک والی گھنٹی (Door Bell) کے علاوہ ہیں یہ گھنٹیاں چھت سے لٹکی ہوتی ہیں جنکو ہاتھ سے بجایا جاتا ہے۔ تاکہ کوئی فرشتہ اگر دروازے تک آجاتا ہو، تو وہ بھی دور سے ہی بھاگ جائے۔

چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم خود کو، اپنے بچوں اور اپنے گھروں کو کس طرح جادو، جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام شروع کرتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح شام یا سفر پر نکلتے وقت مسنون دعائیں سکھائی ہیں، تاکہ ہمارے اردگرد رحمانی دفاعی نظام مضبوط رہے۔ رات کو سونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، یہ تمام دعائیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ ان دعاؤں میں ہی غور کریں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ شیاطین کہاں کہاں ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ اللہ کا دشمن شیطان تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کا کھانا صحیح حالت میں اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں بھی وہ شریک ہو جاتا ہے۔ اور اس کھانے کو خراب کر دیتا ہے۔

شیطان اولاد میں شریک ہو جاتا ہے

اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان انسان کے ساتھ اسکی اولاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

عن ابی ہریرہ قرظی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یشار کہم الشیطان فی اولادہم قیل و کائن ذلک یا رسول اللہ؟ قال نعم قال و کیف نعرف اولادنا من اولادہم قال: بقلة الحیاء و قلة الرحمة (رواہ الدیلمی، بحوالہ جمع الجوامع للسیوطی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انکی اولادوں میں انکے ساتھ شیاطین شریک ہونگے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں۔ کسی نے پوچھا، ہم اپنی اور ان (شیاطین) کی اولاد کے درمیان کیسے تمیز کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قلت حیاء اور قلت رحم کے ذریعے۔

یہ روحانی نظام ہی ہے کہ ایک انسان کی نظر دوسرے انسان کے جسم پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا، صحت مند انسان کسی کے دیکھنے اور تعریف کر دینے سے، چلتے چلتے گر جاتا ہے۔ کسی کی نظر لگ جانے سے صاف ستھرے چہرے پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اچھے بھلے صحت مند نوجوان کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں۔

اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ کوئی نعمت ملے تو اس پر ماشاء اللہ لا توة الا باللہ کہنا چاہئے۔ نظر لگنے کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں۔

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین

حقق ونہی عن الوشم (صحیح بخاری باب العین حق)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر کا لگنا حق ہے اور جسم گودنے (Tattooing) سے منع فرمایا۔

مسلمان کے دفاع کا رحمانی نظام اور اسکو نقصان پہنچانے کی کوششیں

انسانیت کے دشمنوں نے اس بات پر سخت محنت کی ہے کہ انسان کو قدرت کے فطری نظام سے ہٹا کر فطرت کے خلاف بنائے گئے، شیطانی نظام کے تابع کر دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے پہلے یہ تجربات یورپ میں کئے اور اہل یورپ کو فطری طرز زندگی سے ہٹا کر مکمل شیطانی طرز زندگی کا اسیر بنا دیا۔ فطرت کے خلاف زندگی گزارنے کا جو نقصان بنی نوع انسان کو ہوا ہے، اسکے لئے یورپ و امریکی معاشرے کا مطالعہ عبرت کے لئے کافی ہے۔ جبکہ ہمارا معاشرہ بھی ان رستوں پر بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑا چلا جا رہا ہے۔ وہی تمام حربے اور نعرے عالم اسلام کے خلاف استعمال کئے جا رہے ہیں۔ ان کی انتھک محنتیں اس بات پر صرف ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو رحمانی نظام سے دور کر دیا جائے، تاکہ ان پر شیطانی حملے زیادہ کارگر ہو سکیں۔

احادیث میں مرغ کی اہمیت

یہاں سمجھنے کے لئے بہت آسان سی مثال دیئے دیتے ہیں۔ پہلے دیسی مرغ ہر گھر میں ہوا

کرتے تھے۔ جو کہ وقتِ سحر سے لیکر شام تک وقتاً فوقتاً بانگ (اذان) دیتے رہتے تھے۔ دیسی مرغ کے جہاں ظاہری فائدے ہیں، وہیں روحانی فائدے بھی ہیں۔ لیکن ”تہذیب جدید“ کے راستوں پر قدم رکھنے کے بعد، انسان اپنے ظاہری اور باطنی نفع و نقصان سے اس طرح غافل ہو جاتا ہے جیسے، وہ انسان جس پر جنات نے قبضہ کر لیا ہو۔ نہ اپنی سوچ باقی رہتی ہے، نہ اپنی پسند و ناپسند، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہی اختیار کرتا ہو جو یہ ”تہذیب“ چاہتی ہے۔ اسکی سیکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ لیکن صرف مرغ کی مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔

مرغ (دیسی گھر والا) کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ (دیسی، گھر والے) کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔

1..... عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسئلوا اللہ من فضلہ فانہا رأت ملکاً و اذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فانہ رای شیطانا (متفق علیہ۔ اخرجه البخاری فی : کتاب بدء الخلق)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مرغ کے (بانگ کی) آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو۔ کیونکہ اس مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، کیونکہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ (متفق علیہ)

فائدہ..... قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”مرغ کی بانگ کے وقت فرشتے ہوتے ہیں جو دعا کرنے والے کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اسکے لئے استغفار کرتے ہیں، اور اسکے اخلاص اور خشوع کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لئے اس وقت کو دعا کے لئے مستحب کہا گیا ہے۔“

2..... قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تسبوا الدیک فانہ یوقظ للصلاۃ (مسند احمد۔ ابو داؤد۔ باب ما جاء فی الدیک والبهائم) قال البانی رحمۃ اللہ علیہ : صحیح

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرغ کو برا بھلا نہ کہو۔ کیونکہ وہ نماز کے لئے بیدار کرتا ہے۔

3..... عن عیسیٰ الیزنی قال : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الدیک الابيض ویامر باتخاذہ ویقول : انه یؤذن للصلاۃ، ویوقظ النائم، ویطرد

الجن بصياحه (اتحاف الخيرة الماهرة للبوصيري. المطالب العالية لابن حجر  
عسقلانير حمة اللہ علیہ)

ترجمہ: حضرت عبیدہ یزنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید مرغ کو پسند فرماتے تھے، اور نماز کے اوقات اور بیدار ہونے کے لئے اسکو رکھتے تھے، اور فرماتے تھے، یہ مرغ نماز کی اذان دیتا ہے، سو توں کو (نماز کے لئے) جگاتا ہے، اور اپنی بانگ سے جنات کو دور کرتا ہے۔

فائدہ..... یہ آخری روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس مفہوم کی روایتیں مختلف طرق سے، مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ جن میں یہ ذکر ہے کہ سفید مرغ گھر میں ہو تو اس گھر میں شیطان اور جادو قریب نہیں آتے۔ بعض محدثین نے ایسی روایات کو ضعیف اور بعض کو موضوع کہا ہے۔ جبکہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ“ میں اسی طرح کی ایک حدیث ”الديك الابيض الافرق حبيسي“ (سفید مرغ، جس کی کلفتی شاخ شاخ ہو، وہ میرا دوست ہے) کے بارے میں فرماتے ہیں:

”قال ابن حجر لم يتبين لي الحكم بالوضع قلت وقد روى من طرق  
بالفاظ مختلفة واكثرها لفظ الديك الكبير الابيض فيكون الحديث ضعيفا لا  
موضوعا (الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعۃ ج: ۱ ص: ۱۷۲)

ترجمہ: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں وضع کا حکم مجھ پر واضح نہیں ہے۔ میں (امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ) نے کہا یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد طرق سے روایت کی گئی ہے۔ اکثر روایات میں ”بڑے سفید مرغ“ کے الفاظ آئے ہیں۔ لہذا حدیث ضعیف ہوئی نہ کہ موضوع۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغ کے فضائل کے بارے میں ”الوديك في فضل الديك“ کے نام سے کتابچہ لکھا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرغ کے فضائل پر ایک کتابچہ لکھا ہے۔ (بحوالہ كشف الظنون)

نوٹ: حدیث میں بیان کئے گئے مرغ سے کیا صرف دیسی مرغ مراد ہے یا فارمی بھی اسکا مصداق ہوگا۔ کیونکہ مرغ کو جن خصوصیات کی بناء پر پسند فرمایا گیا ہے وہ صرف دیسی مرغے میں پائی جاتی ہیں۔ فارمی مرغ نہ تو سحری کے وقت اذان دیتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کو بیدار کرنا تو دور کی بات وہ خود ہر وقت بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اس فرق کو وہ حضرات اچھی طرح سمجھ سکتے

ہیں جو دیسی اور فارمی کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک انتہائی قیمتی چیز (دیسی مرغ) سے ہٹا کر فارمی مرغ پر لگا دیا گیا ہے۔ فارمی مرغ کی غذا، کیمیکل بھرے انجکشن اور مختلف دوائیاں ہیں۔ قدرتی نظام کے مقابلے، مصنوعی نظام کے ذریعے فارمی مرغ تیار کئے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان دونوں میں لذت اور تاثیر کا تعلق ہے تو یہ فرق بھی بہت واضح ہے۔

گھر میں مرغ ہوگا اور جتنی بار بانگ دیگا اتنی ہی بار تمام سننے والے اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مانگیں گے۔ فرشتے کے آنے کا علم ہوگا۔ اور بہت سارے فوائد ہیں جن سے ”تہذیب جدید“ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا ہے۔

ہم نے مرغ کی مثال آسانی سے سمجھنے کے لئے دی ہے۔ ورنہ رحمانی نظام کو متاثر کرنے اور مسلمانوں کا رابطہ فرشتوں سے کاٹنے کے لئے، دین کے دشمنوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ہمارے اوپر یلغار کی ہے۔ اس دور میں کتنی ہی چیزیں آپ ایسی دیکھیں گے، جن میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا گیا ہے، اگر غور کریں گے تو اسکا کوئی فائدہ (دنیاوی بھی) نظر نہیں آئے گا۔ لیکن لوگ اس کو اختیار کئے ہونگے۔ نہ وہ اسکی حقیقت کو جانتے ہیں اور نہ انھیں اس بات کا علم ہے کہ اس کام کے کرنے سے وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت اور خرابی غذائی اشیاء میں کی گئی ہے۔ چنانچہ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خصوصاً وہ مصنوعات جنکو میڈیا کے ذریعے بہت جلد مشہور کر دیا جائے۔

جیسا کہ بتایا گیا کہ دشمنانِ اسلام نے ہمارے دفاعی نظام پر حملہ کیا ہے جسکے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں ایسا خود کار نظام وجود میں آچکا ہے کہ دنیا جہاں کے شیاطین کی ہر قسم ہمارے گھروں اور گلی جملوں میں موجود رہتی ہے۔ جو کچھ کی باقی تھی وہ رہائشی کمرے سے متصل لیٹرین (Attach Bath) نے پوری کر دی ہے، جہاں شیاطین کے لشکر کے لشکر رہتے ہیں۔ یہی حال مساجد کے ساتھ عوامی لیٹرین کا ہے، جسکی جانب علماء کرام کو توجہ مبذول کرنی چاہئے۔

مساجد کے ساتھ لیٹرین

مساجد کے اندر لیٹرین بنانے کا جو رواج عام ہوا ہے، اس میں چند باتیں توجہ طلب ہیں:

1..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مسجد میں پیاز وغیرہ کھا کر آنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ اسکے کھانے سے، منہ سے بد بو آتی ہے۔ جبکہ پیشاب خانے یا لیٹرین سے جو بد بو نکلتی ہے،

اسکو فرشتے کس طرح برداشت کرتے ہونگے۔

2..... پیشاب خانے اور لیٹرین نجاست کی جگہ ہیں۔ ہر گندی جگہ ابلیس اور اسکی ذریت کا ٹھکانہ

ہوتی ہے۔ مسجد میں بھی اگر انکے ٹھکانے بنا دیئے جائیں تو بیچارے مسلمان کہاں جائیں گے۔

3..... بعض مساجد کے پیشاب خانے سے اٹھنے والی سڑاند، اس قدر سخت ہوتی ہے کہ آدمی مسجد

میں داخل ہوتے وقت دعا کے لئے منہ کھولتا ہے تو دعا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے

شہروں تک میں بندے نے ایسی صاف مسجدیں دیکھی ہیں، کہ داخل ہوتے ہی، پیشاب کی سڑاند

کا جھونکا منہ سے ٹکراتا ہے۔ اس سے نمازیوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔

4..... کیا کوئی افسرانہ دفتر میں عوامی لیٹرین بنوانا پسند کریگا؟ اس گندے کام کے لئے کیا اللہ کا

گھر ہی رہ گیا ہے کہ جس راہ چلتے کا دل کرے، مسجد کا پتہ پوچھے اور غلاظت نکال کر چلتا بنے۔

5..... آپ کو یہ جملہ کیسا لگے گا اگر کوئی کہے ”پاخانہ کرنا ہے“ اسکو کہا جائے ”فلاں صاحب (مثلاً

ایس پی صاحب، محترم وزیر، عزت مآب، صدر صاحب) کے گھر میں کر آؤ“۔ یا پھر کہیں لکھا ہوا

دیکھیں ”مسجد لیٹرین“۔

6..... اکثر مساجد میں پیشاب خانے و وضو خانے سے متصل ہوتے ہیں جہاں سے تعفن کے

جھونکے وضو خانے میں آرہے ہوتے ہیں۔ وضو میں حاضر ہونے والے فرشتوں پر کیا بتیتی ہوگی۔

7..... بدبو کی جگہ پرفرشتے زیادہ ہونگے یا شیاطین؟

8..... آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب مجبوری کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ سو اس مجبوری کو مسجد

سے دس پندرہ میٹر دور نہیں لے جایا جاسکتا؟ نیز علماء نے صرف اجازت دی ہے واجب نہیں کہا۔

9..... اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو کسی تجارتی مرکز، کسی سرکاری دفتر یا کسی اور اہم جگہ نمازیوں کے

لئے لیٹرین بنوائی جاسکتی ہے۔

10..... یہ کم علم جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مسجد کے تقدس، اسلام کے روحانی نظام

اور شیاطین سے حفاظت کے پیش نظر اس جانب توجہ دلائی ہے۔

مسلمانوں کے رحمانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک اور مثال جمعہ کا دن ہے۔ جمعے کے دن کی

چھٹی ختم کرنا اور اس دن، جمعے کی نماز سے پہلے، لوگوں کو بازاروں اور دفتروں میں مصروف

رکھنا، اتنا بڑا نقصان ہے کہ مسلمان ساری دنیا کی دولت بھی کمالیں تو ایک جمعے کے روحانی نقصان

کی تلافی نہیں کر سکتے۔



جنات اچک لینگے.....رحمانی حصار میں آجائے!

ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھر اور خصوصاً اپنے بچوں پر بہت توجہ دینی ہوگی۔ کیونکہ فتنوں نے یلغار ہر طرف سے کی ہے۔ یہ یلغار بچوں کے اسکولوں میں بھی ہے جہاں انکو کارٹون بنانا اور رکھنا، جسم پر نقش و نگار (Tattoo) وغیرہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اہل محلہ کو ساتھ لے کر اسکول کے ذمہ داران سے ملاقات کریں اور اسلام کے رحمانی نظام کے بارے میں انکو آگاہ کریں۔ یہ کوئی عقلمندی نہیں ہے کہ اسکول والوں کو مہنگی فینیس بھی دیں اور اپنے بچوں پر شیاطین و جنات بھی مسلط کرائیں۔ اسکے خلاف ہمیں ہر جگہ اور ہر مجلس میں دوستوں رشتے داروں کی ذہن سازی کرنی چاہئے۔ اور لوگوں کو اسکی مخالفت کرنے کی ترغیب دینی چاہئے۔ اسی طرح بچوں کے کپڑوں پر کارٹون کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اسکی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے۔

اسکے نقصانات ہر گھر میں دیکھے جاسکتے ہیں، گھر گھر جادو اور جنات کی شکایات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے ارد گرد رحمانی دفاعی نظام قائم کرنے کے لئے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ نیک اعمال (جن میں جہاد ان سب کی چوٹی ہے) رزقِ حلال اور ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کیجئے۔ رحمانی نظام کے ہوتے ہوئے شیطانی حملے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ شیاطین فرشتوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ جہاد کی تیاری (گھوڑا، اسلحہ وغیرہ) سے بھی شیطانی قوتیں دور بھاگتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر بھی شیاطین بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کیجئے جنکے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔

گھروں سے تصاویر، موسیقی، گانے بجانے گھنٹیاں اور ہر وہ چیز جس سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، نکال پھینکیں۔ کیونکہ موسیقی کی ہر دھن کے ساتھ الگ الگ جنات (شیطان) ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ ہر وقت حالتِ جنگ میں ہے۔ اسکا دشمن کھلا دشمن ہے جو ہر وقت آپکے غافل ہونے کی تاک میں رہتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ اس دور میں ان چیزوں سے کیسے بچا جاسکتا ہے۔ یہ جملہ ایمان کی کمزوری، آخرت پر یقین نہ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا ہو وہ ہر حال میں اسکو بچانے کی فکر کرتا ہے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا۔ دشمن بھی اپنے کام میں لگا ہے آپ بھی لگے رہئے اللہ کی مدد سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ شیاطین و جنات کا زور انہی پر چلتا ہے جو اسکو دوست بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ابلیس نے خود اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں سب انسانوں کو اغواء

کر لو نگا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہ لیس له سلطان علی الذین امنوا و علیٰ ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون (النحل ۱۰۰)

ترجمہ: بیشک اس (شیطان) کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بلاشبہ اسکا زور انہی پر چلتا ہے جو اسکو دوست بناتے ہیں اور جو اسکو شریک بنانے والے ہیں۔

لہذا ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، حرام مال سے اجتناب، گانے بجانے سے دوری اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہئے۔ اگر کوئی پریشانی ہو بھی تو پیشہ ور پیروں کے بجائے ایسے علماء کے پاس جائیے جو شریعت کا علم رکھتے ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ نیز اللہ کے نیک بندوں کو ان جادو گروں کی بھی خبر لینا چاہئے جنہوں نے عام مسلمان کی زندگی عذاب بنا دی ہے، جو ہمارے علماء پر مسلسل یلغاریں کر رہے ہیں۔ پہلے علماء سے دریافت کریں کہ شریعت میں ان جادو گروں کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیں۔ آمین



## کیا موجودہ فتنوں میں خاموش رہنا چاہئے؟

دو حاضر میں عالم اسلام کو جس قسم کی صورت حال کا سامنا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہئے؟ کسی کا ساتھ دینا چاہئے یا خاموش بیٹھے رہنا چاہئے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے وقت میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہئے بلکہ خاموش رہنا چاہئے؟

اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے فتنوں کو الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ ہر فتنے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر فتنے سے ایک ہی طریقہ سے بچا جائے گا، یا پھر ایک فتنے سے بچنے کے لئے دوسرے فتنے کی تدبیر اختیار کر کے بچا جاسکے گا۔

آسانی سے سمجھنے کے لئے یہاں ہم مختلف احادیث نقل کر رہے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فتنوں کو بیان فرمایا اور ان میں کیا معاملہ اختیار کرنا ہے وہ بھی بیان فرمایا:

1..... عن ابی ذر: قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت علیک امرء یؤخرون الصلاة عن وقتها او یمیتون الصلاة عن وقتها قال: قلت فماتامرنی؟ قال: صل الصلاة لوقتها فان ادرکتہم معہم فصل فانہا لک نافلة (اخرجه مسلم فی صحیحہ)

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے اوپر ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو انکے اوقات سے مؤخر کر کے ادا کریں گے یا نمازوں کو برباد کر کے ادا کریں گے اس کے وقت سے ہٹا کر۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے پوچھا: آپ مجھے ایسے وقت میں کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نمازوں کو انکے وقت میں ادا کرنا۔ اور اگر ان حکمرانوں کے ساتھ پڑھنی پڑے تو پڑھ لینا وہ تمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔ (مسلم شریف)

فائدہ..... اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت کو برباد کرنے کے فتنے

کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسکا حل بھی بتایا۔ اب یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فتنہ ہے اور فتنے میں گھر میں دب کر بیٹھ جانا چاہئے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں بلکہ علاج بھی وہی کیا جائے گا جو زبان نبوت سے بیان ہوا۔ چنانچہ بنو امیہ کے دور میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ خصوصاً حجاج بن یوسف کے وقت میں۔ جن علماء حضرات نے اسکے خلاف خروج کیا اسکی ایک وجہ نمازوں کے وقت کو ضائع کرنا بھی بیان کی تھی۔

**2**..... عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس فی الفتن رجل آخز بعنان فرسه أو قال برسن فرسه خلف أعداء اللہ یخیفہم ویخیفونہ أو رجل معتزل فی بادیتہ یودی حق اللہ الذی علیہ . (ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ . ووافقہ الذہبی رحمۃ اللہ علیہ) (المستدرک علی الصحیحین )

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام یا فرمایا اپنے گھوڑے کی تکیل پکڑے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہو، وہ اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہو اور وہ اس کو ڈراتے ہوں، یا وہ شخص جو اپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہو جائے، اس پر جو اللہ کا حق (زکوٰۃ وغیرہ) ہے اس کو ادا کرتا ہو۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

فائدہ..... اس حدیث میں فتنوں ہی کے وقت میں جہاد کرنے والے کو سب سے افضل بتایا گیا ہے۔

**3**..... عن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ أنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شک أن یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بہا شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن . (بخاری شریف، ج: ۱، ص: ۱۵). (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۷، ص: ۲۳۸) (مسند ابی یعلیٰ، ج: ۲، ص: ۲۷۱)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور (دور دراز کے) بارانی علاقوں میں دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ جائے۔ فائدہ..... اس حدیث کے الفاظ اگرچہ عام ہیں۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت

نے اس پر اس وقت بھی عمل کیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ چھوڑ کر دور دیہات میں چلے گئے۔

یہ حدیث ایسے دور کو بھی بیان کر رہی ہے جس میں ہر قسم کا فتنہ ہوگا۔ ان فتنوں سے وہی نجات پائے گا جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ جائے گا۔ کیونکہ گھر میں خود کو بند کر لینے سے بھی ان فتنوں سے نہیں بچا جاسکے گا۔ فتنے گھر میں گھس کر حملہ آور ہونگے۔

علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ ’التمہید لما فی المؤمنین من المعانی والاسانید‘ میں فرماتے ہیں: ’بل اراد بقولہ یفر بدینہ من الفتن جمیع انواع الفتن‘ (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں لفظ ’الفتن‘ جمع کا لفظ ہے جس سے مراد ہر قسم کے فتنے ہیں)۔

انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ سودی نظام کے دنیا پر مسلط ہو جانے کا ہے، جسکو سود والی حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت حرام خوری عام ہو جائے۔ لوگوں کا کاروبار بھی عالمی سودی مالیاتی نظام کے تحت چل رہا ہو۔ لوگوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرنے کی صورت میں مسلمان حرام کھانے سے نہ بچ سکتا ہو۔ ایسے وقت میں حرام سے بچنے کے لئے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ جائے اور وہاں حلال روزی یعنی بکریوں کی آمدنی سے کھائے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی گھر ہی میں رہے تو وہاں اسی سودی مالی نظام کے تحت کمائی گئی آمدنی سے کھائے گا۔ سو جو کھائے گا وہ سود یا اسکا غبار کھائے گا۔

شرح بخاری ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ’فتح الباری‘ میں فرماتے ہیں: ’اس فتنے کے وقت میں بہترین مال بکریاں ہونگی۔ کیونکہ انکو لے کر جو لوگوں سے دور چلا جائے گا وہ انہی بکریوں کا گوشت کھائے گا، انکا دودھ پئے گا، اور اسکے اون کا لباس پہنے گا۔ جبکہ یہ بکریاں پہاڑوں پر گھاس کھائیں گی، اور پانی پیئیں گی، یہ فائدے بکریوں کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ اسی لئے فرمایا: پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے۔ کیونکہ یہ چوٹیاں دشمن سے پناہ لینے والے کو دفاع فراہم کرتی ہیں‘۔ (فتح الباری ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ)

4..... عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعة فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا القاعد فیہا خیر من القائم والماشی فیہا خیر من الساعی فکسر و اقسیم و قطعوا و اتار کم و اضربوا

سیوفکم بالحجارة فان دخل - یعنی - علیٰ احد منکم - فلیکن کنخیر ابنی

آدم“ (اخرجه ابو داؤد بسند صحیح، واحمد، وابن ماجہ والحاکم والبیہقی)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت سے پہلے فتنے ہونگے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہونگے، ان میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، ان فتنوں کے وقت، بیٹھنے والا، کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، لہذا تم (اس وقت) اپنی کمانون کو توڑ دینا، اور کمانون کی تانوں کو کاٹ دینا، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مارنا (کنڈ کر دینا)۔ پھر اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ (ہائیل کی طرح جو قتل ہو گیا تھا)۔

فائدہ..... اس حدیث میں ایسے وقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب لڑنے والی دونوں جماعتیں اہل حق کی ہوں۔ ایسے وقت میں کسی کے خلاف ہتھیار نہیں چلانا چاہئے۔ نیز یہ حکم اس وقت بھی ہوگا جب کسی مسلمان کو اہل حق کے خلاف لڑنے کا حکم دیا جائے۔

5 عن بن مسعود قال اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمة سیفا فقال: قاتل به المشرکین ما قاتلوکم فاذا قاتل المسلمون فأت بہذا احد افاضرب بہ حتی ینشلم وینقطع ثم ارجع الی بیتک فکن حلسا من أحلاس بیتک حتی یتیک ید خاطئة او منیة قاضیة (کنز العمال اخرجہ ابن عساکر)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تلوار دی۔ اور کہا اس تلوار سے مشرکین سے قتال کرنا۔ جب تک وہ قتال کرتے رہیں۔ پھر جب مسلمان آپس میں لڑنے لگیں تو اس تلوار کو احد پہاڑ کے پاس لانا اور اس پر مار مار کر اسکو کنڈ کر دینا اور توڑ دینا، پھر گھر واپس آنا اور گھر سے ہی چپکے رہنا۔ یہاں تک کہ کوئی وار یا موت تمہیں پہنچ جائے۔ جبکہ ابوداؤد ہی کی دوسری روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں ”قالوا فما تامرنا قال کونوا احلاس بیوتکم“..... صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ! ایسے وقت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”گھروں سے چپکے جانا۔ یعنی گھر سے باہر نہیں نکلنا۔“

اوپر بیان کی گئی احادیث میں سے حدیث نمبر ۳، ۴، ۵ کا مصداق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے، مشاجرات صحابہ کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے اس فتنے کے

جائے تو ظاہر ہے ایسی تلوار چلانے کے فضائل تو دور کی بات ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لہذا ایسی جنگ میں شریک ہونے سے بہتر ہے کہ اس تلوار کو توڑ دے۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایک شخص سپاہی ہے، اسکا ذریعہ معاش ہی مالِ غنیمت ہے یا بیت المال سے ملنے والا وظیفہ، سو اب وہ کہاں سے کھائے گا؟  
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا جواب بھی دیا۔ فرمایا: بکریاں لے کر پہاڑوں میں نکل جائے اور حلال رزق کھائے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آجائیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مقتول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ (متفق علیہ)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”مرقات“ میں اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:  
اس حدیث کا مصداق مسلمانوں کے درمیان وہ جنگ ہے جو، کسی عصبیت، حمیت اور جاہلیت کی بنا پر ہو، جیسا کہ دو علاقوں کے مسلمانوں کے مابین، دو قبیلوں کے مابین، اور اس جنگ میں کوئی شرعی پہلو نہ ہو جسکی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی فریق شریعت کی بالادستی کے لئے نکلا ہو، اور اس حدیث کو مسلمانوں کے مابین ہر قسم کی لڑائی مثلاً قضیہ صفین وغیرہ پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔ (مرقات المفاتیح)

اگر ایک طرف امریکہ کے لئے لڑنے والا عراقی فوجی ہو اور دوسری جانب مجاہد فی سبیل اللہ تو کیا نعوذ باللہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے؟ اسی طرح طالبان اور حامد کرزئی کی فوج آمنے سامنے ہو؟ ہرگز نہیں۔

خلاصہ بحث..... مذکورہ تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں کسی کا ساتھ نہ دینے کا حکم فرمایا اس سے مراد یہ جنگ نہیں جس میں ایک طرف تمام کفریہ طاقتیں ہیں اور دوسری جانب اللہ کے دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کے لئے لڑنے والے طالبان اور مجاہدین ہیں۔

بلکہ اس جنگ سے مراد وہ ہے جسکو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا: یعنی وطنیت، قومیت، لسانیت اور کسی بھی عصبیت کی بنیاد پر لڑی جانے والی جنگ۔ یعنی تلواریں توڑنے کا حکم

امریکہ کی خاطر مجاہدین سے جنگ کرنے والوں کے لئے ہے۔ اگر انکو مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لئے مجبور کیا جائے تو وہ اسلحہ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں، اگر گھر میں بھی مجبور کئے جانے کا خطرہ ہے تو پھر ایسے پہاڑوں میں بھاگ جائیں جہاں اس گناہ پر انکو کوئی مجبور نہ کر سکے۔ یہی حکم بھارتی فوج میں موجود مسلمانوں کے لئے ہے۔ بلکہ ہر مسلمان کے لئے یہ حکم عام ہے۔ کہ اسلام کی سربلندی کے لئے لڑنے والوں کے مقابلے جنگ نہیں کی جائے گی۔

ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرفت له و اشراف اللسان فيه كوقوع السيف. (اخرجه ابو داؤد رقم ۴۲۶۳. والطبرانی فی الاوسط رقم ۷۸۷۱) ترجمہ: عنقریب ایسا فتنہ ہوگا، جو بہرہ، گونگا، اندھا ہوگا۔ جو اسکے قریب آیا یہ اسکو کھینچ لے گا، اس فتنے میں زبان کا کھولنا ایسا ہوگا جیسے تلوار چلانا۔

فائدہ..... ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اس میں حق و باطل کی تمیز نہیں ہوگی، اور نہ نصیحت و خیر خواہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کو سنا جائے گا۔ (بحوالہ عون المعبود)

اس حدیث میں جو فتنہ ہے اس میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ شاید اس کا مصداق وہ جنگ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی۔ اس میں خاموش رہنے کا حکم فرمایا گیا۔ دونوں میں سے کسی کے بارے میں برائی نہ کی جائے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ فتنے کے وقت میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے فتنہ اور زیادہ بھڑکے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے احتمال کو زیادہ مناسب کہا ہے۔ جبکہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے احتمال کو زیادہ راجح بتایا ہے۔

موجودہ دور میں اسکی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ میڈیا نے لوگوں کو ایسا اندھا، بہرہ اور گونگا (پینا ناز) کر دیا ہے کہ جو میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اسکے علاوہ نہ کچھ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ سوات کی ایک جعلی ویڈیو دکھا کر میڈیا نے لوگوں کو ایسا اندھا اور بہرہ کیا، کہ اکثریت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اسلامی سزاؤں کے خلاف زبان درازی کرتی رہی، اور اپنا ایمان تباہ کرتی رہی، نہ کوئی حق سن رہا تھا نہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔

اسکی ایک اور بڑی واضح مثال لال مسجد اور جامعہ حفصہ کا مسئلہ ہے۔ حکومت نے اس مسئلے کو اس انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا کہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہو گئے۔ اس فتنے میں اس بری طرح پھینسے کہ حق کے مخالف ہو گئے۔ اس وقت جو لوگوں کی زبانیں چلیں الامان



الحفیظ۔ حتیٰ کہ بہت سی زبانیں معصوم طالبات کے قتل کا سبب بنیں۔ لہذا ایسے فتنے میں جب لوگوں نے باطل کو حق سمجھ لیا ہو اور ساری زبانیں حق کے خلاف چل رہی ہوں، اور باطل کی تقویت کا سبب بن رہی ہوں، اس وقت زبان کو کھولنا ایسا ہے جیسے ہتھیار چلانا۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ لوگ کس طرح اندھے، بہرے اور گونگے ہو گئے تھے، سب کی زبانوں پر صرف وہی بات تھی جو مشرف کے دربار شاہی سے بیان کی جاتی تھی۔ آج بھی عوام کے جتنے بھی اعتراض جہاد و مجاہدین کے بارے میں ہیں یہ سب اسی دجالی میڈیا نے ذہنوں میں انڈیلے ہیں، اور واقعی لوگوں کو پینا نائز (اندھا، بہرہ، گونگا) کیا ہوا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

نیز اس بحث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہر فتنہ دوسرے سے مختلف ہے اسی طرح ہر ایک کا علاج وہی ہوگا جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ (واللہ اعلم)  
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتنوں کے بارے میں اگرچہ یہ فرمایا کہ تم گھر میں بیٹھے رہنا کسی کا ساتھ نہ دینا۔ اپنی تلوار کند کر دینا اور کمان توڑ دینا۔

اس حدیث سے مراد وہی صورت حال ہے جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔

کیا یہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائی ہے؟

اگر کوئی ان مذکورہ احادیث کو آڑ بنا کر، موجودہ دور میں ایسا کرنا چاہے تو یہ ہرگز درست نہیں۔ مثلاً عراق والے کہیں کہ عراق میں مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے، لہذا یہ فتنہ ہے اور فتنے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہئے، یا افغانستان والے کہیں طالبان بھی مسلمان اور کرزئی اور اسکی فوج بھی مسلمان لہذا یہ جہاد نہیں ہے۔ یہ فتنہ ہے۔ ایسا سوچنا صریح طور پر قرآن و احادیث کی من مانی تشریح کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پر کافروں کی جانب سے لڑنے والوں کو وہی حکم بیان فرمایا ہے جو کافروں کا ہے۔ محدثین اور فقہاء نے ایسے لوگوں کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کئے ہیں۔

آج جو جنگ جاری ہے یہ جنگ کفر و اسلام کے مابین ہے۔ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ امریکہ اور اسکا اتحاد مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے۔

لہذا ایسے وقت میں اگر کوئی مسلمان، انفرادی طور پر یا جماعت و حکومت کی شکل میں امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور انکے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے تو کیا اس کو مسلمانوں کے

مابین جنگ کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے سروں پر قرآن کریم بھی اٹھائے پھر میں تو انکو وہی حکم ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔

عراق میں نوری الماکی اور اسکی رافضی پولیس امریکہ کا ہراول دستہ بنی، جس نے امریکیوں کے ساتھ مل کر امریکیوں سے بڑھ کر سنی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ انکا قتل عام کیا، کلمہ گو بہنوں اور بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا، نمازیوں کے اوپر مسجدوں کی چھتوں کو گرا دیا گیا، املاک لوٹ لی گئیں۔ عالم عرب کے علماء حق نے امریکیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔ مجاہدین نے جہاد کا آغاز کیا۔ چونکہ نوری الماکی کی فوج امریکہ کا ہراول دستہ ہے لہذا پہلے ٹکراؤ انہی سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اسکو یہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے اس میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہئے، تو یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ بلکہ شریعت کی رو سے ان کی سزا امریکی کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔

یہی معاملہ افغانستان میں حامد کرزئی اور اسکی مرتد ملیشیا کا ہے جنہوں نے اللہ کی سر زمین سے اللہ کا نظام مٹا کر دجال کے لشکر کو وہاں لا بٹھایا۔ اسکے بعد طالبان نے امریکہ کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا۔ کیا اسکو مسلمانوں کی آپس کی جنگ کہا جائے گا؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے دین پر راضی نہ ہوئے اور امریکہ کے دین پر راضی ہیں۔ نیز یہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں لہذا جو حکم امریکیوں کا ہے وہی انکا بھی ہے خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں یا لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہوں۔ قرآن کریم کی واضح آیات اس بارے میں موجود ہیں۔

اسی طرح اگر بھارت میں کوئی مسلمان جماعت، بھارتی فوج کے ساتھ ملکر مجاہدین سے جنگ کرتی ہے، تو اسکا حکم بھی ہندو کافروں جیسا ہی ہوگا۔ اسکو مسلمانوں کی آپس کی جنگ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک طرف اہل حق ہیں دوسری جانب اسلام کے دشمن کفار اور انکے بھائی منافق، جو کافروں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔

اس بات کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ مسلمانوں کے مابین ہونے والی ہر قسم کی جنگ کو فتنہ کہہ دیا جائے اور تلواریں کمانیں توڑ کر اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اگر ایسا ہوتا، تو یہودی اس کا خوب فائدہ اٹھاتے۔ وہ مسلمانوں جیسے نام رکھتے اور سارے عالم اسلام پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے بچے بچے کو قتل کرتے رہتے، (نعوذ باللہ) مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرتے اور یہ حدیثیں بڑے بڑے بیوروں پر لکھ کر اپنے ساتھ لے کر چلتے، اگر کوئی مسلمان ان سے مزاحمت کرتا تو اسکو یہ حدیث سناتے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ نہ دو۔ اس

مابین جنگ کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے سروں پر قرآن کریم بھی اٹھائے پھر میں تو انکو وہی حکم ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔

عراق میں نوری المالکی اور اسکی رافضی پولیس امریکہ کا ہراول دستہ بنی، جس نے امریکیوں کے ساتھ مل کر امریکیوں سے بڑھ کر سنی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ انکا قتل عام کیا، کلمہ گو بہنوں اور بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا، نمازیوں کے اوپر مسجدوں کی چھتوں کو گرا دیا گیا، املاک لوٹ لی گئیں۔ عالم عرب کے علماء حق نے امریکیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔ مجاہدین نے جہاد کا آغاز کیا۔ چونکہ نوری المالکی کی فوج امریکہ کا ہراول دستہ ہے لہذا پہلے نکر اؤ انہی سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اسکو یہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے اس میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہئے، تو یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ بلکہ شریعت کی رو سے ان کی سزا امریکی کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔

یہی معاملہ افغانستان میں حامد کرزئی اور اسکی مرتد ملیشیا کا ہے جنھوں نے اللہ کی سر زمین سے اللہ کا نظام مٹا کر دجال کے لشکر کو وہاں لا بٹھایا۔ اسکے بعد طالبان نے امریکہ کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا۔ کیا اسکو مسلمانوں کی آپس کی جنگ کہا جائے گا؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے دین پر راضی نہ ہوئے اور امریکہ کے دین پر راضی ہیں۔ نیز یہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں لہذا جو حکم امریکیوں کا ہے وہی انکا بھی ہے خواہ وہ نماز پڑھتے ہوں یا لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہوں۔ قرآن کریم کی واضح آیات اس بارے میں موجود ہیں۔

اسی طرح اگر بھارت میں کوئی مسلمان جماعت، بھارتی فوج کے ساتھ ملکر مجاہدین سے جنگ کرتی ہے، تو اسکا حکم بھی ہندو کافروں جیسا ہی ہوگا۔ اسکو مسلمانوں کی آپس کی جنگ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک طرف اہل حق ہیں دوسری جانب اسلام کے دشمن کفار اور انکے بھائی منافق، جو کافروں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔

اس بات کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ مسلمانوں کے مابین ہونے والی ہر قسم کی جنگ کو فتنہ کہہ دیا جائے اور تلواریں کمائیں توڑ کر اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اگر ایسا ہوتا، تو یہودی اس کا خوب فائدہ اٹھاتے۔ وہ مسلمانوں جیسے نام رکھتے اور سارے عالم اسلام پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے بچے بچے کو قتل کرتے رہتے، (نعوذ باللہ) مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کرتے اور یہ حدیثیں بڑے بڑے بیوروں پر لکھ کر اپنے ساتھ لے کر چلتے، اگر کوئی مسلمان ان سے مزاحمت کرتا تو اسکو یہ حدیث سناتے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ نہ دو۔ اس

طرح خود تو مسلمانوں کو نیست و نابود کرتے رہتے اور اپنے خلاف اٹھنے والوں کو حدیثیں سنا کر بیٹھا دیا کرتے۔ بلکہ یہ خدمت انکی جانب سے سرکاری علماء و مشائخ انجام دیتے۔

کیا حق و باطل واضح نہیں؟

بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کون حق ہے اور کون باطل؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے بھید اور کھوٹ کو جاننے والے ہیں۔ ہم جیسے سیاہ کار جو سینے میں ایک ایسا دل لئے پھرتے ہیں، جو نفاق میں لت پت ہے، اسکے باوجود ہمیں بال کے برابر بھی اس جنگ کے بارے میں شک و ابہام نہیں ہے، کہ امریکہ اور اسکے اتحادی مسلمانوں اور عالم اسلام سے کیا چاہتے ہیں؟ آئندہ انکے کیا ارادے ہیں؟ پاکستان کے بارے میں انکی کیا سوچ ہے؟ یہاں کون کون سے طبقات اور مکاتب فکر انکے ساتھ کھڑے ہونگے؟ کون بلیک وائر کی صفوں میں کھڑا ہوگا اور کون دیوانے پاکستان اور اسلام کے دفاع کے لئے سروں کی فضلیں کٹوارہے ہونگے؟ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں مسلمانوں کے محلوں پر حملہ کرنے امریکیوں کے ساتھ کون آئیں گے؟ اور کون اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی خاطر گلیوں میں خون میں نہاتے، نہلاتے، تڑپتے تڑپاتے جام شہادت نوش کر رہے ہونگے۔ اس جنگ سے زیادہ واضح جنگ اور کب ہوگی؟ اگر اس جنگ میں بھی ابہام ہے تو پھر امام مہدی کے وقت میں کیا ہوگا جب انکے مقابلے میں سفیانی کا لشکر ہوگا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوگا بلکہ کسی وقت میں مساجد میں اسکے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہوگا؟ اسکے ساتھ یقیناً سرکاری علماء و مشائخ بھی ہونگے جو سروں پر قرآن اٹھائے، سیدنا حضرت مہدی کو 'دہشت گرد، شریک، امیر المؤمنین کا باغی' اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہونگے۔

تمام فتنوں کا بہترین حل

قرآن و احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فتنے جس قسم کے بھی ہوں، ان کا بہترین حل اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا ہے۔ کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حق کی خاطر قیامت تک قتال کرتی رہے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

عن عمران بن حصین قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. (رواه ابو داؤد بسند صحيح)

ترجمہ: میری امت کی ایک جماعت حق کے دفاع کے لئے قتال کرتی رہے گی، جس نے

ان سے دشمنی کی یہ اس پر غالب رہیں گے، یہاں تک کہ ان (مجاہدین) کی آخری جماعت دجال سے قتال کرے گی۔

لہذا جیسا بھی پرفتن دور ہو، ان سے بچنے کا بہترین حل قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں فتنوں سے نجات کے ساتھ ساتھ، درجات کی بلندی بھی ہے۔ جو پہاڑوں میں بھاگ جانے والے سے زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ انسانی کے خطرناک فتنے، فتنہ دجال کے وقت بھی وہی مجاہدین سب سے افضل ہونگے جو میدان قتال میں ڈٹے ہونگے۔

### حکم جہاد

لہذا اس دور میں کافروں کے خلاف پرچم جہاد بلند کرنا ہر مسلمان پر اسی طرح فرض ہے جیسے نماز۔ ہر ایک کو اس جنگ میں شریک ہونا ہوگا۔ خواہ خود جہاد میں نکلے یا مال سے مجاہدین کی مدد کرے یا لوگوں کو انکی مدد و نصرت پر تیار کرے۔ جو گھر میں بیٹھا رہا وہ عند اللہ سخت مجرم ہوگا۔ ایسے شخص کو پاکستان کی آنے والی نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی۔ کیونکہ انھوں نے امریکہ کو پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اپنے دین اسلام کے دفاع کے لئے کچھ نہ کیا اور ہاتھ پے ہاتھ دھرے، اسی انتظار میں رہے کہ سرکاری مفتی یا درباری علماء و مشائخ جہاد کا اعلان کریں، پھر جا کر یہ جہاد کریں۔

### جہاد چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہونا

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن رسول الرحمة وأنا رسول الملحمة ان الله بعثني بالجهاد ولم يعثنى بالزرع (الحکم الجدیدة بالاذاعة ابن رجب حنبلیہ رحمة اللہ علیہ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول رحمت ہوں اور میں گھمسان کی جنگوں والا نبی ہوں۔ بلاشبہ اللہ نے مجھے جہاد دیکر بھیجا ہے اور مجھے کھیتی باڑی دے کر نہیں بھیجا۔

وخرج البغوی فی معجمہ ”ان اللہ بعثنی بالہدیٰ و دین الحق ولم یجعلنی زراعا ولا تاجرا ولا سخابا بالاسواق وجعل رزقی تحت ظل رمحی“

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ نے مجھے ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا ہے۔ اور مجھے نہ تو کھیتی باڑی کرنے والا بنا کر بھیجا اور نہ تاجرا اور نہ بازاروں میں آوازیں لگانے والا۔ اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا گیا ہے۔

ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اسئلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جنہوں نے جہاد چھوڑ دیا اور دولت کمانے میں مصروف ہو گئے۔ انکے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکة۔ کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے جہاد میں لگے ہوئے تھے۔ پھر کچھ وقت ملا تو کہنے لگے کہ اب اپنی زمینوں کی بھی ذرا دیکھ بھال کر لیں۔ اس پر تنبیہ آئی کہ جہاد چھوڑنا تمہاری ہلاکت ہے۔ (الحکم الجدیرة بالاذاعة ابن رجب حنبلیرحمة اللہ علیہ)

ابوداؤد کی روایت ہے اذا تسایعتم بالعینة واتبعتم اذناب البقر وترکتکم الجہاد سلط اللہ علیکم ذللا لا ینزعہ اللہ من رقابکم حتیٰ تراجعوا دینکم ترجمہ: جب تم عینہ (ایک قسم کی بیج) کا کاروبار کرنے لگو گے اور گائیوں کی دموں کے پیچھے ہولو گے، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے جو اللہ تمہاری گردن سے اس وقت تک نہیں دور کریں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹ آتے۔

فائدہ..... اسکا مطلب یہ ہے کہ جب تم حرام کاروبار میں لگ جاؤ گے اور جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑنے کے نتیجے میں کافر تم پر غالب آ جائیں گے اور تم پر ذلت مسلط ہو جائے گی، یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پھر جہاد کی طرف نہ لوٹ آؤ۔ ایسا ہر دور میں دیکھا جاسکتا ہے۔ کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر جب مسلمان جہاد کا علم بلند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، کافروں پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ پھر وہی کافر جو کل تک مسلمانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلتے تھے، خود کو خدا کا درجہ دیتے تھے، جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ انکے غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر اور اپنی طاقت کا جنازہ اٹھا کر جاتے ہیں۔

حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”مسلمان جب (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں) شام آئے۔ ان سے ”الحولۃ“ کی کھیتی کا تذکرہ کسی نے کیا چنانچہ انہوں نے اسکی کاشت کی۔ یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے قاصد بھیجا۔ جب قاصد شام پہنچا تو کھیتی پک کر تیار ہو چکی تھی۔

اس قاصد نے آ کر تمام کھیتی کو آگ لگا دی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو لکھ کر بھیجا: ان اللہ جعل ارزاق هذه الامة فی اُسنة رماحها وتحت اُرجتها. (خروجہ اسد ابن موسیٰ)  
ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے اس امت کا رزق نیزے کی نوک اور اسکے نچلے حصے میں رکھا

ہے۔ (الحکم الجدیدة بالاذاعة ابن رجب حنبلی رحمة اللہ علیہ)..... اور بیضاوی رحمة اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ جس نے کھیتی باڑی کی اور گائیوں کی دموں کے پیچھے لگا اور اسی پر راضی ہو گیا اور مستقل اسی کو اختیار کر لیا میں اس پر جزیہ عائد کر دوں گا۔ (الحکم الجدیدة بالاذاعة ابن رجب حنبلی رحمة اللہ علیہ)..... اور کسی سے کہا گیا کہ آپ اپنے بال بچوں کے لئے زراعت کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ انھوں نے جواب دیا ”اللہ کی قسم ہم کسان بن کر اس دنیا میں نہیں آئے بلکہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ (جہاد کے اندر) کافر کسانوں کو قتل کر کے انکی زراعت میں سے کھائیں۔“ (الحکم الجدیدة بالاذاعة ابن رجب حنبلی رحمة اللہ علیہ)

حافظ ابن رجب حنبلی رحمة اللہ علیہ یہ احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ایک مؤمن کی مکمل حالت یہ ہے کہ اسکا مشغلہ ہی اللہ کی اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ ہو۔ جو اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائے اسکے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے ”جس نے دنیا کی فکر کو اپنا غم بنا لیا اللہ تعالیٰ اسکے تمام امور خراب کر دیئے اور فقر کو اسکی آنکھوں کے سامنے کر دیئے۔ اور دنیا تو اسکو اتنی ہی ملے گی جتنی لکھی جا چکی۔ اور جسکی نیت آخرت کی ہوگی اور اسکے معاملے کو آسان فرما دیئے۔ اور اسکے دل میں غنا پیدا فرما دیئے اور دنیا خود چل کر اسکے پاس آئے گی۔“ (مسند احمد، ابن ماجہ)

ان آثار کا یہ مطلب ہے کہ مجاہدین کو جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی یا کاروبار میں نہیں مشغول ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس سے جہاد کمزور ہوگا۔ رہا رزق کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ اسی جہاد کے ذریعے مجاہدین کو پاک و حلال رزق عطا فرمائیں گے۔ نیز عام مسلمان کو بھی کھیتی باڑی یا کاروبار میں پھنس کر جہاد سے دور نہیں رہنا چاہئے۔ کیونکہ جہاد چھوڑنے میں تمام مسلمانوں کا نقصان ہے۔ جیسا کہ آج صورت حال ہے۔ مسلمانوں کے تمام وسائل پر یہود و ہنود کا قبضہ ہے۔ تمام مسلم ممالک کی عوام کو انھوں نے اپنے سودی نظام میں جکڑ رکھا ہے۔ مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دنیا ہاتھ آ کے نہیں دیتی۔ ہر آنے والا دن کاروبار اور کھیتی کے لئے بری خبر لاتا ہے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک اپنا حق حاصل کرنے کے لئے امریکہ اور عالمی اداروں سے جہاد نہ کریں۔ وہ اپنی بات طاقت کے زور پر منواتے ہیں۔ سو ہمیں بھی جہاد کی قوت کے ذریعے اپنے دین، اپنے وسائل اور اپنے لوگوں کی عزت کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہم جہاد کرینگے تو اللہ ان ہندوؤں اور یہودیوں کے سونے اور ہیروں سے بھرے محلات ہمارے قدموں میں ڈال دیئے۔ پھر ہمارے وسائل کو کوئی

اونے پونے لوٹ کر بھاگ نہیں پائے گا۔ نہ کوئی جارح سوریس ہوگا جو اپنا پیسہ نکال کر لیجائے اور دودن میں کئی مسلم ممالک کی معیشت کی چولیس ہلا جائے۔ اس وقت کا آپ تصور کریں جب عالمی بینکرز راک فیلرز، روتھ شیلڈ، جے پی مارگن جیسے یہودیوں کی تمام دولت مجاہدین کو مال غنیمت میں ملے گی تمام دنیا کا سونا جوان سودخوروں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جبکہ جہاد کے بغیر یہی ہوتا رہے گا کہ یہ خیر امت اپنے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین کر ان سودخوروں کو سود ہی ادا کرتی رہے گی اور سود ادا کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ تاجر اپنی محنت کی کمائی ان کو دیتا ہے، کسان خون پسینہ بہاتا ہے لیکن..... اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا۔





## تاریخ اسلام اور راہِ وفا کے مسافر

ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز  
چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یہودی سازشیں یقیناً بہت خطرناک تھیں۔ دنیا کا کوئی اور مذہب اسکا ایک حصہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عیسائیت کو ہی لے لیجئے کہ سینٹ پال کے ایک خواب نے ہی ساری عیسائیت کا وجود جڑوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ جبکہ عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں، انتہائی مہلک و تباہ کن تھیں۔ تہہ در تہہ، پراسراریت کے دیوز پر دوں میں چھپی، دجل و فریب کے لبادے اوڑھے، معصومیت کا غازہ چہرے پر سجائے، مسلسل دین حنیف کے وجود پر یلغار کرتی آرہی ہیں۔ انکی وسعت و گہرائی کا اندازہ اس موضوع پر لکھی جانے والی ضخیم کتابوں سے لگایا جاسکتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں دشمنان اسلام نے نسل در نسل محنت کی ہے..... اپنے شیطانی مشن کے لئے دن رات ایک کئے ہیں..... لیکن انکی زندگی..... غداری، مکاری، عہد شکنی اور دھوکہ دہی سے بھری پڑی ہے..... انکی قربانیوں نے یہودی دنیا کو بیشک بہت کامیابیاں دلائی ہوں، لیکن..... انکے کردار کی کمزوری..... اخلاق کی پستی..... اور شیطانی مشن نے انکی تاریخ کو اتنا متعفن کیا ہے کہ ساری دنیا اسکی بدبو سے کراہت محسوس کر رہی ہے۔

جبکہ انکے مقابلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام..... عہد و وفا..... امانت و صداقت اور وفا شعار کی ایسی حسین تاریخ رقم کر کے گئے، جس پر صرف مسلمان ہی نہیں ساری انسانیت فخر کر سکتی ہے۔ انکے کردار کی بلندی..... اعلیٰ اخلاق..... اور انسانیت کی فلاح و کامیابی کے مشن نے انکی سیرت کو ایسا معطر کیا ہے کہ محسوس کرنے والے آج بھی اسکی خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں۔ جہاں تک کامیابی و ناکامی کا تعلق ہے تو اس میں بھی اولیاء اللہ (اللہ کے دوست) اولیاء الشیطان پر غالب ہی رہے ہیں۔ اگرچہ وقتی کامیابی اولیاء الشیطان کو حاصل ہوتی رہی، لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

اس دین کا صحیح حالت میں باقی رہنا، اس کے حق و سچ ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اسکی اصل حالت پر باقی رکھنے کے انتظام فرمائے۔ اسلام دشمن قوتوں کی جانب سے ہونے والی بیلاغروں سے دفاع کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے فریضے کو قیامت تک باقی رکھنے کا انتظام فرمایا۔ وقت کے ساتھ اس دین پر پڑنے والے غبار کو صاف کر کے، اس کا چہرہ نکھارنے کے لئے، یہ انتظام فرمایا کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد ہو جو اس دین کو شرک و بدعات اور رسومات و خرافات سے پاک کر کے اسی حالت پر لوٹا دے، جس پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔

اس دین کو اسی اصل حالت پر باقی رکھنے کے لئے ہر دور میں ایک ایسی جماعت موجود رہے گی، جو اس حق کے لئے اپنی جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کریگی۔ حق کو بچانے کے لئے انکو جان دینی پڑے تو دیدیں گے اور جان دیکر مسلمانوں کو یہ بتادیں گے کہ حق کیا ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے: عن جابر بن عبد اللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامة قال فینزل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فیقول امیرہم تعال صل بنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة اللہ هذه الامة (صحیح مسلم باب نزول عیسیٰ بن مریم حاکما)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی، قیامت تک غالب رہے گی۔ فرمایا پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، مسلمانوں کے امیر کہیں گے آئیے! آپ ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے۔ نہیں۔ تم ایک دوسرے پر امیر ہو، اس امت پر اللہ کے شرف کے طور پر۔

عن عمران بن حصین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال. (ابو داؤد، دمسنند احمد، مستدرک حاکم وقال صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه، وافقہ الذہبی فی تلخیصہ)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی، جو اسکی مخالفت کریگا اس پر

غالب آئے گی، یہاں تک کہ اس جماعت کے آخری لوگ دجال سے قتال کریں گے۔

عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا هلك اهل الشام فلا خير في امتي. ولا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يسألون من خالفهم او خذلان من خذلهم حتى ياتي امر الله. الحديث (كنز العمال ۸۳۲۳۳. ابن عساکر)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اہل شام ہلاک ہو جائیں تو پھر میرے امت میں خیر نہیں ہے۔ اور میری امت کی ایک جماعت حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی، غالب رہے گی، وہ مخالفت کرنے والے کی پروا نہیں کریں گے، اور نہ کسی چھوڑنے والے کے چھوڑنے کی پروا کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔

غالب رہنے کا مطلب

ان احادیث میں قیامت تک قتال کرنے والی جماعت کے بارے میں زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے وہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گی۔

کیا اس غالب رہنے سے مراد ظاہری غالب رہنا ہے۔ یعنی قتال کے اندر فاتح ہونا؟ یا کچھ اور؟

اس غالب رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس حق کی خاطر قتال کریں گے اس حق کو ہر حال میں بچا جائیں گے۔ ممکن ہے اس میں انکو ظاہری فتح بھی مل جائے۔ لیکن اگر ظاہری طور پر قتال کے میدان میں فاتح نہ بن سکیں بلکہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں اس صورت میں بھی اپنے دشمن پر غالب رہیں گے۔ جس حق کے لئے اٹھے تھے اس کو حق ثابت کر جائیں گے۔ انکے دشمن انکے ہوتے ہوئے باطل کو حق نہیں بنا سکتے۔ جس طرح دیگر ادیان کے ساتھ ہوا۔ یہ دیوانے باطل کے طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور طوفانوں کا رخ موڑ دینگے۔ کبھی بچ بھی سکتے ہیں اور ڈوب بھی جائیں تب بھی حق تک اس طوفان کو پہنچنے نہیں دینگے۔ ایسے ہی دیوانوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے:

ہم کیسے تیرا ک رہے ہیں پوچھو ساحل والوں سے

خود تو ڈوب گئے لیکن رخ موڑ دیا طوفانوں کا

چنانچہ آپ دیکھیں گے یہ دیوانے تاریخ اسلام کے اتق پر جگہ جگہ جھلملاتے ستاروں کے

مانند چمک رہے ہیں۔ اور ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے کے مصداق آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے ہی نفوسِ قدسیہ سے تاریخِ اسلام کو رونق ملی ہے جو اپنے خونِ جگر سے اس مبارک درخت کی آبیاری کرتے رہے ہیں۔ مسلم معاشرے میں خرابیوں کے باوجود، اسلام کا اصل چہرہ، صاف و شفاف ہے۔ بچے درپے حملوں، اندرونی و بیرونی یلغاروں اور اسلام کا لبادہ اوڑھے منافقوں کی منافقت کے باوجود، چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، چودھویں کے چاند کے مانند دمک رہا ہے۔

### اسلاف کی یادیں

اس وقت جب کہ کڑا کے کی سردی ہڈیوں تک میں گھس رہی ہے..... مصلحت کی چادر ہی نہیں کھیل اوڑھنے کے باوجود، جسم پر کچھپی طاری ہے..... آنے والا ہوا کا ہر جھونکا، رگوں میں ریختے لہو کی رفتار کو اور ہلکا کر دیتا ہے..... ارد گرد کا مانوس ماحول کتنا اجنبی لگنے لگا ہے کہ کوئی مانوس آواز سنائی ہی نہیں دیتی..... کبھی اپنوں کی آوازیں آتی بھی ہیں تو تہہ در تہہ مصلحتوں کے غلاف میں لپیٹی کہ مفہوم بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے.....

ایسے وقت میں جی چاہتا ہے کہ دلوں کو اسلاف کی یادوں سے ہی گرمایا جائے..... کچھ تذکرے ماضی کے ہی سہی، مبادا سست پڑتا دورانِ خون کہیں منجمد ہی نہ ہو جائے..... آج ان نفوسِ قدسیہ کا تذکرہ ہو جائے جو اندھیری راتوں میں، اپنی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں اور امانوں کے چراغِ جلا کر قافلہٴ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے رہے..... آندھیاں چلیں اور چراغِ غمٹھمانے لگے تو..... انھوں نے اپنا لہو اس میں جلانا شروع کر دیا..... اس کی لو کو دم نہیں ہونے دیا..... قطرہ قطرہ لہو، اس میں نچوڑتے رہے..... یہاں تک کہ خونِ جگر بھی ان چراغوں کی نظر کر گئے.....

ان پاک ہستیوں کا ذکر، جنکے تذکرے اہل دل کی دنیا میں ولولے پیدا کرتے ہیں..... شاید آج پھر انکی روشن تاریخ بڑھ کر ان عزیمت کے راستوں پر قدم رکھ لیں..... اور وہ جو سہمے سہمے..... ڈبکے ڈبکے..... گھٹی گھٹی سانسیں لے کر جی رہے ہیں..... انھیں یاد آجائے کہ انکے اسلاف کی زندگی کیسے گذری ہے۔ باطل کے ساتھ انکا کیا معاملہ رہا ہے۔ یہ تذکرے انکے لئے بھی ہیں جو عزیمت کے راستوں پر قدم رکھ چکے..... لیکن مڑ کر دیکھتے ہیں تو سوا امت کہیں اور ہی کھڑے نظر آتے ہیں..... انکے حوصلوں کو تقویت ملے..... راہِ حق کے مسافروں کو معلوم ہو کہ

عزیمت کے راستوں پر چلنے والوں کی تاریخ کیسی تابندہ ہے..... کہ انہی سے اندھیر و تاریکی، روشنی کی کرنیں ادھار مانتی رہی ہے..... غلاموں کو حریت کا سبق انہی مکتبوں سے ملتا ہے..... اور حریت پسندوں کو نہ جھکنے کے حوصلے انہی نفوسِ قدسیہ سے ملے ہیں.....

یہ بزرگ ہستیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں جنہوں نے ایک وتہا... دنیا کی تمام شیطانی قوتوں کا بیک وقت مقابلہ کیا اور دینِ حنیف کو اسی حال پر قائم رکھا جس پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے..... نواسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے سامنے نہ جھکنے کی کچھ ایسی ریت ڈالی کہ عاشقانِ رسول نے پھر کبھی اس مسئلے میں عقل و خرد کی سن کر ہی نہ دی..... چنانچہ کوئی صرف ایک فقہی مسئلے کی خاطر کوڑوں کی ضربوں پر رکھا گیا..... تو کسی نے حکمران وقت کے خلاف خروج کرنے والوں کی مدد کر کے قید و زندان کی صعوبتوں کو اپنے لئے پسند کیا..... اور اسی قید سے جنت کی وسعتوں کی جانب مجھ پرواز ہوئے..... کسی نے امت کے عقیدے کی حفاظت کے لئے چمڑی ادھڑوائی..... تو کوئی نوک خنجر پے رقص کرتا بلند یوں کی جانب پرواز کر گیا..... کسی کو انکار ہوتی، سلطنتی سلاخوں میں پرویا گیا تو کسی کو تانبے اور لوہے کے خول میں زندہ پیوست کر دیا گیا..... کوئی شہروں سے اٹھا اور پہاڑوں، ندی نالوں اور وادیوں کو اپنے خون سے رنگا رنگ کر گیا..... ایک شیخ اپنے تمام مریدوں..... کل سرمایہ حیات..... کو لیکر دنیا کی اس طاقت کی سامنے جا کھڑا ہوا جسکی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا..... مرید بھی کیسے..... کہ انکے بغیر برصغیر علمی یتیم ہی رہ جاتا..... خانقاہوں اور مدارس سے اٹھے اور میدانِ جہاد میں نکلے تو رن کانپ اٹھا..... فضاؤں کی سائیس رک گئیں..... عالم سکتے میں آ گیا..... کہ اگر یہ جماعت ہی شہید ہوگئی تو برصغیر میں دین کون پڑھائے گا..... تفسیر و حدیث..... فتاویٰ و فقہ..... کون سکھائے گا..... کسی نے ایک مہمان کی خاطر تخت و تاج..... امارت و سلطنت کولات مار کر، سنگلاخ پہاڑوں میں آبلہ پانی کو ترجیح دی..... تو کسی نے شہزادگی کی زندگی کو چھوڑ کر..... ”غربت“ کو اختیار کیا.....

ان نفوسِ قدسیہ کے شعبے اور میدانِ کار بلاشبہ الگ الگ رہے لیکن ایک بات ان سب میں مشترک پائیں گے..... وہ ہے..... حق کو بیان کرنے یا حق پر عمل کرنے میں کسی ڈر و خوف کی پروا نہ کرنا، باطل کو باطل کہنے میں کسی مصلحت کو قریب نہیں مچھکنے دینا..... اپنی خواہشات خواہ دینی ہوں یا دنیاوی..... ان پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینا..... اللہ کی رضا اگر ساری ساری رات حدیث پڑھانے میں تھی تو آنکھ چھپکائے بغیر قال اللہ قال الرسول سے ابلیس و شیاطین کے دلوں پر چر کے لگاتے رہے..... اور اگر اللہ کی رضا مسندِ درس چھوڑ کر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے،

زہر پینے، یا تختہ دار کو چوم لینے میں ہوئی تو بڑھ بڑھ کر اس رضا کے حصول میں کوشاں ہو گئے.....  
فقہ پڑھاتے رہے..... قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرتے رہے..... لیکن اس فقہ کو کتابوں  
تک محدود نہیں رکھا بلکہ جسم کی کھال اتروا کر..... ان مسائل پر عمل کرنے کا طریقہ اپنے مقلدین کو  
سمجھا گئے.....

اہل اللہ تھے کہ خلق خدا المائد آتی تھی..... ویران دلوں کو ذکر اللہ سے آباد کرتے..... دل کے  
نہا خانوں میں چھپی دنیا کی محبت کو ایسا کھرچ کر پھینکتے کہ بندہ فکرِ آخرت میں ہی ڈوب رہتا..... سینوں  
کو بتوں (غیر اللہ) کی محبت سے پاک کر کے ان میں توحید کی امانت بھرتے، جس سے بندہ صرف  
اپنے رب ہی کا ہورہتا۔ محبت کے سمندر میں محبوب حقیقی سے ملاقات کا شوق کچھ اس طرح موجیں  
مارتا کہ وصال کی طلب میں محبوب کے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہی چلے جاتے۔

ان خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کی جرأت و بہادری اس درجے کی ہوتی کہ حکمران وقت ہل  
کر رہ جاتے..... حکمرانوں کو خیر کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے میں، کبھی مصلحت کو حکمتِ عملی کی  
چادر نہیں اوڑھائی۔ بلکہ شانِ بے نیازی کیساتھ حق کو بیان کرتے رہے۔

طوفان یہاں تھم جاتے ہیں کہسار یہاں دب جاتے ہیں  
اس کاغ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

اہلِ عزیمت کا تذکرہ اس لئے بھی بر محل ہے کہ حضرت مہدی کے دوست وہی جو اہل ہمت  
بن پائیں گے جو عزیمت کے پر خارا اور برف سے اٹے راستوں کے راہی ہوں گے۔ دین حق کے  
لئے انھوں نے اپنے اپنے میدانوں میں انگاروں پر چل کر دین کا حق ادا کیا ہوگا..... حضرت  
مہدی کو پالینے اور قافلہ حق میں شامل ہو جانے کی تڑپ میں نہ جانے کتنے خون کے دریا اور  
آنسوؤں کے سمندر عبور کئے ہوں گے.....

اسلاف کی تاریخ پڑھیے اور اپنے اس موجودہ دور کو دیکھیے۔ فتنوں، سازشوں اور دشمن کی  
بلغاروں کی شدت دیکھیے..... کہ بڑے بڑے مضبوط ستون جڑوں سے اکھڑے چلے جاتے  
ہیں..... عام چرانوں کی کیا بساط..... اس بلا کا طوفان ہے کہ روشنی کے مینارے بھی کسی بڑھیا کے  
ٹٹماتے چراغ لگنے لگے ہیں..... نو آزمود اور اناڑی ملاحوں کا کیا ذکر..... جہاندیدہ اور دنیا بھر کا  
تجربہ رکھنے والے ملاح بھی چپو چھوڑ کر طوفان کے تھم جانے کا انتظار کر رہے ہیں.....

ایسے وقت میں کچھ دیوانے ہیں جنھوں نے عزم کیا ہے کہ اس طوفان کے سینے پر سوار ہو کر  
منزل پر پہنچا جائے گا..... جنھوں نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ شمعِ نبوت تک کسی سرکش

طوفان کو پہنچنے دیا جائے..... انکے سینوں میں ابھرتا طوفان باطل کے ہر طوفان سے ٹکرا کر ان کا رخ موڑنے کا ارادہ کر چکا ہے، خواہ انکو ڈوبنا پڑے.....

اہل حق کے قافلے کے یہ اللہ والے..... شیع اسلام کی حفاظت کے لئے، رات بھر اس کی لو میں اپنی آہیں اور سسکیاں جلا رہے ہیں..... اندھیرے جب بڑھنے لگتے ہیں..... تاریکیاں گہری ہو جاتی ہیں تو یہ اپنی خواہشات و تمنائیں اس کی نظر کر کے اسکی لو کو بڑھاتے ہیں۔ آج اس امت کی لغت میں، غیرت و حمیت، صدق و وفا اور ایثار و قربانی جیسے الفاظ، انہی کے دم سے باقی ہیں۔ یہ سب کچھ کمسنی کی عمر میں..... یا عہد شباب میں..... یا دھلتی جوانی میں..... کس کے لئے؟ کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے..... نہ علاقہ ایک نہ زبان..... صرف اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے..... اس امت کی عظمتِ رفتہ واپس دلانے کے لئے..... اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لئے..... لہذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ انکے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اب تک ہم انکے ساتھ رہے یا انکے دشمنوں کے ساتھ..... انکو خوشی پہنچائی یا زخم ہی دیتے رہے۔

ہمیں چاہئے کہ ماضی کے نفوسِ قدسیہ کی طرح دلوں میں انکی عظمت پیدا کریں..... تاریکی کے سمندروں میں ڈوبے رہنے کے بجائے، ان سے اجالے قرض مانگیں..... ہمت جواب دے گئی ہے تو، حوصلے ادھار لے لیں۔ وسوسوں، شکوک و شبہات اور بے یقینی کی گھٹاؤں نے آگھیرا ہے تو، یقین محکم اور ایمانی بصیرت ان سے حاصل کر لیں..... اگر قوی مضحل ہو گئے اور عزم معدوم تو ان سینوں سے سینے ملا لیجئے، جن میں عزمِ مصمم، عملِ پیہم اور کوندتی چمکتی، بجلیاں بھری ہیں۔



## حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ.....حق گوئی و بے باکی

آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی  
اللہ کے شیروں کو بھاتی نہیں رو باہی

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ۲۱ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں۔ چنانچہ جب کبھی کسی کام سے آپ کی والدہ گھر سے باہر جاتیں تو ام المؤمنین آپ کو اپنی گود میں لے کر بہلاتی رہتیں۔ اور اپنا دودھ بھی دیتیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کو باہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس بھیج دیتیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو گود میں اٹھاتے اور آپ کے لئے دعا کرتے۔

ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو گود میں لیا اور آپ کے لئے دعا کی: اللھم فقہہ فی الدین وحبہ الی الناس (اے اللہ! اس (بچے) کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور انھیں لوگوں کا محبوب بنا دیجئے۔ (سیر اعلام النبلاء، ج ۴، ص: ۵۶۵)

یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعائیں اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پرورش کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو علم کے خزانے، فصاحت و بلاغت، حق گوئی و بیباکی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی۔ آپ نے معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو محسوس کیا۔ نفاق، جو مسلم سوسائٹی کو گھٹن کی طرح چاٹ جاتا ہے، اسکو کھول کر بیان کیا۔ اپنے مواظ میں منافقین پر تابد توڑ حملے کرتے، حق کہنے میں کسی خوف کو خاطر میں نہ لاتے۔ حجاج بن یوسف جیسے سفاک کے سامنے بغیر کسی لگی لپٹی کے، حق بات کہتے۔ ایک موقع پر فرمایا ”خدا کی شان اس امت پر کیسے کیسے منافق غالب آگئے ہیں، جو پرلے درجے کے خود غرض ہیں۔

اہل زمانہ پر تبصرہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”ہائے افسوس! لوگوں کو امیدوں اور خیالی منصوبوں نے غارت کیا۔ زبانی باتیں ہیں عمل کا نام و نشان نہیں۔ علم ہے مگر (اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے) صبر نہیں ایمان ہے مگر یقین



سے خالی، آدمی بہت نظر آتے ہیں مگر دماغ نایاب، آنے جانے والوں کا شور ہے مگر ایک بندہ خدا ایسا نظر نہیں آتا جس سے دل لگے، لوگ داخل ہوئے اور نکل گئے، انہوں نے سب کچھ جان لیا پھر مکر گئے، انہوں نے پہلے حرام کیا پھر اسی کو حلال کر لیا، تمہارا دین کیا ہے؟ زبان کا ایک چٹخارہ۔ اگر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم روزِ حساب پر ایمان رکھتے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہاں ہاں۔

زمانہ آج پھر کسی حسن بصری کا منتظر ہے۔ جو منافقین اور ان میں چھپے نفاق کی نشاندہی کر سکے۔ حرم میں طواف کرتے، بیت اللہ کے اندر گھستے، اور پکا سچا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے نفاق سے بھرے دلوں کو کوئی کہہ سکے کہ اے منافقو! تمہارا نفاق تمہارے تمام اعمال پر غالب ہے خواہ تم ساری عمر بیت اللہ کے خلاف سے چمٹے رہو۔ تم نے اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انکے دشمنوں کی مدد کی ہے۔



## امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

(۸۰ھ - ۱۵۰ھ بمطابق ۶۹۹ء - ۷۶۷ء)

تھے تو آباء وہ تمہارے مگر تم کیا ہو

ہاتھ پے ہاتھ رکھے منظرِ فردا ہو

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ۸۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ یہیں تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملاقات کا شرف بخشا۔ ان صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن ابی اوفی، سہل بن سعد الساعدی، ابو الطفیل رضی اللہ عنہ، عامر بن واکد رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اعد ذکر نعمان لنا أن ذکرہ

هو المسک ما کر رتہ یتضوع

ترجمہ: ہمارے سامنے نعمان ابن ثابت (ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) کا ذکر بار بار کیجئے۔ کیونکہ انکا تذکرہ مشک ہے کہ جتنا ہلاؤ اتنی ہی مہک دیتا ہے۔

علمی مرتبہ..... حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کان ابو حنیفۃ افقہ اهل الارض فی زمانہ (ابوحنیفہ اپنے زمانے میں روئے زمین پر سب سے بڑے فقیہ تھے۔)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں لکھتے ہیں ”واما الفقہ والتدقیق فی الرأی وغوامضہ فالیہ المنتہی والناس علیہ عبال فی ذلک (سیر اعلام النبلاء)..... ترجمہ: جہاں تک تعلق فقہ، وقت رائے اور اسکی باریکیوں کا ہے تو بس ان پر انتہا ہے۔ اور لوگ اس سلسلے میں انکے عیال ہیں۔

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے ”قال حفص بن غیاث ”کلام ابی حنیفۃ ادق من الشعر لا یعیبہ الا جاہل (سیر اعلام النبلاء)

ترجمہ: حفص بن غیاث نے فرمایا ”ابوحنیفہ کا کلام ہال سے زیادہ باریک ہے کوئی جاہل ہی

اس میں عیب جوئی کر سکتا ہے۔“ (ایضاً)

جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے مغیرہ نے کہا کہ ابوحنیفہ کی مجلس میں بیٹھا کروفتیہ بن جاؤ گے۔  
اگر ابراہیم نخعی زندہ ہوتے تو وہ بھی انکی مجلس میں بیٹھتے۔ (ایضاً)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ

روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے سات ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ ہر رات ایک رکعت میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔

چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یہ روایت کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو نوافل پڑھتے تھے اور ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اتاروتے تھے کہ انکے پڑوسیوں کو ان پر ترس آتا تھا۔ آپ کی وفات اس جگہ ہوئی جہاں ستر ہزار مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا تھا۔ جنازہ میں اتنا نجوم تھا کہ چھ مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ (البدایہ والنہایہ)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ گواہی دیتے ہیں وکان معدودا فی الأجواد الأسخياء،  
والأولياء الأذکياء، والتهجد وکثرة التلاوة وقيام الليل (تاریخ الإسلام للذہبی  
رحمة الله عليه ج: ۹ ص: ۳۰۶)

آخر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”أخبار أبي حنيفة رضي الله عنه ومناقبه لا  
يتملها هذا التاريخ“۔ (یہ تاریخ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے حالات و مناقب کی متحمل نہیں ہو سکتی)  
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام، آپ کا ہدوتقویٰ، مشتبہات سے احتیاط اپنی مثال آپ  
ہے۔ آپ کی احتیاط کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔

ایک مرتبہ کوفہ میں کسی عورت کی بکری گم ہوگئی۔ اسکا کچھ پیتہ نہ چل سکا۔ لہذا امام صاحب  
تینے اس وقت تک بکری کا گوشت نہیں کھایا جب تک اس بکری کا علم نہیں ہو گیا کہ وہ بکری مر چکی  
لتیے۔ اس اندیشے سے کہ پیتہ نہیں وہ بکری کسی نے کاٹ کر بازار میں نہ بیچ دی ہو۔  
اندازہ لگائیے! کوئی انسان صرف شبہ کی بنیاد پر کتنے دن گوشت کھانے سے رکا رہ سکتا ہے۔ ہفتہ یا  
بہشت یا پھر بہت ہوا تو چند مہینے؟

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ سات سال بعد  
جب علم ہو گیا کہ وہ بکری مر چکی ہے تب گوشت کھانا شروع کیا۔ ایک طرف آپ کے علمی

کارنا سے اور دوسری جانب حق گوئی، استغناء، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ اور حکمرانوں کے ساتھ کیسا رویہ رہا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور آپ کو قاضی القضاة بنانے کی بار بار پیش کش کرتا رہا۔ لیکن آپ نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا۔ اسکے ہدیے آپ قبول نہیں کرتے تھے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ..... جیل میں تشدد

ایک دن منصور نے قسم کھائی کہ آپ کو عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔ اسکے جواب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قسم کھائی کہ میں عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ منصور کے دربان نے کہا۔ ذرا دیکھو تو امیر المؤمنین قسم کھا رہے ہیں اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں۔ جواب دیا ”امیر المؤمنین اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے میں مجھ سے زیادہ قادر ہیں“۔ (سیر اعلام النبلاء للذہبی)

چنانچہ منصور نے جیل میں ڈالنے کا حکم دیدیا۔ اور جیل سے جنازہ نکلا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منصور نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پولیس افسر حمید طوسی کے حوالے کر دیا تھا۔ حمید طوسی نے کہا ”امیر المؤمنین جس شخص کو بھی میرے حوالے کرتے ہیں تو مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اسکو قتل کر دوں، یا ہاتھ پیر کاٹ دوں یا تشدد کروں۔“

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی متانت سے جواب دیا ”جو تمہیں حکم ہوا ہے اسکو جلدی کر

ڈالو“ (ایضاً)

فقیر ابو عبد اللہ الصمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں سخت

تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جیل ہی میں انتقال کر گئے“۔ (ایضاً)

ہشام بن عبد الملک کے دور میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے، زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے ہشام کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت و بہادری دیکھئے۔ کھلے عام حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کرتے تھے۔ آپ نے انکی خدمت میں دس ہزار درہم بھیجے اور حاضر نہ ہو سکنے پر معذرت کی۔ اگلے بعد بنی حسن میں سے حضرت محمد زوالنفس الذکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں اور اگلے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ نے کوفہ میں منصور کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں محمد زوالنفس الذکیہ کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں ابراہیم بن عبد اللہ کی حمایت کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ رقم بھی انکی خدمت میں بھیجی۔ منصور کے فوجی افسر حسن بن قطیبہ کو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ اس نے خلیفہ

سے معذرت کر دی۔ منصور نے امام صاحب کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی اسکا اصل سبب یہی تھا۔ اس نے بہانہ عہدے سے انکار کو بنایا۔ آپ پر جیل میں سخت تشدد کیا گیا۔ پھر زہر دیا گیا اور جنازہ جیل سے نکلا۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا کہنا بہت آسان ہے لیکن ذرا سوچئے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”توفی شہیداً“ یعنی شہادت کی موت پائی... جنکے بارے میں علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لو وزن علم الامام ابی حنیفۃ بعلم اہل زمانہ لرجح علیہم“ کہ اگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایک پلڑے میں اور انکے دور کے تمام لوگوں کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ (سیر اعلام النبلاء، ج: ۶، ص: ۴۰۳)

وہی ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنکے ہم نام لیوا ہیں..... ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم انکی تقلید کرتے ہیں..... انکے مناقب..... انکے فضائل اور انکے مسائل پڑھتے پڑھاتے ساری زندگی گذر جاتی ہے۔ پرکاش کبھی سوچا تو ہوتا آخر کیا چیز تھی..... کیا درد تھا..... کیسی کڑھن تھی کہ بڑھاپے میں حلقہٴ مریداں کے بجائے قید تنہائی کو اختیار کیا..... آپ نے کیا فقہ پڑھا تھا جس نے کسی تاویل یا فقہی جزیے کا سہارا نہیں لیا اور آخری عمر شاگردوں کے جلو میں گزارنے کے بجائے، زندان کی بھٹی میں جھونک گئے..... مسند درس کی اہمیت بھی مصلحت و حکمت کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آئی ہوگی اور سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو کس طرح جائز قرار دیتے ہیں، یا یہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے آپ فقہ پڑھاتے رہئے اور خاموش ہو جائیے، عہدہ قبول کرنے میں کیا حرج ہے..... وہ بھی اسلامی خلافت کا عہدہ قضاء..... لیکن ثابت (نعمان ابن ثابت) کے فرزند کے قدم ثابت ہی رہے۔ ایک بار جو ”نہ“ نکلی..... سو نکلی..... جان سے گذر گئے لیکن ”نہ“ کو ”ہاں“ میں تبدیل نہ کیا جاسکا۔

یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کا یہ رویہ ایسے دور میں تھا جو خیر القرون میں شمار ہوتا ہے۔ خلافت قائم ہے۔ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے۔ اسلامی حدود، جاری و ساری ہیں۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت آبرو کو کافروں سے خطرہ نہیں ہے..... اور خلیفہ بھی آج کے حکمرانوں سے کروڑوں درجہ اچھا، جس نے نہ اقامتِ صلوٰۃ کو معطل کیا ہے نہ اقامتِ جہاد کو..... تصور کیجئے اگر

امام صاحب کو علم ہو جائے کہ انکے نام لیوا کا فروں کی غلامی میں رہتے ہیں..... انکے فقہ سے یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں کی اطاعت کے جواز نکالتے ہیں.... پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، قیامت کے دن اگر ہمارا گریبان پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ جس امام کو قرون اولیٰ کے حکمران باطل نظر آئے اور انکے خلاف جہاد کرنے والوں کا عملی ساتھ دیا، اگر انکو پتہ چلے کہ انکی تقلید کرنے والے، ہندوستان میں ہندوؤں کی غلامی پر راضی ہیں، انکی تقلید کرنے والے (دارالحرب) امریکہ و برطانیہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے طواغیت کو اپنا امیر تسلیم کیا ہے اور انکے خلاف خروج کو ناجائز کہتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کی مدد کرنے والوں کے حق میں امام صاحب کے فقہ سے دلائل لاتے ہیں۔

اے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والو! کبھی سوچا ہے کہ قیامت میں ان نفوس قدسیہ کا کس طرح سامنا کرو گے۔ امریکہ کی اطاعت پر راضی ہونا..... اسلام کے خلاف چھیڑی گئی جنگ میں اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونا..... کیا تاویلات کا سہارا لے کر ایسے شخص سے بحث کی جاسکے گی جنکے فقہی اسرار و رموز کی دنیا معترف ہے۔

پھر ایک بار پڑھیے..... اور دل کی آنکھیں کھول کر پڑھیے..... امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا..... کوڑے کھائے اور سخت اذیتیں سہہ سہہ کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔

زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر اللہ کی رحمتیں ہوں نعمان ابن ثابت، ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر کے شریعت کی آبرو کی حفاظت کی۔ آمین۔



## امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

تمہارے عزم سے ملتے ہیں حوصلے ہم کو

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ۱۶۴ھ مطابق ۸۰۷ء میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ والدہ نے انتہائی ہمت اور حوصلہ مندی سے پرورش کی۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ علوم دینیہ میں انہوں نے حدیث کی طرف خصوصی توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو دس لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ فقہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آج تک عالم اسلام میں آپ کا فقہ زندہ ہے۔ حدیث میں آپ کی ”مسند احمد بن حنبل“ ایک عظیم کاوش ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵۰ھ-۲۰۴ھ مطابق ۷۶۷ء-۸۲۰ء) نے فرمایا ”خروجت من بغداد وما خلفت بها اتقى و افقه من بن حنبل (میں نے اس حالت میں بغداد چھوڑا ہے کہ وہاں احمد بن حنبل سے بڑا نہ کوئی متقی ہے اور نہ فقیہ۔

مسند درس پے بیٹھے تو طالبان حدیث پر وانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ آپ کے درس میں سامعین کی تعداد پانچ پانچ ہزار ہوتی تھی۔

خودداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ کبھی خلفاء اور حکمران وقت کا کوئی عطیہ قبول نہیں کیا۔ تواضع و انکساری اتنی کہ یحییٰ ابن معین (۱۵۸ھ-۲۳۳ھ مطابق ۷۷۵-۸۴۸) جیسے امام گواہی

دیتے ہیں:

”ما رأیت مثل احمد بن حنبل صحبتہ خمسين سنة ما افتخر علينا بشي مما كان فيه من الصلاح والخير (میں نے احمد بن حنبل جیسا شخص نہیں دیکھا میں ان کے ساتھ پچاس سال رہا، انہوں نے ہمارے سامنے کبھی اپنی صلاحیتوں اور محاسن پر فخر نہیں کیا)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور فتنہ خلیفہ قرآن

خلیفہ مامون الرشید (دور خلافت ۱۹۸ھ تا ۲۱۸ھ مطابق ۸۱۳ء-۸۳۳ء) یونانی فلسفے اور عقلیت سے مرعوب تھا۔ اسکے دور میں معتزلی طبقہ فکر نے بڑی تقویت پائی۔ معتزلہ کو اس وقت کا

روشن خیال طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہر چیز کو عقل پر پرکھنے کے عادی تھے۔ (با در ہے کہ موجودہ دور کے ماڈرن اسلام کے علمبردار مبلغین، کالم نگار اور جدید جامعات کے پروفیسر حضرات آج کے معتزلی ہیں جو دینِ محکم کو عقل پر پرکھنے کے بعد تسلیم کرتے ہیں اور اگر کوئی حدیث یا حکمِ انکی چھوٹی سی عقل میں نہ آئے تو یہ اسکو رد کر دیتے ہیں)۔

معتزلہ نے نئے نئے اختلافات کے ذریعے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا۔ اسلام دشمن طاقتیں عام سے مسئلے کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کرتیں جیسے اسلام میں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے۔ یہ علمی اور فلسفیانہ بحثوں کو کفر و ایمان کا مسئلہ بنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ایسے ایسے اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے، کہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ انھوں نے یہ اٹھایا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ معتزلہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل تھے۔ انکو حکومتِ وقت کی سرپرستی حاصل تھی۔ جبکہ انکے مقابلے میں محدثین و فقہاء کا گروہ تھا جو اہل سنت و الجماعت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اہل سنت قرآن کے غیر مخلوق یعنی اسکے کلامِ الہی ہونے کے قائل ہیں۔ سازشی عناصر کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت و اہمیت اور اسکا مرتبہ و مقام نکال دیں تاکہ یہ امت ہدایت کے سرچشمے سے ہی کٹ کر رہ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اس فتنے کے دور رس اثرات دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لئے، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

مامون نے خلقِ قرآن کے مسئلے کو بہت اہمیت دی اور ۲۱۸ھ میں والی بغداد اسحاق بن ابراہیم کے نام ایک تفصیلی فرمان بھیجا۔ اس میں محدثین کی شدید مذمت اور تحقیر کی گئی تھی۔ انکو مخلوقِ قرآن کے عقیدے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، توحید میں ناقص، مردود الشہادۃ اور شریک پسند قرار دیا گیا تھا (آج کے معتزلہ باطل کے سامنے نہ جھکنے والوں کو شریک پسند اور دہشت گرد کہتے ہیں)۔ حاکم کو حکم کیا گیا کہ جو لوگ اس مسئلے کے قائل نہ ہوں انکو انکے عہدوں سے معزول کر دیا جائے۔ اسکے بعد مامون نے اور سختی کی اور سرکاری اہلکاروں اور اہل علم کے لئے بھی اس مسئلے میں معتزلیوں کی حمایت کو لازمی قرار دیدیا گیا۔ اسحاق نے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور ان سے اس مسئلے پر گفتگو کی۔ اس نے یہ گفتگو لکھوا کر مامون کو بھیج دی۔ مامون یہ سب پڑھ کر سخت طیش میں آیا اور ان علماء میں سے، بشر بن الولید اور ابراہیم ابن المہدی کے قتل کا حکم دیدیا۔ جبکہ باقی کے بارے میں لکھا کہ جو اپنی رائے سے رجوع نہ کرے اسکو پابجولاں، اس کے پاس بھیج دیا



جائے۔ ان کل علماء کی تعداد تیس تھی۔ لیکن ان میں سے صرف چار اپنی رائے پر قائم رہے۔ یہ چار حضرات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ، قواریری اور محمد رحمۃ اللہ علیہ بن نوح تھے۔ ان چار میں سے بھی، سجادہ دوسرے دن اور قواریری تیسرے دن اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے۔ جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ آخر تک اپنی رائے پر قائم رہے۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ بن نوح کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر مامون کے پاس طرسوس (موجودہ ترکی کا شہر) روانہ کر دیا گیا۔ شاید ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ایسی ہی مبارک کلانیاں چومنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ انیس دوسرے مقامات کے علماء بھی تھے۔ ابھی یہ حضرات راستے میں ہی تھے کہ مامون کی موت کی خبر ملی۔ چنانچہ ان تمام حضرات کو حاکم بغداد کے پاس بغداد واپس روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں محمد بن نوح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مامون کے بعد معتصم خلیفہ بنا۔ مامون نے اپنے جانشین کو خلق قرآن کے مسئلے میں خاص وصیت کی تھی کہ وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ چنانچہ معتصم کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کے لئے لایا گیا۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کے لئے لایا گیا تو چار چار بیڑیاں انکے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ تین دن تک مناظرہ ہوا لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حاکم بغداد نے دھمکیاں دیں کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو سخت اذیت دی جائے گی اور ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں بھی سورج بھی نہیں آئے گا۔

جبکہ دلوں میں آخرت کے سودے سمائے ہوں، جبکہ سینے نورِ نبوت سے روشن ہوں، انکے لئے دنیا چھین لینے کی دھمکی یا سورج کو ترس جانے کا خوف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے۔ بھرے دربار میں سرکاری علماء و مشائخ کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی جواب ہوتا کہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل لاؤ تو میں قائل ہو جاؤں گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جرات و بیباکی نے خلیفہ معتصم کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور وہ آپ کے معاملے میں نرم پڑنے لگا۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ اگر آپ میرے پیش رو کے ہاتھ نہ لگتے تو میں آپ کو بالکل نہیں چھیڑتا۔ لیکن درباری علماء و مشائخ اسکو غیرت دلاتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ معتصم اپنے بھائی مامون کے مسلک سے ہٹ گیا ہے۔

سرکاری علماء مشائخ کی بھی مجبوری تھی کہ انکے پیٹ کا ایندھن وہی سرمایہ بنتا تھا، جو اس مسئلے میں حکومت کی حمایت کرنے کے بدلے انکے حصے میں آتا۔ انھیں قرآن و سنت سے بھلا کیا غرض تھی، انکے سامنے صرف ایک مقصد تھا۔ خواہشات کو پروان چڑھانا، دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا، حکومتی عہدوں کے مزے لوٹنا اور سرکاری دربار سے ملنے والے درہم و دینار سے اپنے گھر کی تجوریوں کے منہ بھرتے رہنا۔ انھیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ تاریخ انکے بارے میں کیا کہے گی، آنے والی نسلیں انکو کس طرح یاد کریں گی، اور آخرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کس حال میں کھڑے ہونگے، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ یادشمنوں کے ساتھ؟

آخر تیسرے روز معصم نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ”اللہ تم پر رحم کرے میری بات مان لو میں تمہیں آزاد کر دوں گا“۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل لاؤ۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اکھاڑ دو

اس پر معصم سخت غصے میں آ گیا اور جلا دو حکم دیا کہ انکے ہاتھ اکھیڑ دو۔ جلا دے دو کوڑے لگائے اور پھر اسکی جگہ تازہ دم جلا دے لے لی۔ اس طرح ہر جلا پوری قوت سے دو کوڑے لگاتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ انیس کوڑوں کے بعد معصم پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا ”کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو، بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔“

جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، ایسے اہل عزیمت کے لئے آسمانوں سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جو انکے دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں اور حق پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت قائم ہے۔ آج بھی دنیا بھر کی جمیلیں ایسے ہی اللہ والوں سے بھردی گئی ہیں جنھوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر ظالم کے سامنے کوئی نہ کھڑا ہوا کرتا تو ہر ظالم، فاتح بنا کرتا۔ ہر جابر کا میاب و کامران ہو جایا کرتا۔ اور ہر کمزور شکست سے دوچار ہوتا اور اپنا عقیدہ، نظریہ اور نصب العین چھوڑ کر جابر و ظالم کے دین میں داخل ہو جایا کرتا۔

انیس کوڑے کھانے کے باوجود، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزم و حوصلے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا جو پہلے دیتے رہے تھے۔ معصم نے پھر

کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ اسکے بعد امام صاحب کے ہوش جاتے رہے۔ ان کوڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے کوڑے تھے کہ اگر صرف ایک کوڑا ہاتھی کو پڑتا تو وہ چیخ مار کر بھاگتا۔

امام صاحب روزے سے تھے کسی نے کہا کہ آپکو جان بچانے کے لئے اس عقیدے کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن انھوں نے اسکی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ لوگوں نے انکو سمجھانا چاہا اور اپنے بچاؤ کی حدیثیں سنائیں انھوں نے جواب دیا کہ پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کیا جواب ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جنکے سر پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتے تھے۔

ایک مرتبہ اسی دور آزمائش میں کسی نے پوچھا: حضرت آپکو یہ سب کرتے ہوئے ڈرنہیں لگتا۔ فرمایا ڈرے تو وہ جسکے دل میں مرض ہو۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دو سال چار مہینے جیل میں رکھا گیا۔ اور ۳۳۳ یا ۳۴۴ کوڑے لگائے گئے۔ علامہ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں:

”امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر ثابت قدمی اور استقامت سے یہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا، اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ جن لوگوں نے اس دینی ابتلاء میں حکومتِ وقت کا ساتھ دیا اور موقع پرستی اور مصلحت شناسی سے کام لیا تھا، وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر گئے، اور انکا دینی و علمی اعتبار جاتا رہا، اسکے بالمقابل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شان دو بالا ہو گئی، انکی محبت اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی، انکے ایک معاصر قنیہ کا مقولہ ہے: ”اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب سنة (جب تم کسی کو دیکھو کہ اسکو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت کا تابع ہے۔) ایک دوسرے عالم احمد بن ابراہیم الدورقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: ”جس کو تم احمد بن حنبل کا ذکر برائی سے کرتے سنو اسکے اسلام کو مشکوک نظر سے دیکھو“۔ (تاریخ دعوت و عزیمت حصہ اول ص: ۱۰۰)

امام صاحب ۷۷ سال کی عمر میں ۱۲ ربیع الاول بروز جمعہ ۲۴۱ھ مطابق ۸۵۵ء کو اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ انتقال کی خبر ملتے ہی سارا شہر اٹھ آیا۔ کسی کے جنازے پر لوگوں کا ایسا ہجوم اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ مرد اور ساٹھ ہزار عورتیں بتائی جاتی ہے۔

عزیمت کی اس تاریخ کو وہ سوداگر کبھی نہیں سمجھ سکتے جنکے رگ وریشے میں ”فائدہ“ سرایت

کر گیا ہے۔ جو دین کی ہر چیز کو بھی دنیاوی نفع و نقصان کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انھیں یہ سب ”جذباتیت، عجلت پسندی، حکمت و مصلحت کے خلاف اور کوتاہ اندیشی نظر آئے گی۔“

ماضی ہمارا آئینہ ہے

فتنہ خلقِ قرآن کے مسئلے میں حکومت کا ساتھ دینے والوں کو سرکاری حلقوں میں خوب سراہا گیا ہوگا، انکی ذہانت، صداقت و دیانت اعتدال پسندی اور روشن خیالی کے خوب قصیدے پڑھے گئے ہونگے۔ دربار شاہی سے انکے بارے میں، محب وطن، ملک و ملت کے ہمدرد، امن کے پیامبر اور مصلح ہونے کے فرمان جاری کئے گئے ہونگے..... لیکن کیا یہ تمام القاب و اعزازات دنیا کی کسی تاریخ میں موجود ہیں۔ خدا جانے وہ ردی کی ٹوکری بھی کس کوڑے دان کا مقدر بنی ہوگی جس میں ان سرکاری فرامین کو پھینکا گیا ہوگا۔ حکومتِ وقت کی سرپرستی کے باوجود امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرکاری علماء و مشائخ کو کس طور پر یاد رکھا۔ حکومت کی جانب سے عطا کی گئی عزت کے باوجود، مسلمانوں نے انکو کیا مقام دیا۔ کتنے ہیں جو آج انکے نام سے بھی واقف ہیں۔ جبکہ انکے مقابلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنکو حکومتِ وقت نے، شہر پسند، فتنہ پرور اور فسادی کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انکو کیسی عزت بخشی۔ امت نے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی انکو اپنے دل کے درپچوں میں عزت سے جگہ دی ہوئی ہے۔ جو بھی نام لیتا ہے ساتھ میں رحمتیں بھیجتا ہے۔

یہی تاریخ کا سبق ہے۔ لیکن تاریخ سے عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ماضی کی تاریخ کو وہ ماضی کی طرح ذہن سے گزار دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ انکے حال (Present) میں بھی ویسی ہی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اسکی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگ اپنے دور میں ہونے والے واقعات و حادثات کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے تاریخ دیکھتی ہے۔ وہ اسکو بہت محدود دائرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جماعت کے دائرے میں رہ کر، کوئی مسلک کے دائرے میں رہ کر، کوئی وطن کے دائرے میں قید ہو کر۔

اسی طرح اپنے دور میں وہ حکومت کے کہنے پر جس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اسکو بھی حکومت کی نظر سے ہی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنے والوں نے انکو بھی، حکومت کے باغی، امیر المؤمنین کی اطاعت نہ کرنے والے، امت میں انتشار پھیلانے والے اور حکمت و مصلحت کو نہ سمجھنے والے کے طور پر دیکھا ہوگا۔

معمر کہ خیر و شر میں حالات و واقعات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چیلنجز اور تحدیات کے نام الگ اور جدا ہو سکتے ہیں، انکے مقابلے میں کھڑی ہونے والی شخصیات اور انکا میدان کار جہاد جدا ہو سکتا ہے لیکن بنیادی مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ البتہ لوگ صرف ماضی کے ابطال و شہسواروں کی قدر کرتے ہیں اور حال کو بھول جاتے ہیں۔

اللہ کی رحمتیں ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر اور انکے نقش قدم پر چلنے والوں پر، جو انہی عزیمت کی راہوں پر آبلہ پائی کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ جب تک اس روئے زمین پر حق و باطل کا معرکہ جاری ہے اس وقت تک یہ تاریخ دہرائی جاتی رہے گی۔ باطل جس شکل میں بھی آئے گا حق کی جانب سے کوئی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہو جائے گا۔

فرعون پاکستان پر ویز مشرف نے ہر گمراہی کی سرپرستی کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ باطل کھل کر گمراہی پھیلانے اور حق کی صف سے کوئی اسکے خلاف کھڑا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو معرکہ حق و باطل کی تاریخ ادھوری رہ جاتی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو مکمل کرنے کے لئے پرویز مشرف کے مقابلے حق کے امام، شہید ماں باپ کے غازی بیٹے، غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا تاکہ اہل حق کو کوئی طعنہ نہ دے سکے کہ ماضی کی تاریخ پر فخر کرنے والو تمہارا حال کیا ہے؟

غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اور جامعہ حفصہ کی طالبات کی قربانی دے کر درحقیقت اس طبقے کی تاریخ کو شرمندہ ہونے سے بچالیا، جنکے مزاج میں ہر باطل کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ یا اللہ! بے شمار رحمتیں نازل فرمائے غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان غیرت مند طالبات پر جنہوں نے مردوں کی جانب سے قربانی دیکر دینی غیرت کے معنی کی لاج رکھی۔



## شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولیٰ

ہو جسکی فقیری میں بوئے اسد الہی

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۴۴۱ھ میں گیلان میں ہوئی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے۔ یہیں دینی علوم حاصل کئے، وقت کے نامور علماء کی صحبت میں رہے۔ ظاہری و باطنی علوم سے فارغ ہونے کے بعد خلق خدا کے روحانی امراض کا علاج شروع کیا۔ کیا عوام کیا حکام حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء، آپ کی مجالس میں شریک ہو کر دل کی دنیا کو آباد کرتے۔

حضرت شیخ جیلان رحمۃ اللہ علیہ، تواضع و انکساری کے پیکر تھے۔ غریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھتے۔ انکے کپڑوں کو صاف کرتے، جوں نکالتے، اسکے برخلاف کسی مالدار یا اراکان سلطنت میں سے کسی کی تعظیم کے لئے کبھی کھڑے نہ ہوتے۔ خلیفہ کی آمد ہوتی تو قصداً گھر میں تشریف لیجاتے۔ جب خلیفہ آکر بیٹھ جاتا تب باہر تشریف لاتے تاکہ اسکے لئے تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی کثرت پر مؤرخین کا اتفاق ہے۔ اللہ سے خصوصی تعلق، خلق خدا پر شفقت، سخاوت اور مہمان نوازی آپ کی عادات میں گھل گئی تھی۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حق گوئی

جنکے دل اللہ کے لئے خالص ہو گئے ہوں اور آخرت کے وعدوں پر یقین محکم ہو، وہ حاکمان وقت و سلاطین کی ناراضگی کی پروا نہیں کیا کرتے۔ جس دل میں قبر کی تاریکیوں اور تنہائیوں کا خوف ڈیرے ڈالے ہو، انکو زندان کی تاریکیاں اور تنہائیاں کبھی نہیں ڈرا سکتیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حق کو بیان کرنے میں کسی خوف کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ درباری علماء و مشائخ اور حکمرانوں کی خوشنودی کے لئے فتوے جاری کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

”اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو! تم کو ان سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اسکے رسول

کے دشمنو! اے بندگانِ خدا کے ڈاکوؤ! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو، یہ نفاق کب تک رہے گا۔ اے عالمو! اور اے زاہدو! بادشاہ و سلاطین کے لئے کب تک منافق بنے رہو گے؟ کہ ان سے دنیا کا زوال اور اسکی شہوت و لذت لیتے رہو، تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اسکے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہو۔ بار الہی! منافقوں کی شوکت توڑ دے اور انکو ذلیل فرما انکو توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا قلع قمع فرما، اور زمین کو ان سے پاک کر دے، یا انکی اصلاح فرما، (بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت حصہ اول)

ایک دوسرے موقع پر اسی طبقے کے ایک فرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری حرص نے تجھے ظالموں کی خدمت گاری اور حرام خوری پر آمادہ کر دیا۔ تو کب تک حرام کھاتا اور دنیا کے ان ظالم بادشاہوں کا خدمت گار بنا رہے گا؟ جنکی خدمت میں لگا ہوا ہے انکی بادشاہت عنقریب مٹ جائے گی اور تجھے حق تعالیٰ کی خدمت میں آنا پڑے گا جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں۔ (ایضاً)

لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے ہی امیدیں باندھ لی ہیں اور کافروں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہئے بلکہ اس بھی زیادہ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ سب معبودانِ باطلہ ہیں۔

”آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دیناروں پر، اپنے درہموں پر، اپنی خرید و فروخت پر اور اپنے شہر کے حاکم پر، ہر چیز جس پر کہ تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے، اور وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے اور ہر وہ شخص جس پر نفع و نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اسکے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے، تو وہ تیرا معبود ہے۔“ (حوالہ مذکورہ)

اے بندگانِ خدا! پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں غور کیجئے اور پھر اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نے کتنے معبود بنا رکھے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر امریکہ اور یہودی عالمی اداروں کو رازق مانتے ہیں، کافروں کے کہنے پر شریعت کے محکم احکامات کو ممنوع قرار دیدیتے ہیں، بستیوں پر بم برس جانے کے خوف سے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو کافروں کو بیچ ڈالتے ہیں... قرآن کی آیات کو چھپا دیتے ہیں کہ اس سے امریکہ ناراض ہو کر ہمارا رزق بند کر دیا گیا، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائیگا، اپنے گھر بچانے کے لئے دوسرے کلمہ گو مسلمانوں کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر بمباری کراتے ہیں..... ظلم پر ظلم کہ ان قاتلوں کی مدد کرتے ہیں اور

قاتلوں کے دشمنوں (مجاہدین) کے خلاف اپنی زبانیں اور قلم استعمال کرتے ہیں؟ سوچئے یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ غور کیجئے! ہم ایمان کی کونسی حد پر کھڑے ہیں؟ کبھی بتوں کی پوجا سے فرصت ملے تو گن کر تو دیکھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ جنکو شریک بنایا ہے، انکی تعداد کہاں تک پہنچی؟ ہر چیز کا معبود الگ بنا رکھا ہے، موت و حیات کا امریکہ، نقد زر و مال کا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، رزق کا اقوام متحدہ اور اب پانی کا بھارت..... وطنیت..... قومیت..... لسانیت..... خواہشات کا بت؟ ہزار بت ہیں جماعت کی آستینوں میں





## صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ

(۱۱۳۸ء - ۱۱۹۳ء)

حکمرانوں کے لئے عیش و سرمستی کی زندگی گزارنا، اپنی سلطنت کی بقاء کے لئے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنا کونسا مشکل کام رہا ہے۔ قوم کے پیٹ کاٹ کر اپنے خزانوں کے منہ بھرنا دنیا کے طلبگاریوں کی عادت رہی ہے۔ عوام کی زندگی کو خزاں رسیدہ کر کے اپنی زندگی میں بہار کے رنگ بھرنا انکا شوق ہوتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت کا غلاف اوڑھ دینا اور خود غرضی و اناء پرستی کو مقدس آئین کا درجہ دینا انکے لئے آسان کام رہا ہے۔

لیکن اس دین کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چنتے ہیں انکی شان اوروں سے نرالی ہی ہوتی ہے، انکی عادات اطوار دوسروں سے ممتاز ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ اسلام کے افق پر یہی درخشاں ستارے ہیں، جو اندھیری رات کے مسافروں کو منزل کی جانب رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ جنھوں نے اپنی جدوجہد، ایثار و قربانی اور خوفِ آخرت کی بدولت ہر دور میں مسلمانوں کی لاج رکھی ہے۔ خود لٹ پٹ کر، جسم و جان لہو لہو کر کے، دلِ ناتواں کرچی کرچی کروا کر، امت کی تسکین کا سامان کرتے رہے، مسلمانوں کو خوشیاں دلانے کے لئے تمام دنیا جہاں کا غم اپنے دل میں اتار لیا، کہ اگر یہ غم پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی شدتِ کرب سے کونکہ بن جائیں۔

سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کا وہ ہیرو ہیں جنکا نام سنتے ہی ایمان والوں کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے۔ بیت المقدس کی آزادی عالم اسلام کے بچے کا خواب رہی ہے۔ آپ ہی وہ اللہ کے ولی ہیں جنھوں نے قبلہ اول کو کافروں کے قبضے سے آزاد کر لیا۔ پہلی بار اسکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں فتح کیا گیا۔ اسکے بعد حکمرانوں کی بے ہمتی، اور امت کی جہاد سے دوری کی وجہ سے ۲۹۲ھ مطابق ۱۰۹۹ء میں کافروں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کا مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن جانا عالم اسلام کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سے مسلمانوں میں کم ہمتی اور مایوسی پھیل گئی۔

دوسری جانب صلیبی جنگجوؤں کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ انھوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ

پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ روضۂ اطہر سے متعلق گستاخانہ اور توہین آمیز کلمات اور ارادوں کا اظہار کیا۔ ایسے وقت میں عالم اسلام کو کسی مجاہد کی ضرورت تھی جو میدانِ جہاد میں نکل کر صلیبی سیلاب کے راستے میں بند باندھ سکے۔ ایک ایسا قائد جو عوام الناس کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہو، ارض مقدس اور مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ ایک ایسا مجاہد، جو جہاد کو عبادت سمجھ کر کرے اور اسی کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لے۔

صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اور اپنے مقبوضات صلیبیوں سے واپس لینا شروع کئے۔ اللہ تعالیٰ نے انکو ۵۴۱ھ میں شہادت کا جام عطا فرمایا۔

انکے بعد انکے بیٹے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہاد کو آگے بڑھایا۔ نور الدین زنگی عالم، زاہد و عابد تھے۔ انکے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بیت المقدس کی آزادی انکا مشن تھی اور اسکو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔

۵۵۸ھ میں بقیعہ کے معرکے میں عیسائیوں کے اچانک حملہ کر دینے کی وجہ سے شکست ہو گئی تو قسم کھائی کہ جب تک اسلام کا بدلہ نہ لے لوں گا تب تک چھت کے نیچے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جوابی حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ علماء و صلحاء کو بھی حالات لکھ بھیجے جس میں کافروں کے مظالم بیان کئے گئے تھے۔ علماء حق نے رور و کر یہ واقعات مسلمانوں کو سنائے جس سے لوگوں میں جہاد کی لہر دوڑ گئی۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں علماء حق نے مجاہدین کا ساتھ دیا ہے، خود جہاد کے میدانوں میں اللہ کے سپاہی کے طور پر لڑتے رہے ہیں، اور اگر کبھی نہ جاسکے تب بھی انکے دل میدانِ جہاد ہی میں اٹکے رہتے اور عام مسلمانوں کو مجاہدین کی حمایت و نصرت پر ابھارتے رہتے تھے۔

علماء حق کی ترغیب سے لوگ دیوانہ وار نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کو پہنچنے لگے۔ سلطان نے اپنی قسم پوری کی اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے انکو بڑی فتوحات سے نوازا۔ پچاس سے زیادہ شہر کافروں کے قبضے سے چھڑائے۔ لیکن فتح بیت المقدس کسی اور کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ چنانچہ فلسطین کے تمام علاقے صلیبیوں سے پاک کرنے کے بعد ۵۶۹ھ مطابق ۱۱۷۱ء میں منزلِ حقیقی کی جانب محو سفر ہوئے۔

انکے بعد یہ ذمہ داری انکے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھوں پر آ پڑی۔ سلطان کو دیکھنے والے کہتے کہ شاید انکو پیدا ہی اس کام کے لئے کیا گیا ہے کہ اللہ انکے ذریعے دین اسلام کو مضبوط و مستحکم کرے اور بیت المقدس آزاد کرائے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس

کی آزادی کو دل کا روگ بنالیا تھا جو انکو کسی پل چمین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ عیش و آرام، دنیا کی لذتیں، ذاتی خواہشات، سلطان ابوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے یہ سب بے معنی ہو کر رہ گئی تھیں۔ جہاد ہی انکا عیش، جہاد ہی انکا آرام تھا۔ یہی خواہش یہی تمنا اور اسی سے مستقبل کی امیدیں قائم تھیں۔

قاضی ابن شداد، جو کہ سلطان صلاح الدین ابوبی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص رہے، لکھتے ہیں:

”جہاد کی محبت اور جہاد کا شوق انکے رگ و ریشہ میں سما گیا تھا، اور انکے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا، یہی انکا موضوع گفتگو تھا، اسی کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے تھے، اور اسکے اسباب و وسائل پر غور کرتے، اس مطلب کے آدمیوں کی انکو تلاش رہتی، اسی کا ذکر کرنے والے اور اسی کی ترغیب دینے والے کی جانب وہ توجہ کرتے، اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انھوں نے اپنی اولاد، اہل خاندان اور وطن کو خیر باد کہا اور سب کی مفارقت گوارا کی۔ اور ایک خیمے کی زندگی پر قناعت کی، جس کو ہوائیں ہلا سکتی تھیں۔ قسم کھائی جاسکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انھوں نے ایک پیسہ بھی جہاد و مجاہدین کی امداد و اعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرچ کیا ہو“ (بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت حصہ اول)

دوسری جگہ قاضی شداد لکھتے ہیں: ”میدان جنگ میں انکی کیفیت ایک ایسی غمزہ ماں کی سی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہے اور ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے ”یاللا سلام اسلام کی مدد کرو! آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ (ایضاً)



## جنگِ حطین..... فیصلہ کن جنگ

مل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے  
پاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے  
تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے  
تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے

یہ جنگِ حطین تھی جو ۵۸۳ھ مطابق ۱۱۸۱ء کو ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح و شکست کا انحصار اسی جنگ پر تھا۔ چنانچہ صحابی لشکر اپنا سب کچھ اس جنگ میں جھونک چکا تھا۔ سلطان نے جہاد کی ترغیب دے دے کر مجاہدین میں جوش و ولولہ کا آتش فشاں بھڑکا دیا تھا۔ اللہ کے دوستوں کے بازوؤں میں بجلیاں بوند رہی تھیں، جو کسی بھی لمحے اللہ کے دشمنوں پر گرنے کے لئے بے تاب ہو رہی تھیں۔ ہر مجاہد اپنے یا شہادت کے جذبات سے سرشار، اپنے قبلاً اول کو صلیبوں کے پنجے سے چھڑانے کا آرزو مند تھا۔ مجاہدین نے یہ جنگ اس طرح لڑی گویا اسکے بعد انکے لئے زندگی بے معنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ مجاہدین کامیاب ہوئے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و خوار ہوئے۔ بہان والوں کے دل ٹھنڈے ہوئے اور منافقین کے کلیجے پھٹ گئے۔

میدان جنگ کی عجیب سماں تھا۔ ایک ایک مجاہد تیس تیس صلیب فوجیوں کو گرفتار کر کے لیجاتا تھا، جتکو اس نے خود میدان جنگ میں گرفتار کیا تھا۔ بڑے بڑے صلیبی کمانڈر گرفتار ہوئے۔ بادشاہ یروشلم ”گائی“، بھی گرفتار ہوا۔

مکہ و مدینہ پر برکی نظر رکھنے والے کا انجام

مکہ و مدینہ پر برکی نے جملے کا ارادہ کرنے والا، والی کرک ربیجی نالڈ، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کئی قیدی بن کر کھڑا تھا۔ اسکا غرور و تکبر خاک میں مل چکا تھا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پاس بٹھایا۔ اسے پیاسا دیکھ کر، ٹھنڈے پانی کا پیالہ پینے کو دیا۔ بادشاہ نے پانی پی کر ربیجی نالڈ کو دیدیا۔ اس پر سلطان نے پانی دیکھ کر، ٹھنڈے پانی گئے اور بادشاہ گائی کو کہا ”اسکو پانی میں نے نہیں دیا ہے۔ روٹی اور نمک رحمۃ اللہ علیہ ناراض

جسے دیا جاتا ہے وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ شخص میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔“  
یہ کہہ کر سلطان دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ربی نالد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا  
”سن میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم دو مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تب، جب تو نے مکہ اور مدینہ کے  
مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکہ ودغا بازی سے حاجیوں  
کے قافلے پر حملہ کیا تھا، دیکھ میں اب تیری بے ادبی اور توہین کا انتقام لیتا ہوں۔“ یہ کہہ کر سلطان  
رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکالی اور ربی نالد کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے اپنی قسم پوری کی۔

### فتح بیت المقدس

حطین کی فتح کے چند مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی مسلمانوں کو دکھایا جب بیت المقدس  
دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پہلی مرتبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق کے دور میں بھی بیت  
المقدس جہاد ہی کے ذریعے فتح ہوا تھا۔ پھر جب امت جہاد سے غافل ہوئی تو کافروں نے دوبارہ  
اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسکے بعد بیت المقدس نوے (۹۰) سال کافروں کے قبضے میں رہا۔ یہ نوے  
سال وہ ہیں جب انفرادی طور پر امت مسلمہ میں وقت کے بڑے بڑے محدث، مشہور فقیہ، اولیاء  
اللہ موجود رہے۔ علمی اور تحقیقی اعتبار سے، تاریخ اسلام کا یہ سنہری دور تھا۔ جیۃ الاسلام امام غزالی  
رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زنجشیری رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بن عربی، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، اور  
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان شخصیات اس دور میں رہی تھیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفر و فتنے کا زور توڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قاتل کا حکم فرمایا  
ہے۔ اسی راستے کو اختیار کر کے کفر کا زور ٹوٹ سکتا ہے۔ جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب  
صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند کیا، اور نبی آخر الزماں اسی راستے کو اپنی امت کے لئے چھوڑ کر گئے،  
اور فرما گئے کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو تم پر ذلت مسلط ہو جائے گی، یہ ذلت اس وقت  
تک مسلط رہے گی جب تک کہ تم پھر اس جہاد کی طرف لوٹ نہیں آتے۔

اب اگر امت جہاد کے راستے کو چھوڑ کر، کسی اور طریقے سے اس ذلت کو ہٹانا چاہے تو کبھی  
بھی نہیں ہٹا سکتی۔ کیونکہ مسلمانوں کے لئے کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات  
بجالانے میں ہے۔ جس وقت جو حکم ہو وہی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا پر سر کو جھکا دینا ہی دین ہے۔  
اسکے علاوہ سب شیطان کے دھوکے ہیں خواہ الفاظ کے بہیر پھیر، عقلی دلائل، اور قادیانی طرز کے  
اعتراضات لوگوں کو کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگیں۔ دین وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے

لئے چھوڑ کر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عملی زندگی اس پر شاہد ہے۔ اور علماء حق نے اس پر چل کر ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی، رحمۃ اللہ علیہ دین کی اس اٹل حقیقت کو سمجھتے تھے کہ کفر کا زور توڑنے کے لئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدان بدر میں نکلے پھر وہاں جا کر اللہ سے فتح کی دعائیں کیں۔ سو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی آزادی کے لئے قتال کو ضروری سمجھا پھر اسکے بعد علماء حق سے دعاؤں کی درخواست کی۔

۲۷ رجب ۵۸۳ھ کو سلطان بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس میں نوے (۹۰) برس بعد جمعہ کی نماز ہوئی۔ دور دراز کے علاقوں سے علماء اور عوام تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت المقدس کا رخ کر رہے تھے۔

ان لوگوں کی خوشی کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنکے دلوں میں اسلام کی سر بلندی کی تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں، جنکی آنکھیں اسلام اور مسلمانوں کو کافروں کی حاکمیت سے آزاد دیکھنے کے لئے ترس رہی ہیں۔ ورنہ وہ لوگ جنھیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسلام غالب ہے یا مغلوب، مسلمان حاکم ہیں یا محکوم، انکے لئے یہ سب باتیں بے معنی ہیں۔ انکے لئے صرف دو وقت پیٹ کا بھر لینا ہی زندگی ہے۔ خواہ انکے اوپر ہندو حکمرانی کریں یا یہودی۔

اتحادی افواج اور شیر اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جانب بیت المقدس کی فتح کی خبر عالم کفر پر بجلی بن کر گری، اس خبر نے انکے اندر انتقام کی آگ بھڑکادی، تمام یورپ مرنے مارنے پر تیار ہو گیا۔ یورپ کے تمام مشہور بادشاہ، شہزادے، سپہ سالار اور جنگجو میدان میں نکل آئے تھے۔ قیصر (Caeser)، فریڈرک (Frederick)، رچرڈ شیر دل (Richard the Lion-Hearted 1157-1199) شاہان انگلستان، فرانس، صقلیہ، آسٹریا، ڈیوک اور نائٹ سب اتحادی تھے اور انکے مقابلے میں تن تنہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند حلیفوں کے ساتھ عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے۔ پانچ سال مسلسل خونریز جنگیں چلتی رہیں۔ اتحادی افواج بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی سر توڑ کوشش کرتی رہیں۔ لیکن اللہ کی مدد کے سہارے سلطان رحمۃ اللہ علیہ انکا مقابلہ کرتے رہے۔ تھک کر چور ہو جانے کے باوجود آرام کا خیال دل میں نہیں آیا۔ اپنی جان بچانے..... اقتدار کے مزے لوٹنے..... اہل خانہ کے ساتھ زندگی کا لطف اٹھانے کی خاطر ایمانی غیرت و حمیت کا سودا نہیں کیا۔ نہ یہ خوف کھایا کہ اگر ان اتحادی افواج کے سامنے نہیں جھکے تو یہ

مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گی۔ بلکہ بے خوف ہو کر تمام عالم اسلام کی جانب سے قبلہ اول کے دفاع کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

آج لوگ کسی صلاح الدین الیوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا کرتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کو بھیج دیں تو اسکی قدر نہیں کرتے۔ بلکہ انھیں وقت کے صلاح الدین الیوہی نظر ہی نہیں آتے..... القدس کی آزادی کے لئے، جو راستہ صلاح الدین الیوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، آج انکے روحانی جانشین اسی راستے پر چل کر القدس تک پہنچنے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔

یاد رکھنا چاہئے کہ صلاح الدین الیوہی رحمۃ اللہ علیہ صرف القدس فتح کرنے والے کا نام نہیں۔ یہ ایک جذبہ ہے..... ایک عزم ہے..... ایک تڑپ ہے..... عشق و سرمستی کی وہ انتہا ہے جہاں عقل کو داخلے کی اجازت نہیں..... فسخ و شکست کا اس سے کوئی تعلق نہیں..... جو لوگ مجاہدین کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ فتح و شکست کو دیکھ کر کرتے ہیں، وہ عقلیت پسند (Rationalists) ہیں، عشق کی انکو ہوا بھی نہیں لگی اور نہ ہی وہ شریعت کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔

یاد کیجئے! سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نو سو سال دعوت دیتے رہے لیکن نتیجہ کیا رہا؟ نعوذ باللہ کیا آپکا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ناکام ہو گئے؟ کیا وہ حق پر نہیں تھے؟

درحقیقت عشق و محبت نفع و نقصان کو دیکھ کر نہیں کی جاتی، انجام سے بے پروا ہو کر صرف حکم بجالایا جاتا ہے۔ حکم اگر اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دینے کا ہے تو فوری تعمیل کی جاتی ہے، عقل نہیں دوڑائی جاتی کہ چھری چلے گی یا نہیں؟ گردن کٹے گی یا نہیں؟ لمبی تاریخ ہے..... اسکو اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں جنکے دلوں میں ایمان گھر کر گیا ہے۔

چنانچہ یہ امت ہر دور میں صلاح الدین الیوہی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنے والے پیدا کرتی رہی۔ کبھی سلطان محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ (فاتح قسطنطنیہ 1481-1432) کی شکل میں، کبھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ (1707-1618) کی شکل میں، کبھی سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ (1799-1749) کی شکل میں تو کبھی سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ (شہادت 1799ء) کی صورت میں، کبھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ (1831-1786) کی شکل میں، کبھی میدان شامی کے شہسواروں کی صورت میں۔ صرف غور و فکر کی کمی ہے۔ ورنہ آج بھی یہ امت بانجھ نہیں ہوئی۔ جہاد افغانستان کی ابتداء سے اب تک مختلف خطوں میں امت کی ماؤں نے کیسے کیسے ہیرے اس دین کے لئے جہاد کے میدانوں میں قربان کر دیئے۔ تاریخ لکھی جائے گی، تب تسلیم

کیا جائے گا۔ کیونکہ لوگ اپنے دور کی شخصیات کے ناقدرے واقع ہوئے ہیں۔ وہ صرف ماضی کے صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں جبکہ انکا حال ان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔

ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس دور میں سلطان صلاح الدین ابوہی رحمۃ اللہ علیہ آجائیں تو ہم میں سے کتنے انکا ساتھ دیں گے؟ اتحادی افواج کے مقابلے انکا اتحادی کتنے مسلمان بن جائیں گے؟ حکومت، وقت کی ناراضگی، سازشیں، فتنے اور ذاتی الجھنوں کے ہوتے ہوئے ایسے کتنے دیوانے ہونگے جو سب کچھ چھوڑ کر بیت المقدس فتح کرنے کے لئے کسی ابوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے جائیں گے؟





## امام مہدی

حضرت امام مہدی کا نسب، حلیہ اور بیعت سے متعلق تفصیلی گفتگو ”تیسری جنگِ عظیم اور دجال“ میں گذر چکی ہے۔ کچھ تفصیل ”برمودا تکون اور دجال“ میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس بحث سے متعلق مختصراً چند باتیں عرض کریں گے۔ معتزلی فکر کے حامل لوگ امام مہدی کی آمد کے منکر ہیں۔ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچی احادیث کو رد کر کے یہ لوگ صرف اس ہٹ دھرمی پر قائم ہیں کہ مہدی کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ پوری امت کے چودہ سو سالہ مفسرین، محدثین، فقہاء اور علماء ایک طرف، جن سب کا عقیدہ امام مہدی کی آمد کا ہے، اور یہ حضرات ایک طرف کہ ماننے کا نام ہی نہیں لیتے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ مہدی آخر الزمان آخری دور میں تشریف لائیں گے۔ کفار اور منافقین سے قتال کر کے روئے زمین پر خلافتِ اسلامیہ قائم کریں گے جو نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی۔ ان دشمنانِ اسلام میں وہ نام نہاد مسلمان حکمران طبقہ بھی شامل ہوگا جو اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کے دشمن ہیں۔ اسلامی نظام نافذ ہونے سے انھیں اپنے ہاتھ کٹ جانے، انکی عورتوں کو سنگسار کئے جانے اور انکی اولادوں کو ناحق قتلِ مسلم کے جرم میں پھانسی پے چڑھ جانے کا خطرہ ہے۔

اہل سنت والجماعت میں، حضرت مہدی اور دجال کی آمد کو تسلیم کرنے کے باوجود انکے متعلق لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ کچھ لوگ اس موضوع کو اہمیت دیتے ہیں اور کچھ اہمیت دینے کے بالکل مخالف ہیں۔ یعنی اگر فتنوں، حضرت مہدی اور دجال کو بالکل بیان نہ کیا جائے تو بعض لوگوں کے نزدیک اچھا ہے۔ لیکن اگر اس موضوع کو بیان کرنا یا لکھنا شروع کریں تو وہ اسکو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان میں سے کچھ لوگ امام مہدی کے بیان کی اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے امت میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ عملیت پسندی کم ہوتی ہے۔ لوگ خود کچھ کرنے کے بجائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، امام مہدی کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ کریں گے مہدی ہی آکر کریں گے۔

حضرت مہدی کے تذکرے سے اگر ایسا تاثر ملتا ہے کہ لوگ عمل سے دور ہو جائیں تو یقیناً

ایسے تذکرے سے تذکرہ نہ ہونا بہتر ہے۔ لیکن اگر اس موضوع پر لکھنے والے کا مقصد، امت کو بیدار کرنا، ان میں جذبہ جہاد اور کفار سے ٹکرانے کے حوصلے پیدا کرنا، مایوسی و ناامیدی سے نکال کر امید و یقین کی شمعیں روشن کرنا ہو تو اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اسکی مخالفت کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ نیز اس دور میں اگر کوئی اس موضوع کو بیان کر رہا ہے تو کوئی کام نہیں کر رہا بلکہ ہر دور میں سلف صالحین اس موضوع پر لکھتے رہے ہیں۔ اور اپنے اپنے وقت کے حساب سے تطبیق بھی دیتے رہے ہیں۔

کا نپتا ہے دل ترا اندیشہ طوفان سے کیوں

ایک خطرناک طوفان جس قوم کے دروازے پر دستک دے رہا ہو، پھری ہوئی لہریں اپنے ساتھ سب کچھ بہالے جانے کے لئے موجیں مار رہی ہوں، ایسی قوم اگر احتیاطی تدابیر کرنے کے بجائے، طوفان کے امکان کو ہی رد کرنے لگے، تو انکے انجام کے بارے میں کس کو شک ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں جب عالم اسلام اور خصوصاً مسلمانان پاکستان انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، اگر لوگوں کو ان حالات کی نزاکت سے آگاہ کرنا، جذباتیت اور مبالغہ آرائی ہے تو پھر امت کو جگانے کا مناسب وقت اور طریقہ کیا ہوگا؟ کیا طوفان کے آثار دیکھ کر اسکی آمد کا انکار کر دینے سے طوفان ٹل جائے گا..... یا گھروں کی دہلیز پر پہنچی سونامی کی لہریں، صرف اسلئے واپس پلٹ جائیں گی کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی..... یا ہم سو رہے تھے؟ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہئے کہ ہم خطرات کا ادراک کر کے ان سے اجتماعی مقابلے کے بجائے، فرداً فرداً مٹ جانے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ اہل حق کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن ہم اپنی سستی، کم ہمتی اور کاہلی کو تاویلات کا لباس اوڑھا کر، خواب و خیال کی دنیا میں گمن رہنا چاہتے ہیں۔

کا نپتا ہے دل ترا اندیشہ طوفان سے کیوں

ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فتن، دجال اور حضرت مہدی کے بیان کو اہمیت دی جائے یا نہیں تو اس میں اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے۔ اپنے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بار بار یاد دہانی کراتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین فقہاء اور ہر دور کے علماء اس موضوع پر تصنیفات لکھتے رہے ہیں۔ یہ ایک طویل فہرست ہے، جسکو کتاب کے آخر میں درج کیا گیا ہے۔

## امام مہدی کے خروج کی چند نشانیاں

عن بن سیرین قال لا يخرج المهدي حتى يقتل من كل تسعة سبعة (رواه نعیم بن حماد فی الفتن) قال احمد بن شعبان: ليس فيه باس.

ترجمہ: حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مہدی اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک ہر نو میں سے سات قتل نہ کر دیئے جائیں۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما أنه رأى بنياناً على أبي قيس فقال يا مجاهد اذا رأيت بيوت مكة قد ظهرت على اخاشبها وجرى الماء في طرفها فنخذ حذرک (ابن حجر فی الفتح وعزاه الفاکھی فی کتاب مکة)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انھوں نے جبل ابی قیس پر عمارت دیکھی تو فرمایا اے مجاہد جب تم دیکھو کہ مکہ کے دونوں پہاڑوں (جبل ابی قیس اور جبل قعیقان) پر گھر ظاہر ہو گئے ہیں اور پانی اسکے راستوں میں جاری ہو گیا ہے تو ہوشیار ہو جانا۔

فائدہ..... جبل ابی قیس صفاء کے اوپر والا پہاڑ ہے۔ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کئے تھے۔ اس پہاڑی پر شاہان آل سعود کا محل بنا ہوا ہے۔ جبکہ جبل قعیقان اسکے سامنے والا پہاڑ ہے۔ ایک قول کے مطابق الاشبان سے مراد جبل ابی قیس اور جبل احمر ہیں۔ (معجم البلدان)

عن يعلى بن عطاء عن ابيه قال كنت آخذاً بلجام دابة عبد الله بن عمرو فقال: اذا رأيت مكة قد بعجت كظائم ورأيت البناء يعلور رؤوس الجبال فاعلم أن الامر قد اظلك (مصنف ابن أبي شيبة)

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن عطاء نے اپنے والد سے روایت کی ہے انھوں نے فرمایا، میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی سواری کی لگام تھامے ہوا تھا، انھوں نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ مکہ میں پانی کی نہریں (پائپ لائن) کھود دی گئی ہیں اور عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلند ہو رہی ہیں تو جان لینا کہ قیامت کا معاملہ قریب آ پہنچا۔

فائدہ..... مکہ مکرمہ میں پانچ لاکھ کے ذریعے ہر جگہ پانی بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ اور عمارتیں بھی مکہ مکرمہ کے تمام پہاڑوں پر تعمیر کر دی گئی ہیں۔

امام مہدی کا خروج کہاں سے ہوگا

جیسا کہ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ میں ہوگا۔ یعنی بحیثیت مہدی آخر الزماں، آپ سے بیعت حرم شریف میں کی جائے گی۔ لیکن خروج سے متعلق صحیح احادیث میں صراحت نہیں ہے۔ البتہ سلف صالحین نے بعض احادیث سے یہ مطلب نکالا ہے کہ حضرت مہدی کا خروج (بیت اللہ میں بیعت لئے جانے سے پہلے) بلا دمشق میں ہوگا۔ یہ حدیث یقتتل عند کنز کم ثلثة کلہم ابن خلیفہ (تمہارے خزانے کے پاس تین گروہ جنگ کریں گے یہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہونگے) والی حدیث ہے۔

چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کی بنیاد پر فرمایا: ویكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامرا كما يزعمه جهلة الافضة..... یعنی حضرت مہدی کا ظہور بلا دمشق سے ہوگا نہ کہ سامرا کی غار سے جیسا جاہل روافض گمان کئے بیٹھے ہیں کہ وہ اس غار میں موجود ہیں۔ یہ آخری زمانے میں انکے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انکی ہدیانہ کیفیت اور انتہائی مایوسی ہے۔

اسی صفحہ پر آگے فرماتے ہیں ”ویؤیدہ بناس من اهل المشرق ینصرونہ و یقیمون سلطانہ و یشدون ارکانہ و تكون رأیاتہم سواداء ایضا..... لان رایۃ رسول اللہؐ کانت سواداء یقال لہ العقاب..... والمقصود أن المہدی الممدوح الموعود بوجودہ فی آخر الزمان یكون اصلہ خروجہ وظہورہ من ناحیۃ المشرق ویبايع لہ عند البیت کما دل علی ذلک نص الاحادیث (النتہایۃ فی الفتن والملاحم، ج: ۱، ص: ۵۶، ۵۵)“

ترجمہ: ”اہل مشرق انکی تائید و حمایت کریں گے۔ انکی سلطنت قائم کریں گے اور اسکو مستحکم کریں گے۔ ان (اہل مشرق) کے جھنڈے بھی کالے ہونگے..... کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی کالا تھا جسکو ”العقاب“ کہا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مہدی ممدوح آخر الزماں کا اصلی خروج و ظہور بلا دمشق سے ہوگا اور بیعت بیت اللہ میں لیجائے گی۔ نص احادیث اس پر شاہد ہیں۔“ (النتہایۃ فی الفتن والملاحم)

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی آثار اپنی ”الفتن“ میں روایت کئے ہیں جن میں امام مہدی کے خراسان اور کوفہ میں موجود ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ کمزور ہیں۔

### امام مہدی کی مدت

امام مہدی کتنا عرصہ حکومت کریں گے۔ اسکے بارے میں صحیح احادیث میں سات سال یا نو سال کی مدت بیان کی گئی ہے۔

**1**..... لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اهل بيتي أجلي أقمى يملأ الارض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين (مسند احمد۔ اسنادہ صحیح علی شرط مسلم دون قوله يكون سبع سنين)

ترجمہ: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کرے۔ (وہ) چوڑی پیشانی والا، کھڑی ناک والا ہوگا۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا۔ جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سات سال رہے گا۔

**2**..... متدرک حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں ”ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الامة يعيش سبعا او ثمانيا یعنی حججا (حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو صحیح الاسناد کہا ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکی توثیق کی ہے)

اس حدیث میں سات یا نو سال امام مہدی کے رہنے کی مدت بیان کی گئی ہے۔

**3**..... يكون في امتي المهدي ان قصر فسبع والا فثمان والا فتسع (رواه الطبرانی فی الاوسط ورجاله ثقات۔ مجمع الزوائد)

میری امت میں مہدی ہوگا۔ اگر کم (مدت رہے تو) سات سال ورنہ آٹھ، ورنہ نو سال۔

**4**..... ان في امتي المهدي يخرج. يعيش خمسا او سبعا او تسعا (رواه الترمذی قال البانی حسن)

پیشک میری امت میں مہدی ہوں گے۔ وہ پانچ سال جنیں گے۔ یا سات یا نو۔

**5**..... يكون في امتي المهدي ان قصر فسبع والا فتسع (ابن ماجه والحاكم۔ قال البانی حسن)

میری امت میں مہدی ہوں گے۔ اگر کم تو سات سال ورنہ نو سال۔

**6**..... يكون اختلاف عند موت خليفة..... ويلقى الاسلام بجرانه الى الارض

فیعیثون بذلک سبع سنین او قال تسع سنین (رواہ الطبرانی فی الاوسط ورجالہ رجال الصحیح. مجمع الزوائد) مسند ابی یعلیٰ ۶۹۳۰

خليفة کی موت کے وقت اختلاف ہوگا..... اور اسلام روئے زمین پر مضبوط و مستحکم ہو جائے گا۔ چنانچہ لوگ اسی حالت پر سات سال رہیں گے یا نو سال فرمایا۔

### حضرت مہدی کے دوست

محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے ایک آدمی نے ان سے مہدی کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ بیہات پھر اپنے ہاتھ سے ساتھ کا ہندسہ بنایا پھر فرمایا ”وہ آخری زمانے میں نکلیں گے جب آدمی اللہ اللہ کہے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ انکے ساتھ ایسے لوگوں کو جمع کر دیں گے جو بادل کے ٹکڑوں کے مانند علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انکے دلوں میں الفت پیدا فرمادینگے۔ وہ کسی کو اجنبی نہیں سمجھیں گے اور نہ کسی پر اترائیں گے۔ ان میں اصحاب بدر کی تعداد کے برابر لوگ شامل ہوں گے۔ نہ ان سے پہلے والے ان پر سبقت لے جائیں گے اور نہ انکے بعد والے انکو پہنچ سکیں گے، اور وہ حضرت طاہر کے ان ساتھیوں کی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے انکے ساتھ نہر عبور کی تھی۔“ ابو الطفیل نے کہا ابن حنفیہ نے کہا کیا آپ انکو چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ (اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ شیخین کی شرط صحیح ہے۔ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔)

### امام مہدی سے متعلق چند سوالات

امام مہدی اور دجال سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ مثلاً

1..... صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں مسلمان بہت خوشحال ہوں گے۔ وہ لوگوں کو لپ بھر بھر کے مال تقسیم کریں گے۔ جبکہ صحیح حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ دجال کے وقت تمام دنیا کے وسائل دجال کے قبضے میں ہوں گے۔ جو اسکی بات مان لے گا اسکو اپنی جنت عطا کرے گا اور جو اسکی بات نہیں مانے گا اسکو جہنم میں ڈال دیگا۔ اپنے دشمنوں کی کھیتوں، موییشیوں اور اموال کو تباہ کر دیگا۔ بارشیں روک دیگا۔ زمینیں بخر ہو جائیں گی۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے۔

2..... جو لوگ امام مہدی کو پہلی بار دیکھ کر پہچان لینگے۔ ظاہری حلیہ دیکھ کر پہچانیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ حضرت مہدی سے انکا نام و نسب دریافت کریں گے۔ یہاں اگر ظاہری حلیے سے مراد حضرت مہدی کا وہ حلیہ ہے جسکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ایسا ظاہری حلیہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے۔ مثلاً ستواں ناک، چوڑی پیشانی وغیرہ۔ جہاں لاکھوں کا مجمع ہو وہاں اس حلیے کے لوگ کافی سارے ہونگے۔ بعض علماء جنکا تعلق جہاد کے میدانوں سے ہے انکی یہ رائے ہے کہ حضرت مہدی ان (بیعت پر اصرار کرنے والوں) کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں رہے ہونگے اور یہ حضرات انکو پرانے مجاہد کے طور پر پہچانتے ہونگے۔ البتہ پہلے انکے مہدی ہونے کا علم کسی کو نہیں ہوگا؟ جب مجاہدین کو سخت حالات پیش آئیں گے اور انکی قیادت پے در پے شہید ہو جائے گی یہاں تک کہ انفس الذکیہ بھی شہادت کا جام نوش فرمائیں گے۔ ایسے وقت میں وہ علماء حق جو جہاد کے میدانوں سے وابستہ ہونگے، اللہ تعالیٰ انکی توجہ انکے ایک پرانے ساتھی کی جانب مبذول کرادیں گے کہ اب انکو امیر بناؤ۔ پہلے پہل حضرت مہدی اپنے ہاشمی ہونے کا انکار کریں گے لیکن بعد میں ان علماء یا مجاہدین کو یقین ہو جائے گا کہ یہی مہدی آخر الزماں ہیں۔ چنانچہ انکو بیعت کے لئے تیار کر لیں؟

جواب 1..... امام مہدی کے دور میں فرانجی اور دجال کے وقت میں تنگی والی احادیث پڑھ کر بظاہر تضاد (Contradiction) لگتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

صحیح احادیث میں حضرت مہدی کے وقت خوشحالی کا دور سات سال یا آٹھ سال یا نو سال آیا ہے۔ اور اسکے بعد پریشانی کا دور شروع ہو جائے گا۔

مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جسکا ایک حصہ یہ ہے ”فیکون كذلك سبع

سنین او ثمان سنین او تسع سنین ثم لاخیر فی العیش بعدہ (مسند احمد)

طبرانی کی روایت ہے وبقسم الاموال ویلقی الاسلام بحرانہ الی الارض فیعیثون بذلک سبع سنین امام مہدی اموال تقسیم کریں گے اور اسلام مضبوط و مستحکم ہو جائیگا۔ مسلمان اس حالت میں سات سال رہیں گے۔ (علامہ بی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جالرجال الصحیح)

اس خوشحالی کے دور کی ابتداء کب سے ہوگی؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی جیش الخف عنہا والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی کو شکست دینے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔

عنأم سلمة رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول

یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من بنی ہاشم فیأتی مکة فیستخرجہ الناس من بیتہ وهو کارہ فیبا یعونہ بین الرکن والمقام فیجہز الیہ جیش من الشام حتی اذا کانوا بالبیداء خسف بہم فیأتیہ عصاب العراق وأبدال الشام وینشأ رجل بالشام وأحوالہ کلب فیجہز الیہ جیشا فیہز مهم اللہ فتکون الدائرة علیہم فذالک یوم کلب الخائب من خاب من غنیمۃ کلب فیستفتح الکنوز ویقسم الأموال ویلقی الاسلام بجرانہ الی الأرض فیعیث بذلک سبع سنین أو قال تسع سنین (المعجم الأوسط، ج: ۲، ص: ۳۵، مسند أبی یعلیٰ: ۶۹۳۰، ابن حبان: ۶۷۵۷، المعجم الکبیر: ۹۳۱، ابن حبان: ۶۷۵۷)

ترجمہ: ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص (اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں) مدینہ سے مکہ چلا جائیگا لوگ (اسے پہچان کر کہ یہی مہدی آخر الزماں ہیں) گھر سے باہر نکال لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان انکے نہ چاہتے ہوئے بھی اسکے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کریں گے۔ (اس کی بیعتِ خلافت کی خبر سن کر) شام سے ایک لشکر ان سے مقابلہ کے لئے روانہ ہوگا چنانچہ یہ لشکر جب بیداء میں پہنچے گا تو دھنسا دیا جائیگا۔ اسکے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جسکی نبیہال قبیلہ کلب میں ہوگی وہ اپنا لشکر ان (بنی ہاشم کے اس شخص) کے خلاف مقابلے کے لئے روانہ کریگا اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دیگا جسکے نتیجے میں ان پر آفت آئیگی۔ یہی ”کلب“ کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارہ میں رہے گا جو ”کلب“ کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ (مہدی) خزانوں کو کھول دینگے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا وہ اس طرح سات یا نو سال رہینگے۔ اس روایت کو طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اسکے تمام راوی صحیح ہیں۔ (مجمع الزوائد، ج: ۷، ص: ۳۱۵)

جبکہ دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت چالیس دن ہوگی جو کہ ایک سال دو مہینے اور تقریباً چودہ دن کے برابر ہوں گے۔ دجال کا یہی عرصہ مسلمانوں پر انتہائی آزمائش کا ہوگا۔ نیز دجال کے خروج سے تین سال پہلے سے آزمائشوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ امام مہدی اپنے ابتدائی دنوں میں ہی بڑی بڑی فتوحات کر لیں گے۔ جسکے بعد مسلمانوں کے لئے خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ دور پانچ سے نو سال تک ہو سکتا ہے۔ پھر اسکے بعد مشکلات کی ابتداء ہوگی۔ مسلمان اور منافق الگ الگ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث



میں یہی آیا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے مسلمان اور منافقین الگ الگ ہو جائیں گے۔ یصبر الناس فی فسطاطین فسطاط ایمان لا نفاق فیہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ۔

یہاں ایک اور سوال ذہن میں آسکتا ہے۔ وہ یہ کہ امام مہدی کے دور میں گھمسان کی جنگیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنگ بھی ہوگی جسکو حدیث میں الملحمة الکبریٰ کہا گیا ہے جس میں ۹۹ فیصد مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ جنگوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کس طرح خوشحال اور پر امن زندگی گزار سکتے ہیں؟

اسکا جواب یہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق سفیانی کے لشکر کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا۔ جبکہ ملحمة الکبریٰ دجال کے آنے سے ایک سال پہلے ہوگی۔ اس ملحمة الکبریٰ کے علاوہ اس عرصے میں اگر جنگیں ہوں تو وہ امن و امان یا خوشحالی کے منافی نہیں ہیں۔ فاتح تو میں جنگیں لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں امن و امان اور خوشحالی کو باسانی برقرار رکھ لیتی ہیں۔ تاریخ میں اسکی بڑی واضح مثال امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں موجود ہے۔ آپ کے دور میں جنگوں پہ جنگیں لڑی جاتی رہیں اسکے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمان مضبوط بھی رہے اور خوشحال بھی۔

ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جنگ تو سرزمینِ حجاز و شام میں ہوگی۔ چنانچہ اسکے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ارضِ حجاز یا عرب ممالک میں حضرت مہدی اسلامی خلافت قائم کر پائیں گے۔ جبکہ ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان وغیرہ کی کیا صورت حال ہوگی۔ کیا ان جگہوں کے مسلمان بھی اسلامی خلافت کے سائے میں خوشحالی کی زندگی گزاریں گے؟

اسکا جواب ان احادیث میں ملتا ہے جو ان خطوں کی فتوحات سے متعلق آئی ہیں۔ مثلاً مشرق (خراسان) سے امام مہدی کی حمایت میں اٹھنے والے کالے جھنڈوں والی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقے مجاہدین کے قبضے میں ہونگے۔ رہا ہندوستان تو ہندوستان کی فتح کی بشارت بھی حدیث نبوی میں موجود ہے۔ مجاہدین کالشکر ہندوستان کو بھی امام مہدی کی خلافت میں لائے گا اور وہاں بھی مسلمان ایسی ہی خوشحال زندگی گزاریں گے۔

امام مہدی کے بارے میں اگرچہ حدیث میں عرب کے علاقے کی وضاحت آئی ہے۔ لیکن محدثین نے عجم کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ امام مہدی سے متعلق ایک حدیث ہے ”لا تذهب الدنيا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطی اسمہ اسمی“ کی تشریح میں ”تحفة بالذال“ میں ہے:

”علاء علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں عجم کو بیان نہیں کیا لیکن اس سے وہ بھی مراد ہیں۔ کیونکہ جب وہ (حضرت مہدی) عرب ممالک پر حکومت کریں گے اور تمام مسلمانوں کا مقصد و نصب العین ایک ہوگا نیز وہ سب متحد بھی ہونگے تو تمام قوموں پر غالب آجائیں گے۔ اس بات کی تائید امام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی کر رہی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ (مہدی) مسلمانوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کریں گے اور اسلام روئے زمین پر مستحکم و مضبوط ہو جائے گا۔ وہ سات سال رہیں گے۔“

”ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب کا ذکر اسلئے کیا ہو کہ اس وقت وہ غلبے میں ہوں یا انکے مسلمانوں میں محترم و معزز ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر کیا ہو۔ یا اختصار کی وجہ سے صرف عرب کو ذکر کیا جبکہ مراد اس سے عرب و عجم دونوں ہیں۔ لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ عرب کا ذکر اسلئے کیا ہے کہ عجم انکی اطاعت کرتے ہیں۔“ (تحفۃ الاحوذی ج: ۶ ص: ۴۰۲)

**جواب 2**..... دوسرا سوال جو حضرت مہدی کے خراسان یا جہاد کے میدانوں میں ہونے سے متعلق ہے، اسکے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول اوپر نقل کیا گیا ہے نیز نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے الفتن میں بھی چند آثار نقل کئے ہیں جن سے حضرت مہدی کے جہاد کے میدان میں ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک معاصر مجاہدین علماء کی اس رائے کا تعلق ہے کہ بیعت لینے والے حضرات حضرت مہدی کو بحیثیت پرانے مجاہد کے پہچانتے ہونگے، یہ ان علماء کی رائے ہے۔ اگرچہ اس رائے کی تائید حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی کر رہا ہے۔

اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ امام مہدی کو وہی علماء حق تلاش کریں گے جو قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے نظریے پر ایمان رکھتے ہونگے، یہ علماء حق قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو شکست دینے کے خواہشمند ہونگے۔



## امام مہدی کی حمایت میں مشرق سے آنے والے کالے جھنڈے

اس بارے میں متعدد روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ جبکہ آثار کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح احادیث بھی موجود ہیں۔ اسکے باوجود بعض لوگ اسکا انکار کرتے ہیں۔ انکا انکار محض لاعلمی، ضد یا کسی تعصب کی بنیاد پر ہے۔ یہی وہ طبقہ جو امام مہدی کا بھی انکار کرتا ہے۔ انکے پاس نہ کوئی علمی دلیل ہے۔ بلکہ اصول احادیث کو ایک طرف رکھ کر یہ بس اس پر بضد ہیں کہ مہدی کے بارے میں تمام احادیث ضعیف ہیں۔

جو لوگ ضد پر آجائیں اور ”میں نہ مانوں“ کی رٹ لگائے رکھیں تو آپ انکو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ انکار کرنے والے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آمد کا بھی انکار کرتے ہیں۔ نیز دجال کی آمد کے منکر بھی اس دور میں موجود ہیں۔

ان کالے جھنڈوں کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یہ کالے جھنڈے وہ ہونگے جو حضرت مہدی کے ساتھ ہونگے..... حضرت مہدی کے اپنے جھنڈے بھی کالے ہونگے.... کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی کالا تھا۔ جسکو عقاب کہا جاتا تھا۔ اسکو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بن ولید نے مشرقی دمشق میں ”ثنیہ“ نامی مقام پر نصب کیا ہوا تھا۔ اس جگہ کو ابھی تک ثنیہ العقاب کہا جاتا ہے۔ یہ جھنڈا روم و عرب کے کافروں پر عذاب تھا۔“ (النبایہ فی الفتن والملاحم ج: ۱ ص: ۱۷۲)

مشرق سے اٹھنے والے کالے جھنڈوں کے بارے میں مستند روایات

1..... عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقتل عند کنزکم ثلاثة کلہم ابن خلیفۃ ثم لا یصیر الی واحد منہم. ثم تطلع رأیات سود قبل المشرق فیقاتلونکم قتالا لم یقاتلہ قوم ثم ذکر شیئا فقال اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبواً علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی ہذا حدیث صحیح علی

شرط الشيخين وقال الذهبي رحمة الله عليه: على شرط البخاري ومسلم (المستدرک علی الصحیحین للحاکم مع تعلیقات الذہبی فی التلخیص ج: ۴، ص: ۵۱۰)

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے خزانے پر تین آدمی جنگ کریں گے۔ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہونگے۔ پھر یہ (خزانہ) ان میں سے کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ پھر کالے جھنڈے مشرق سے ظاہر ہونگے۔ وہ تم سے ایسے جنگ کریں گے کہ کسی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا۔ پھر فرمایا: جب تم اٹکو دیکھو تو اٹکے ہاتھ پر بیعت کر لینا خواہ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہونگے۔

حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو اپنی سند سے روایت کیا ہے اور کہا ہے ”ہذا الاسناد قوی صحیح“ (النهاية في الفتن)

علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہذا الاسناد صحیح رجال ثقات“  
علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ”حدیث صحیح المعنی دون قولہ: ”فانہ خلیفۃ اللہ المہدی“۔ و اسنادہ حسن۔ (سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوۃ)

2..... عن بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال يحيى قوم من ههنا و اشارة بيده نحو المشرق اصحاب رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه مرتين او ثلاثا فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا افلا يقبلونه حتى يدفعوها الى رجل من اهل بيتي فيما لها عدلا كما ملثوها ظلما فمن ادرك ذلك منكم ليأتهم ولو حبوا على الثلج (رواه ابو عمرو الداني)

قال ابو عبد الله محمد حسن محمد حسن الشافعي صحيح. ورواه ابن ماجه، رحمة الله عليه  
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم یہاں سے آئے گی اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ کالے جھنڈوں والے ہونگے۔ حق (امارت) کا سوال کریں گے۔ چنانچہ وہ (عرب کے حکمران) نہیں دیں گے۔ دو مرتبہ یا تین مرتبہ۔ سو وہ قتل کریں گے۔

پس انکی مدد کی جائے گی۔ اسکے بعد وہ (عرب) ان کو امارت دیں گے۔ کالے جھنڈوں والے اب اسکو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے اک شخص کو امارت دیدیں گے۔ پس وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ سو تم میں سے جو انکو پالے ضرور انکے ساتھ آجائے خواہ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ (اسکو ابو عمرو الدانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور محقق ابو عبد اللہ محمد حسن محمد حسن الشافعی نے اسکو صحیح کہا ہے۔)

**3**..... عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذ اقبل فتية من بنی ہاشم فلما راہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغرو رقت عیناہ وتغیر لونه قال فقلت ما نزال نری فی وجہک شیا نکرہہ فقال ان اهل بیت اختار اللہ لنا الآخرة علی الدنيا وان اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء وتشریدا وتطریدا حتی یأتی قوم من قبل المشرق معهم رأیات سود فیسالون الحق فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلونه حتی یدفعوها الی رجل من اهل بیتی فیملؤها قسطا کما ملؤها جورا فمن ادرك ذلك منکم فلیأتهم ولو حبوا علی الشلج (اخرجه ابن ابی شیبہ) (۳۷۷۷)، نعیم بن حماد فی الفتن، ابن ماجہ (۲۰۸۲)، ابو نعیم (۲۷۷)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کہ بنو ہاشم کے کچھ نوجوان آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو دیکھا تو آپکی چشم مبارک سرخ ہو گئیں اور چہرہ مبارک کارنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے دریافت کیا، ہم آپکے چہرے پر ناپسندیدگی کی آثار دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک ہم اہل بیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو پسند فرمایا ہے، اور میرے اہل بیت کو میرے بعد تکالیف اور جلا وطنی کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ آئیں گے، جنکے ساتھ کالے جھنڈے ہونگے، تو وہ حق کا سوال کریں گے۔ وہ (بنو ہاشم) ان (کالے جھنڈے والوں) کو نہیں دیں گے، چنانچہ وہ قتال کریں گے اور انکی مدد کی جائے گی، پھر یہ انکو وہ کچھ دیں گے جسکا انھوں نے سوال کیا تھا لیکن اب وہ اسکو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اس کو وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دیدیں گے۔ پس وہ زمین کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم سے بھری ہوئی تھی، سو تم میں سے جو ان (کالے جھنڈوں) کو پالے انکے ساتھ ہو جائے خواہ اسکو برف پر گھٹنوں

کے بل چل کر آنا پڑے۔

علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ ”زوائد ۱۴۳۱“ میں فرماتے کہ اس سند میں یزید ابن ابی زیاد کوئی مختلف فیہ ہیں۔ لیکن اس میں زیاد ابن ابی زیاد منفرد نہیں ہیں بلکہ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں عمرو بن القیس عن الحکم عن ابراہیم کے طریق سے روایت کیا ہے۔ علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کی جس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے اسکو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا ہے۔ لیکن شیخ احمد الغماری نے ”ابراز الوہم المکنون“ میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اور انکے بھائی عبداللہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے جواب میں کہتے ہیں: ”یہ حدیث موضوع نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی ایسے راوی نہیں ہیں جو کذاب یا وضاع ہوں۔ نیز جبکہ اسکے اور طرق بھی موجود ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی طریق سے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے جسکو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسکو تسلیم کیا ہے۔ (بحوالہ العرف الوردی فی اخبار المہدی مع تحقیق شیخ ابویعلی البیضاوی)

4..... عن الزهری قال تقبل الرايات السود من المشرق يقو دهم رجال كالبخت المجللة أصحاب شعور أنسابهم القرى وأسمائهم الكنى يفتحون مدينة دمشق ترفع عنهم الرحمة ثلاث ساعات. (رواه نعیم بن حماد فی الفتن عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، ج: ۱، ص: ۲۰۶)

ترجمہ: امام زہری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جنکی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کے مانند ہونگے بالوں والے ہونگے، انکے نسب دیہاتی ہونگے اور انکے نام کنیت (سے مشہور) ہونگے، وہ دمشق شہر کو فتح کریں گے تین گھنٹے رحمت ان سے دور رہے گی۔

نوٹ: اسکو نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کی سند سے روایت کیا ہے۔

افغانستان کی موجودہ صورت حال

اللہ تعالیٰ نے امریکہ کے مقابلے طالبان کو بڑی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ طاقت کے نشے میں چور امریکی بے سرو سامان طالبان ملاؤں کے سامنے اب بے بس نظر آ رہے ہیں۔ نورستان سے سرحدی چوکیاں خالی کر دی گئی ہیں۔

دوسری جانب پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ اس باری ہوئی جنگ کو جیتنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں موجود امریکی لابی، امریکیوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ پاکستانی فوج نے جس طرح سوات و قبائل میں کامیابی حاصل کی ہے اسی طرح افغانستان میں بھی امریکہ کو یہ جنگ جیت کر دے سکتی ہے۔ چنانچہ ایک طرف پاکستان میں بعض طالبان ذمہ داران کی گرفتاری اور دوسری جانب پاکستانی فوج کے سربراہ کو امریکہ بلا کر انتہائی اعزاز و اکرام سے نوازنا، مستقبل کی صورت حال کو واضح کر رہا ہے۔

امریکہ اپنے مسلمان نماد دوستوں کے ساتھ مل کر امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظہ اللہ کے مقابلے میں کچھ ایسے طالبان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے جو اسلامی امارت کے مشن سے دستبردار ہو کر جمہوری سیٹ اپ میں شامل ہو سکیں۔ اسکے لئے یقیناً بہت محنت ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ایسی باتوں سے ہوشیار تو ضرور رہنا چاہیے البتہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالبان قیادت کے اہم کمانڈر جہاد چھوڑ کر امریکی منصوبے پر راضی ہو جاتے ہیں تو کیا جہاد بند ہو جائے گا؟ کیا حق مخصوص ذمہ داران کے ساتھ خاص ہے کہ اگر یہ جہاد کریں گے تو جہاد حق ہے اور جہاد چھوڑ کر جمہوری نظام میں شامل ہو جائیں گے تو جمہوریت حق بن جائے گی؟

ایسا ہرگز نہیں ہے۔ افغانستان میں جو لوگ اسلامی نظام کی واپسی کے لئے لڑ رہے ہیں، وہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک فتح نہ مل جائے یا وہ شہادت کا جام پی کر اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں۔ اور جو حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے ساتھ جا ملیں گے وہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہ خود کو ہی نقصان پہنچائیں گے۔ جہاں تک فتح و شکست کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ کب اہل حق کو فتح ملے گی۔ لیکن جو بات ہمارے لئے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں حق والوں کا ساتھ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ فتح قریب ہے۔

اہل عدن (یمن)..... اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے

عن بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
: یخرج من عدن ابن اثنا عشر الفاینصرون اللہ ورسولہ ہم خیر من بینی و بینہم  
(مسند احمد بن حنبل) وقال الہیثمی رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی ورجالہما رجال

الصحيح غير منذر الالفطس وهو ثقة (مجمع الزوائد) وقال الباني رحمة الله عليه في "السلسلة الصحيحة" صحيح.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عدن ابین سے بارہ ہزار افراد نکلیں گے جو اللہ اور اسکے رسول کی مدد کریں گے۔ وہ میرے اور انکے مابین سب میں بہتر ہوں گے۔

نوٹ: علامہ پیشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسکے تمام راوی صحیح ہے البتہ منذر الالفطس ثقہ ہیں۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے "السلسلة الصحيحة" میں اس کو صحیح کہا ہے۔

فائدہ..... عدن ابین جنوبی یمن کا ساحلی شہر ہے۔ آج کل عدن (Aden) کے نام سے مشہور ہے۔ اہل یمن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔

افغانستان و عراق کے بعد امریکہ یمن میں بھی آپریشن کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھئے کہ ان جگہوں پر یہودی امریکی فوج کو بھیج رہے ہیں جن کے بارے میں احادیث میں یہ ذکر ہے کہ ان جگہوں سے حضرت مہدی کی حمایت میں مجاہدین آئیں گے۔





## عراق جنگ

عن ابی الزعراء قال ذكر الدجال عند عبد الله بن مسعود فقال يفترق الناس عند خروجه ثلاث فرق فرقة تتبعه (و فرقة تلحق باهلها منابت الشيخ) و فرقة تأخذ شرط هذا الفرات يقاتلهم و يقاتلونه حتى يقتلون بغربي الشام فيبعثون طليعة فيهم فرس أشقر أو أبلق فيقتلون فلا يرجع منهم أحد لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (متدرک علی الصحیحین، ج: ۴، ص: ۶۴۱)

ترجمہ: حضرت ابو زعراء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرمانے لگے کہ دجال کے وقت لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت اس کے ساتھ ہو جائے گی، (اور ایک جماعت گھاس اگنے کی جگہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی) اور ایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ جائے گی۔ دجال ان سے جنگ کرے گا اور یہ دجال سے جنگ کریں گے۔ (لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جائیں گے) یہاں تک کہ مغربی شام میں جنگ کریں گے۔ پھر (ریکی کے لئے) ایک دستہ بھیجیں گے جس میں چتکبرے یا بھورے رنگ کے گھوڑے ہوں گے، یہ (وہاں) جنگ کریں گے۔ چنانچہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔

نوٹ: یہ حدیث راقم نے ”تیسری جنگِ عظیم اور دجال“ میں نقل کی تھی۔ وہاں متن میں غلطی تھی جسکی وجہ سے ترجمہ بھی غلط کیا گیا تھا۔ اسکو یہاں متن و ترجمے میں ترمیم میں درست کیا گیا ہے۔ تمام حضرات اسکو درست فرمائیں۔

امریکی طریقہ کار اور چند عبرتیں

امریکہ جہاں بھی اپنی عسکری مہم کا آغاز کرتا ہے اس سے پہلے اس ملک میں ایسے طبقات کو تلاش کرتا ہے جو اسکے لئے کام کر سکیں۔ عام طور پر وہاں کی اقلیت انکے لئے زیادہ کارآمد اور بعض وجوہات کی بناء پر آسانی سے استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ چنانچہ ان طبقات کو بڑے بڑے فنڈ جاری کئے جاتے ہیں اور ان قوتوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ عراق میں صدام حسین کا تختہ الٹنے کے

لئے عراق کی اقلیت (روافض) کو مضبوط کیا گیا۔ امریکہ نے شیعہ سنی اختلاف کا خوب فائدہ اٹھایا اور اہل تشیع سے کچھ معاہدے کرنے کے بعد انکو مکمل طور پر اپنے لئے استعمال کیا۔ اہل تشیع عراق پر اپنے سیاسی اقتدار کی جنگ میں یہ بالکل بھول گئے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیکر کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ لیکن تاریخی تعصب اور اقتدار کا نشہ انسان کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ اسے کرسی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔

مجلس اعلیٰ برائے اسلامی انقلاب فی عراق المعروف تنظیم بدر

اسکو آیت اللہ محمد باقر حکیم نے ایران میں قائم کیا تھا۔ محمد باقر حکیم صدام حسین کی فوج میں تھا لیکن ۱۹۸۰ء کی عراق ایران جنگ میں عراق سے بھاگ کر ایران چلا گیا تھا۔ ایران میں محمد باقر حکیم ایرانی انٹیلی جنس ایجنسی کے تعاون سے ٹریننگ کیمپ چلا رہا تھا تاکہ عراق میں روافض کو منظم کیا جاسکے۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد امریکی فوج نے انکو ایک معاہدے کے تحت عراق میں داخل ہونے کی اجازت دیدی تھی۔ امریکہ نے انکو عراقی امن فوج میں ضم کر دیا۔ جہاں یہ حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ انکو وزارت داخلہ بھی مل گئی۔

وزارت داخلہ حاصل کرنے کے بعد انھوں نے ایک تنظیم بنائی جسکا کام سنی علماء کو قتل کرنا، ائمہ، مساجد، ڈاکٹر اور تاجر حضرات وغیرہ کو اغوا کرنا، عقوبت خانوں میں تشدد کر کے مارنا، پھر کسی دور دراز کے علاقے میں لاش پھینک کر چلے جانا۔ پولیس اور دیگر حکومتی شعبوں میں سنیوں کو مجاہدین کا حامی کہہ کر گرفتار کر لیا جاتا۔ ان سابق عراقی فوجی افسروں کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا جاتا جو عراق ایران جنگ میں پیش پیش رہے تھے۔

عراق سے سنیوں کا خاتمہ

یہ ایسا کڑوا سچ ہے جو اب ہمیں تسلیم کر ہی لینا چاہئے کہ یہودی اور دیگر اسلام دشمن قوتیں اہل سنت اور اہل تشیع کو الگ الگ حیثیت میں دیکھتی ہیں۔ یوں تو تمام تاریخ اسلام اس پر شاہد ہے لیکن عراق کے اندر جو کچھ امریکیوں نے کرایا اس نے ہر ایک کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ مکمل منصوبہ تھا جسکے تحت عراق کی سنی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جانا تھا۔ امریکہ کو اس میں ایران کی مکمل حمایت حاصل تھی چنانچہ ایران سے آیت اللہ محمد باقر حکیم کو اسکے مسلح رضا کاروں کے ساتھ عراق بھیجا گیا۔

اس منصوبے کے تحت سنی آبادی پر جہازوں، ہیلی کاپٹروں سے بمباری کر کے بستوں کو اجاڑ دیا گیا اور بیچ جانے والوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ بلیک واٹر کے ساتھ محمد باقر حکیم کے مسلح

غندوں کے ذریعے سنیوں کے مخلوں پر حملے کئے جاتے اور آبادی کی آبادیوں کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا جاتا کہ پیچھے رونے والے بھی باقی نہ بچتے۔ بغداد، فلوجہ، تلعفر، موصل، سہار، رامادی، اور بصرہ میں صحافیوں نے ایسا قتل عام دیکھا کہ غیر مسلم بھی اسکو برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ امریکی صحافی اسٹیفن نے روانض کے جرائم سے پردہ اٹھایا۔ اسکا یہ کالم نیویارک ٹائمز میں شائع ہوا۔ اس نے اپنے کالم میں عراق میں تعینات برطانوی اعلیٰ حکام پر الزام عائد کیا کہ انھوں نے شیعہ گروہوں کو عراقی پولیس میں داخل کیا ہے۔ اسکے کالم کے چار دن بعد اسکی لاش کہیں سڑک پر پڑی پائی گئی۔

سنیوں کا یہ قتل عام اس قدر بڑے پیمانے پر تھا کہ وہ لوگ بھی چیخ پڑے جو شیعہ سنی اختلاف پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہدیہ علماء اسلام کے ترجمان نے اسکو سنیوں کا قتل عام قرار دیا۔ حتیٰ کہ عراقی صدر جلال طالبانی اور کردستان صوبے کے صدر مسعود بارزانی نے اس وقت کے وزیر اعظم ابراہیم جعفری سے مطالبہ کیا کہ عرب سنیوں کے خلاف جرائم کو روکا جائے۔ ابو غریب جیل کے ظلم کی کچھ داستانیں آپ نے سن رکھی ہیں لیکن عراق سنی اگر محمد باقر حکیم کے لوگوں کے ہاتھ گرفتار ہو جاتا تو وہ تمنا کرتا کاش اسے امریکی لیجاتے۔

بلیک واٹرنے مختلف رافضی گروہوں کو کرائے پر لیا اور انکے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا۔ چونکہ انکو سنیوں کے ایک ایک گھر کی معلومات تھیں لہذا انھوں نے منظم انداز میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ ان دشمنان اسلام کی اخلاقی پستی دیکھنے، صرف فلوجہ شہر کے اندر ۱۴۹ سنی خواتین کی عزتیں مسجد میں لا کر تارتار کی گئیں۔ اس کے علاوہ مساجد، مدارس، سنیوں کے بڑے بڑے تجارتی مراکز اور فیکٹریاں سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جمعے کے دن نمازیوں سے بھری مسجدوں کی چھتیں بارود لگا کر نمازیوں کے اوپر گرا دی گئیں۔ عقوبت خانوں میں بند کر کے انکو ٹوٹے ہوئے شیشوں پر چلایا جاتا، ڈرل مشینوں سے جسموں میں سوراخ کئے جاتے۔

کیا یہ فرقہ وارانہ فسادات تھے

عام طور پر لوگ ایسی لڑائیوں کو فرقہ وارانہ فساد کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ عراق میں جو کچھ ہوا یہ فرقہ وارانہ فساد نہیں تھا بلکہ باقاعدہ جنگ تھی جو امریکی پیسے اور اسلحے کے ذریعے عراق کے سنیوں پر مسلط کر دی گئی تھی۔ منظم انداز میں انکا وجود مٹانے کے لئے لشکر کے لشکر سنی آبادیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ایک گروہ جو آپ کو دشمن سمجھتا ہے، مسلح ہو کر آپکا وجود ہی مٹا دینا چاہتا ہے لیکن آپ ہیں کہ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ فساد کی سازش ہے۔

## بلیک واٹران ایکشن

بلیک واٹر کے بارے میں بندہ اپنی کتاب ”برمودا تکون اور دجال“ میں بیان کر چکا ہے۔ یہاں اسکے طریقہ کار اور اہداف کے بارے میں بات کرینگے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بلیک واٹر ایک نئی فوج ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے ایک نئی فوج کی کیوں ضرورت پڑی؟ پھر ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی اجازت دینی والی قوت کونسی ہے؟ امریکی حکومت نے انکو امریکی فوج سے زیادہ اختیارات کس کے دباؤ میں آ کر دیئے؟ کیا ایرک پرنس ہی اصل مالک ہے یا پس پردہ کوئی خفیہ، لیکن انتہائی طاقتور شخص موجود ہے؟ آپ شاید سوچ رہے ہوں ڈک چینئی؟ ہرگز نہیں۔ ڈک چینئی صرف فرنٹ مین تھا۔ ڈورس کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔

وہ جو بھی ہو لیکن اتنا واضح ہے کہ اسکے سامنے امریکی قانون، آئین اور پینٹاگون یہ سب کوڑا کرکٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔

کہیں ایسا تو نہیں کہ بلیک واٹر کا قیام پہلا تجربہ ہو ایک ایسی فوج کا جو حکومتوں سے آزاد ”ایک فرد“ کی زیر کمان ہو، جو دنیا کے تمام قانون و قاعدوں سے بالاتر ہو کر صرف اپنے گریڈ ماسٹر کے احکامات کی پابند ہو۔

دوسری جانب پاکستان میں بلیک واٹر کو آنے کی اجازت دینا نئے عالمی منظر نامے کو اور واضح کر رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار جس تناظر میں عالمی سیاسی صورت حال کو دیکھ رہے ہیں اور تجزیہ کر رہے ہیں وہ شاید سچی ہے۔ اگر ہم تمام معاملات کا گہرائی سے مطالعہ کریں، تو ہر بڑے مسئلے کے پیچھے انتہائی خفیہ ہاتھ نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر عراق پر امریکی حملے کو سچی نظر سے دیکھیں تو ہماری نظر سابق صدر جارج ڈبلیو بوش پر جا کر رک جائے گی۔ اس کو مزید گہرائی سے دیکھیں گے تو ہمیں بوش کے پیچھے ڈک چینئی جیسی بااثر شخصیات کھڑی نظر آئیں گی جنہوں نے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں بوش سے زیادہ کردار ادا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ بوش کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن اس سے زیادہ مزید گہرائی میں جائیں تو ڈک چینئی

کے پیچھے راک فیلڈز نظر آئیں گے عراق کے خلاف اصل فتنہ گری انہی کی ہے۔ لیکن جب آپ راک فیلڈز، روتھ شیلڈ یا مختصر ایوں کہہ لیجئے تمام سرکردہ یہودی قوتوں کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ان سب کے پیچھے ”ایک فرد“ ہے جو ان سب سے طاقتور ہے، اور یہ تمام یہودی قوتیں اسکو اپنا بڑا مان کر چل رہی ہیں، ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ تاریخ یہود میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ خصوصاً یہودیوں کی اپنی صفوں میں، تجارت اور سیاست میں پیدا ہونے والے بحرانوں میں۔

چنانچہ بعض محققین یقین کی حد تک اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ”خفیہ فرد“ کا نادجال ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر ان سب کو چلا رہا ہے۔

یہ خفیہ ہاتھ پاکستان میں کئی مرتبہ حرکت میں آیا ہے۔ خصوصاً پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے لے کر اب تک۔ آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر امریکہ مخالف قوتیں (جو پاکستان کو امریکی جنگ سے باہر نکالنا چاہتی ہیں) کچھ متحرک ہوتی ہیں اور معاملات امریکی اور بھارتی لابی کی پکڑ سے باہر جانے لگتے ہیں تو فوراً کچھ نادیدہ قوتیں درمیان میں آکر سب پہلے جیسا کر دیتی ہیں، اور پھر سب کچھ امریکی مرضی کے مطابق ہونے لگتا ہے۔ ظاہراً مہرے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن وہ صرف مہرے ہی ہیں۔

### بلیک واٹر کا طریقہ کار

کسی بھی ملک میں اپنا ہدف متعین کرنے کے بعد بلیک واٹر اس ملک میں اپنے دشمن کے دشمن سے رابطہ کرتی ہے۔ انکو ہر طرح کی امداد دیکر اپنے دشمن کے خلاف انکو منظم کرتی ہے۔ دشمن کے تمام طبقات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ انکی آبادیاں کہاں کہاں زیادہ ہیں، تجارتی مراکز کہاں واقع ہیں، حکومتی اداروں میں انکے دشمن کن کن جگہوں پر ہیں، یہاں تک کہ گھروں کی معلومات کہ کس گھر میں کتنے افراد ہیں، حفاظت کے کیا انتظامات ہیں، اسلحہ ہے یا نہیں؟

پاکستان میں یہ تمام معلومات بلیک واٹر جمع کر چکے ہیں، جسکا سب سے بڑا ذریعہ مشرف کا قائم کردہ ”نادرا“ ہے۔ اسکے علاوہ بینکوں سے اکاؤنٹ کی تفصیل حاصل کی جا چکی ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور کے ایک بڑے بینک میں دن دہاڑے بلیک واٹر آئے اور مع نیجر کے تمام عملے کو ایک طرف کھڑے ہو جانے کا حکم دیا، انکے افراد بینک کے کمپیوٹر پر بیٹھے اور تمام ریکارڈ اپنے ساتھ کاپی کر کے لے گئے۔

یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پاکستان بھر میں ایسے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں پولیس والوں کو سڑک پر لٹا کر سب کے سامنے مارنا، ناکوں پر کھڑے فوجیوں کو گالیاں دینا، کسی گاڑی کے آگے نکل جانے کی صورت میں اسکوروک کر پٹائی کرنا، جام میں پھنس جانے پر گاڑی سے نکل کر اسلحہ سے عوام کو دہشت زدہ کرنا، بڑے بڑے کینیئرز کو کراچی سے لاہور اور لاہور سے بذریعہ موٹر وے اسلام آباد بغیر چیک کئے پہنچنا، جدید امریکی اسلحہ پنجاب، کراچی، گلگت اور سرحد کے مختلف شہروں میں اپنے دشمن کے دشمن طبقے کو تقسیم کرنا، وطن عزیز میں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ لیکن ”کہیں اوپر“ سے حکم یہ آیا ہے کہ اب میڈیا پر کوئی خبر نہیں لگنی چاہئے۔ وزیر داخلہ کا بیان اخبارات کی زینت بنا کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کے لئے پیہہ اور اسلحہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں اور تقسیم کس کو کیا گیا، یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔

پاکستان میں بلیک واٹر کے اہداف  
انکوہم درجات میں تقسیم کر سکتے ہیں:

- 1..... وہ علماء جو امریکہ کے خلاف جہاد کی کھلے عام دعوت دیتے ہیں۔
  - 2..... پاکستان میں موجود وہ طالبان اور مجاہدین جو براہ راست القاعدہ کے ساتھ منسلک ہیں۔  
یاد رہے کہ بلیک واٹر صرف پشاور شہر میں اب تک ایسے دس سے زیادہ مجاہدین کو گھر پے چھاپہ مار کر شہید کر چکے ہیں۔
  - 3..... وہ مجاہدین جو طالبان سے تعلق رکھتے ہیں اور انکے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔
  - 4..... وہ علماء حق جنکا تعلق اس ملتب فکر سے ہے جنہوں نے ہر دور میں غیر ملکی حملہ آوروں کے سامنے جھکنے کے بجائے انکے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جنکا شجرہ نسب شمالی کے مجاہدین سے جا کر ملتا ہے۔ اندیشہ ہے (اللہ کرے اندیشہ غلط ہو) کے اس طبقے کا قتل عام کیا جائیگا۔ خصوصاً کراچی میں۔
  - 5..... فوج اور خفیہ اداروں میں وہ افراد جو طالبان کو ابھی بھی تزویرانی گہرائی (Stretagic Depth) کے طور پر دیکھتے ہیں۔
  - 6..... وہ تاجر جو دینی جذبہ رکھتے ہیں۔
- انکے اہداف پڑھ کر پریشان نہ ہوئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دفاع آپ پر فرض کیا ہے، ان اسلام دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کیجئے۔ اور پاکستان کے ہر شہر کو انکا فلوچہ بنا دیجئے۔

## حفاظتی تدابیر

موجودہ حالات اور آئے دن کی ٹارگٹ کلنگ خود آنے والے حالات کی داستان بیان کر رہی ہے۔ خصوصاً کراچی میں رستہ چلتے بچے سے بھی آپ پوچھیں کہ کراچی میں کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی آپ کو صاف صاف بتا دیگا۔

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے  
اگر آپ اپنی عزت، دولت، گھر بار بیوی بچوں، ملک اور سب سے بڑھ کر اپنا دین بچانا چاہتے ہیں تو حملہ آور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے خود کو تیار کر لیجئے۔ اگر آپ اپنے گلی محلوں کو فلوچہ، تلغفر، بغداد اور مادی بننا نہیں دیکھنا چاہتے تو ابھی سے بیدار ہو جائیے۔ ورنہ یاد رکھیے لکھنے والے کا قلم ان مناظر کو لکھنے سے عاجز آ جائے گا۔ پاکستانی مسلمانوں کے خلاف کفار کی نفرت عراقی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ جی ہاں اہل بوسنیا سے بھی زیادہ۔

باتیں بہت ہیں لیکن یہ وقت عمل کا ہے.... اگر آپ کو اپنے ملک سے پیار ہے..... اپنے دین سے پیار ہے... اپنا کاروبار جو آپ نے دن رات کی محنت کر کے کھڑا کیا ہے..... بیوی بچے جو آپ کا کل سرمایہ حیات ہیں..... ان سب کے دفاع کے لئے آپ کو خود ہی اٹھنا ہوگا۔ ذیل میں چند آسان تجاویز ہیں جو انکے لئے ہیں جو جینا چاہتے ہیں، اور جو خودکشی کا فیصلہ کر چکے انکو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ آپکے تیاری کرنے سے اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں پر رعب بھی ڈالیں گے اور آپکی مدد بھی فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ تیاری نہیں کریں اور خاموشی سے گھروں میں دبکے بیٹھے رہیں گے تو آنے والے حالات ٹل نہیں جائیں گے۔

1..... سب سے پہلے گھر کے تمام مرد حضرات جہادی تربیت حاصل کریں۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب لوگ تمنا کریں گے کہ کاش! انکے گھر میں کوئی تربیت یافتہ مجاہد ہوتا۔  
2..... جس طرح کا اسلحہ اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں، اور گھر کے تمام افراد مع خواتین کے اسکو چلانا اور کھولنا جوڑنا سیکھ لیں۔

3..... گلی حملہ کی سطح پر لوگوں کو تیار کریں اور کسی بھی حملہ کی صورت میں اجتماعی لائحہ عمل بنائیں۔ ابتداء میں مشکلات ہونگی لیکن محنت و لگن ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ مشکل حالات میں افراتفری کے بجائے صبر و سکون کے ساتھ حالات سے نمٹنا جائے۔

4..... گھر کے تمام افراد کو بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت ڈلوائیں۔

5..... ایسے علاقے میں رہائش نہ رکھیں جہاں دیندار طبقے کے دشمن رہتے ہوں۔ نیز ان علاقوں

میں بھی نہ رہیں جہاں دشمن آپ کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔

6..... گھر بیلو اخراجات کم کریں اور پیسہ جمع کر کے اسلحہ خریدیں۔

7..... اپنے اوپر کسی بھی حملے کی صورت میں مزاحمت کا عزم کر لیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں پر عیب طاری کر دیں گے اور آپ کے لئے بیچ نکلنے کے راستے آسان فرما دیں گے۔

8..... گھر بیلو ساز و سامان کم رکھیں، جتنے ہلکے ہو گئے نقل و حرکت اتنی ہی آسان ہوگی۔ اسلحہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ دباؤ میں آنے کی صورت میں رہائش تبدیل کر دیں۔

9..... گھر میں غذائی مواد زیادہ تعداد میں جمع کر کے رکھیں۔ خصوصاً بھنے ہوئے چنے، کھجوریں وغیرہ۔

10..... دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنی مجبوری نہ بنائیں۔ مثلاً لذیذ کھانے، ایئر کنڈیشنڈ، آرام پسندی وغیرہ۔ صرف اور صرف اپنا دین بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو خالص کر لیں۔ اور انہی کی ذات سے گڑگڑا کر عافیت و استقامت مانگتے رہیں۔

کیا واقعی ایسا وقت آنے والا ہے

اگر ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں لگن ہوں اور اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہو جائیں، اپنے محلے پڑوس میں لہراتے ہوئے اسلحہ سے آنکھیں بند کر لیں، اور اپنے خلاف زہر اگلتے نعروں سے کان بند کر لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہمیں یوں ہی لگے گا کہ یہ سب باتیں مبالغہ آرائی اور لوگوں کو بلا وجہ ڈرانے کے لئے کی جا رہی ہیں۔ یہاں ہر طرف امن و امان ہے کسی کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں۔ نہ یہاں امریکہ آئے گا نہ بھارت حملے کی جرأت کریگا۔ نہ بلیک وائر کو اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان جیسے ایٹمی ملک میں یہ سب کر سکیں۔ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آخری درجے کی غفلت ہے۔ اور غفلت کا دوسرا نام تباہی ہے۔

عافلوں کا انجام

اس طبقہ کا انجام اگر دیکھنا ہو تو آئیے تاریخ کے صفحات الٹیں:

یہ ساتویں صدی ہجری (تیسویں صدی عیسوی) کا بغداد ہے..... خلافت بنو عباسیہ کا دار الخلافہ بغداد..... شہر بغداد، دنیا کے حسین ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے..... دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ شہر کے گلی کو چوں میں موجود ہے..... بازار کی رونقیں ایسی کہ اہل دنیا کے دل اسکی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں..... تفریح گاہیں ہیں کہ لوگوں کا اثر دھام ہے..... مدارس و خانقاہیں



شائقین علم سے کچھ کچھ بھری ہوئی..... تمام عالم اسلام کا مرکز بغداد..... دیکھنے والے کہہ سکتے تھے کہ اسکے شباب پر کبھی زوال نہیں آئے گا.....

بغداد کا ہر طبقہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھا، حکمران محلات کی دنیا میں مدہوش..... تاجر بازاروں کے اسیر..... اہل علم علمی مویشگانوں کا شوق پالے، سب سوائے سوائے چند کے..... بلکہ خود فریبی کے نشے میں دھت..... خطرات سے آنکھیں بند کئے بچی کھچی گنتی کی سانسیں پوری کر رہے تھے..... اس وقت..... جب خطرات فصول بغداد کے باہر پڑاؤ ڈال چکے تھے..... ہلاکو خان لشکر جرار لے کر بغداد کا محاصرہ کر چکا تھا لیکن عوام و خواص کی حالت جوں کی توں برقرار تھی..... ایسا بھی نہ تھا کہ یہ آفت اچانک آگئی ہو..... بلکہ فطرت کے اصول کے مطابق بہت پہلے سے انکو بیدار کرنے کا سامان ہو چکا تھا..... ان سے پہلے تاتاری لشکر، سلطنت خوارزم کو تہہ بالا کر کے ملیا میٹ کر چکا تھا..... لیکن خواب و خیال کی دنیا میں رہنے والے خوش تھے کہ ہماری باری نہیں آئے گی..... بغداد کی باری کبھی نہیں آئے گی..... انکے نفس نے اس دعوے پر دلیلیں بھی گرھ دی ہوگی..... کہ یہ دارالخلافہ ہے..... یہ عالم اسلام کا مرکز ہے..... یہاں علم کے پہاڑ بستے ہیں..... ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں..... بڑی بڑی خانقاہیں ہیں۔

لیکن خواب تو خواب ہی تھے سو چکنا چور ہوئے..... تاتاری بغداد کا محاصرہ کر چکے تھے..... اور غافل تھے کہ نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے تھے.....

۶۵۶ ہجری (۱۲۵۸ء) محرم کا آخری عشرہ، تاتاری بغداد میں داخل ہوئے..... اور ایسا قتل عام کیا کہ مورخ کا قلم اس ظلم کو زیرِ قسطاس لانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا..... چالیس دن تک مسلمانوں کو قتل عام ہوتا رہا، نہ عورتیں بچیں نہ بچے..... نہ بوڑھوں پر ترس کھایا گیا نہ بیماروں پر..... نہ مساجد میں امان ملی نہ خانقاہیں محفوظ رہیں..... صرف یہود و نصاریٰ کو چھوڑا گیا اور رافضیوں کو۔ جس نے وزیر ابن علقمی کے گھر میں پناہ لے لی اسکو امان مل گئی۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”مقتولین کی تعداد کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں آٹھ لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، بعض نے کہا دس لاکھ اور بعض نے انکی تعداد بیس لاکھ بتائی ہے۔ چالیس دن تک تاتاری قتل و غارتگری کرتے رہے، چالیس دن کے بعد بغداد کی حالت ایسی تھی جیسے چھتیس زمین پر آگ لگی ہوں، شہر ویران تھا..... لاشوں کے ٹیلے تھے... بارش نے شکلوں کو اور خراب کر دیا تھا، جسکی وجہ سے سارا شہر بدبو سے متعفن تھا..... بچے کچھے لوگ متعدی امراض میں مبتلاء ہو گئے..... ہوائیں چلیں تو ملکِ شام تک اس تباہی کے

اثرات لے کر گئیں..... وہاں بھی بیماریاں پھوٹ پڑیں..... وباء پھیلی..... طاعون پھوٹ پڑا..... بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں“۔ (البدایہ والنہایہ)  
یہ وہی بغداد تھا..... رونقیں..... جگمگا نہیں..... ہنگامے..... رعنائیاں..... جلوتیں اور خلوتیں..... لیکن اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔

بغداد کی تباہی اور وزیر ابن علقمی کا گھناؤنا کردار

ابن علقمی خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر تھا۔ یہ عالی رافضی تھا جسکے دل میں سنیوں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے:  
”اسکا مقصد اہل سنت والجماعت کی خلافت کو ختم کر کے، فاطمیوں (شیعوں) کی خلافت قائم کرنا تھا، وہ بغداد سے تمام سنیوں کو مٹانے کا خواہشمند تھا، مساجد و مدارس کو تباہ، اور خلیفہ اور اسکے خاندان کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔“ (البدایہ والنہایہ)

چنانچہ اس نے ملا نصیر الدین طوسی (متوفی ۶۷۲ھ مطابق ۱۲۷۳ء)، جو کہ ہلاکو خان کا مشیر خاص اور عالی رافضی تھا، کے ذریعے چنگیز خان و ہلاکو سے رابطہ استوار کیا۔ اور بغداد پر حملے کے لئے تاتاریوں کو اکساتا رہا۔ دھیرے دھیرے خلافت کو کمزور کرنے لگا۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد خلیفہ مستعصم (مستعصم کے والد) کے آخری ایام میں دس لاکھ تھی۔ ابن علقمی نے اسکی تعداد کم کرتے کرتے دس ہزار کر دی۔ خلافت کے تمام راز تاتاریوں کو باقاعدگی سے دیتا رہا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا تو اسنے خلیفہ مستعصم کو ہلاکو کے پاس جانے پر زور ڈالا۔ چنانچہ خلیفہ سات سو سواروں کو ساتھ لیکر ہلاکو کے پاس روانہ ہوا، جن میں بغداد کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، وزراء اور معتمدین شہر شامل تھے۔ جبکہ خود ابن علقمی ان سب سے پہلے مع خاندان کے ہلاکو خان کی پناہ میں پہنچ چکا تھا۔

خلیفہ اور ہلاکو میں مذاکرات ہوئے۔ ایک مرحلے پر ہلاکو مان گیا اور بعض شرائط کے ساتھ واپس جانے پر راضی ہو گیا۔ لیکن عین اس وقت ابن علقمی اور نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان کے کان بھرے اور مذاکرات ناکام کر دیئے۔ (آج بھی ابن علقمی کی اولاد یہی کام کر رہی ہے)  
خلیفہ وقت گھوڑوں کے سموں تلے

ابن علقمی نے ہلاکو کو مجبور کیا کہ وہ خلیفہ کو قتل کر دے۔ لیکن ہلاکو خان خلیفہ کا خون بہانے سے ڈر رہا تھا۔ اسکا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے آسمان سے اس پر آفت نازل ہو جائے گی۔ اسکا حل

ابن علقمی نے یہ بتایا کہ اسکو چٹائی میں پیٹ کر اسکے اوپر گھوڑے دوڑادیئے جائیں۔ اس طرح خلیفہ کا خون زمین پر نہیں گرے گا اور ہلاک و آسانی آفت سے بچ جائے گا۔

خلیفہ کے ساتھ ان تمام علماء و فقہاء کے بارے میں بھی ابن علقمی نے قتل کا مشورہ دیا جو خلیفہ کے ساتھ آئے تھے۔ اس غدار نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ خلیفہ کے محل سے عورتوں اور بچوں کو پکڑواتا اور ایک ایک کر کے انکو بکریوں کی طرح ذبح کراتا۔ خلیفہ کے تمام رشتہ داروں کو اسی طرح ذبح کیا گیا۔ اسکی خواہش تھی کہ بغداد میں سینوں کے مدارس کی جگہ شیعوں کے مدارس قائم ہوں، مساجد کی جگہ امام باڑے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکو دنیا میں ہی ذلیل کیا اور نامراد مر۔ یہ تاریخ پڑھ کر، اہل بغداد کی سستی، کوتاہ اندیشی اور خوش فہمی ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ دشمن کو بغداد کے دروازے پر دیکھ کر بھی کیونکر وہ لوگ دشمن سے جہاد کے لئے تیار نہیں ہوئے؟

اسی طرح آپ نے مسلم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہوگا اور شاید آج تک مغل حکمرانوں کو کوستے ہونگے کہ انکی ناپاہلی نے اتنی بڑی مسلم سلطنت کو آنکھوں دیکھتے انگریزوں کی غلامی میں دیدیا۔ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت کی مسلم عوام کو بھی سخت سست کہتے ہونگے کہ دشمن کو سر پر آتا دیکھ کر حکمرانوں سے بغاوت کر کے خود دشمن سے مقابلے کو کیوں نہ نکلے؟ آپکو کیسا لگے گا اگر مورخ ان مذکورہ اقوام میں آپ کا بھی اضافہ کر دے۔ اور لکھ دے کہ مسلمانان پاکستان کیسے تھے جنکے سامنے انکا دشمن انکے شہروں پر قبضے کرتا رہا اور وہ سب کچھ آرام سے برداشت کرتے رہے۔ کیسے دانشور اور اہل علم تھے کہ دشمن سے تیاری کے بجائے اپنی فوج کو ان قوتوں کے خلاف لڑنے پر لگا دیا جو انکے دشمن سے ٹکرا رہے تھے۔

آج کے ابن علقمی

آج ایک نہیں کتنے ابن علقمی ہیں جو ابن علقمی کے خواب کو تعبیر دینے کے لئے دن رات ایک کیئے ہوئے ہیں، کتنے نصیر الدین طوسی ہیں جو ہلاکوائے وقت کے مشیر بنے بیٹھے ہیں، راز پہنچنے والے پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک ہیں..... پیغامات اور خصوصی پیغامات لیکر خصوصی ایچی، کبھی تہران جاتے ہیں تو کبھی لندن..... نادار سے ڈیٹا حاصل کر کے نقشوں پر سرخ نشانات لگائے جارہے ہیں..... دکانوں..... تجارتی مراکز..... فیکٹریوں اور گلی محلوں کی تفصیل تیار ہو چکی ہے..... کہاں دوست ہیں کہاں دشمن..... کہاں پر امن شہری ہیں اور کہاں دہشت گردوں کے ہم

مسلك..... گن شپ ہیلی کا پڑ کہاں کے لئے موزوں ہیں اور نئے ایف 16 کہاں کے لئے بہتر رہیں گے.....

رات جب گہری ہونے لگتی ہے اور اندھیرا ہر چیز کو ڈھا پھینے لگتا ہے..... خود فریبی کے شکار سراہوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک ہار کر چور..... اوندھے منہ، غافل پڑے ہوتے ہیں..... ایسے میں آج کے ابنِ علقمی آج کے ہلا کو کو کیا مشورے دیتے ہیں..... کیا راز بیچتے ہیں اور کب آنے کی دعوت دیتے ہیں.....

دیکھئے اگر آنکھیں ہیں..... سنئے اگر سماعت نے ساتھ نہیں چھوڑا..... محسوس کیجئے اگر حواس باقی ہیں..... یہ تقسیم ہوتا اسلحہ..... منتخب وزارتیں..... مخصوص مدت کے لئے کھلنے والے اسلحہ لائسنس..... اداروں میں اتھل پھل..... نظریاتی پاکستانیوں کو دہشت گردوں کا حامی اور ’پرو طالبان‘، کہہ کر سائڈ لگا دیا جانا..... اس آگ کی تپش محسوس کیجئے جس نے ابھی صرف بولٹن مارکیٹ کو خاکستر کیا ہے..... یاد کیجئے ان منظم گروہوں کو جو کراچی میں فیکٹریوں کی فیٹریاں اکھاڑ کر لے گئے..... سنئے ان چیخوں کو جو ابھی فرداً فرداً اٹھتی ہیں اور پھر ٹریفک کے شور میں کہیں گم ہو جاتی ہیں..... بھول گئے تو فوجہ کو دوبارہ پڑھ لیجئے.....

لیکن یہ سب انکے لئے ہے جنکو اللہ نے آنکھیں دی ہیں جو دیکھتی ہیں..... کان دیئے ہیں جنکی قوت سماعت ختم نہیں ہوئی..... اور احساس ہے کہ ابھی مردہ نہیں ہوا..... وہ جانتے ہیں کہ حالات ہمارے بیان سے بھی زیادہ نازک اور خطرناک ہیں۔ نہ اسلحہ کسی سے پوشیدہ ہے نہ اہل حق کے بارے میں تفصیلی معلومات اکٹھا کیا جانا ڈھکی چھپی بات ہے۔ بلیک واٹر کے ساتھ کون ہیں، اور برطانیہ امریکہ کے ساتھ کس کی خفیہ گٹ جوڑ ہے سب کچھ سامنے ہے۔ لیکن آنکھیں موند کر اپنی ہی موجِ مستی میں کھو جائیں تو کچھ بھی نہیں..... یہ سب جذباتی باتیں ہیں..... لوگوں کو ڈرانے کے لئے..... مبالغہ آرائی ہے..... یہاں کچھ نہیں ہونے والا.....

### دوست و دشمن کو پہچانیئے

پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ پاکستان کا دفاع وہی طبقہ کر سکتا ہے جسکو آج امریکہ و بھارت کے کہنے پر دشمن اور غدار ان وطن کی صف میں شمار کیا جانے لگا ہے۔ جہادِ افغانستان سے لیکر طالبان تک اور جہادِ کشمیر کے آغاز سے لے کر اب تک، کون سا ملتپ فکر ہے جو اسلام کے نام پر پاکستان کے دفاع کے لئے مسلسل قربانیاں دیتا آ رہا ہے۔ مشرف نے ہر

میدان میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس فکری میدان میں بھی جہاں اس نے ان طبقات کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے جتنا کہ کوئی نظریہ ہے نہ نصب العین۔ جہاں سے پیسہ مل جائے اسی کے نعرے اسی کے حق میں ریلیاں۔

مستقبل قریب بھی اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ بھارتی و امریکی یلغار کے سامنے، سرحدو قبائل، آزاد کشمیر و گلگت، سیالکوٹ تا بہاولنگر، بہاولنگر تا کراچی، مسلمانان پاکستان کی حفاظت کے لئے کون اہل و فاقربانی دینگے۔

لیکن عقلمندی یہی ہے اس وقت کے آنے سے پہلے دوست و دشمن کی پہچان کیجئے، اتنا نہ گریئے کہ کل نظریں ملانے کا حوصلہ بھی نہ رہے۔ میڈیا میں موجود بھارتی و یہودی لابی نے اگرچہ لوگوں کو اندھا و بہرہ کر دیا ہے۔ لیکن آپ حقیقت جانتے ہیں کہ بھارت سے پیسہ کس کو مل رہا ہے، را (RAW) اور سی بی آئی کے خفیہ افسران کراچی و لاہور میں کس کے مہمان بنتے ہیں، دبئی و لندن میں کس کے بچوں کی فیسیں اور اہل خانہ کی شاپنگ کے خرچے وہاں موجود بھارتی سفارت خانہ برداشت کرتا ہے، صرف اس بات کے عوض کہ ان غداروں نے اپنی فوج کا رخ بھارت سے موڑ کر پاکستان کے نظریاتی محافظوں کی جانب پھیر دیا ہے، اور بھارت سے دوستی کی پیٹنگیں بڑھانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔

آپ جانتے ہیں جن کو آپ بھارتی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، انکے دلوں میں بھارت کی نفرت اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ جہاد چھوڑ کر گھر میں بیٹھنا گوارا کر لیں گے، بھوک سے تڑپ تڑپ کا جان دیدیں گے۔ لیکن پاکستان کے خلاف بھارت سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ انکے لئے ناممکنات میں سے ہے۔ ممکن ہے بھارتی ایجنسیوں نے ایسی کوششیں کی ہوں، لیکن بھارت کو اس کا عملی جواب افغانستان میں دیدیا جاتا ہے۔ افغانستان میں بھارتی فوج اور اسکے مفادات پر جو ضربیں لگتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی دیوانے ہیں جنکی رگ رگ میں بھارت کی نفرت و دشمنی بھری ہوئی ہے۔ بھارت کے لئے یہی انکا عملی جواب ہوتا ہے۔

یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہر باخبر پاکستانی جانتا ہے، لیکن اس اندھے، بہرے اور گونگے فتنے نے سب کو ہپناٹا مز (مسحور) کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مجاہدین کشمیر کے بارے میں بھی وہی نظریہ بنایا جا رہا ہے جو بھارتی لابی چاہتی ہے۔ دشمن بھارت ہے، فوج کو اس طرف واپس لانا ہوگا۔ بھارت کا ہاتھ ہمارے گلے تک پہنچ چکا ہے، اگر دیر کی تو برہمن کی انگلیاں شہہ رگ پے سخت ہوتی چلی جائیں گی، اور پاکستان میں بھارت کے نمک خوار یہی تاثر دیتے رہیں گے کہ پنڈت جی

ہمارا گلہ نہیں دبا رہے بلکہ سارنگی و گٹھار پے انگلیاں تھر تھرا رہے ہیں تاکہ امن کی فضاؤں میں سریلے سرگم اور مدھر موسیقی کی لہریں بکھر جائیں۔

پاکستان میں موجود اس طبقے کی یہ دیرینہ خواہش رہی ہے کہ سرحدی لیکریں حرف غلط کی طرح مٹا کر مسلمانانِ پاکستان کو کبھی لنگا جمنی تہذیب میں ایک غوطہ لگوا دیا جائے تاکہ بھارت کی طرح یہاں کا چپہ چپہ، قریہ قریہ ”بندے ماترم“ کے نعروں سے گونجنے لگے۔

امریکہ و بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستانی فوج قبائل میں الجھی رہی جبکہ پاکستان کے لئے ضروری ہے کہ وہ فوج کو قبائل سے نکال کر مشرقی سرحد پر لگائے۔ میڈیا کے شور شرابے کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ میڈیا ہی کی شرانگیزی کی وجہ سے آج پاکستانی فوج قبائل میں الجھی ہوئی ہے۔ میڈیا قبائل میں حالات کو سنگین بنا کر پیش کرتا ہے گویا طالباں تھوڑی دیر میں اسلام آباد پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ یہ ہر قیمت پر یہ چاہتے ہیں کہ فوج قبائل میں ہی پھنسی رہے تاکہ بھارت و امریکہ کے لئے پاکستان کو ترنوالہ بنانے میں آسانی رہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو صحیح معنوں میں پاکستان کا ہمدرد ہے وہ اس بات کی حمایت نہیں کرے گا کہ فوج اپنے ہی لوگوں سے الجھی رہے۔ جتنے لوگ اس آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جو کل تک پاک فوج کے وجود تک کو مٹانے کی باتیں کرتے تھے۔ اب انکو اپنی مراد پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انکے دودیرینہ دشمن، مجاہدین اور فوج ایک دوسرے کے خلاف برسرا پیکار ہیں۔ ہر دو صورتوں میں انھیں خوشی ہی خوشی مل رہی ہے۔

جہاں تک فوج کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلیوں کا تعلق ہے، تو جان لیجئے یہ فوج کی حمایت میں نہیں بلکہ یہ ریلیاں اس خوشی میں ہیں کہ انکے خوابوں کو تعبیر ملی ہے کہ فوج کو اس طبقے کے ساتھ لڑا دیا گیا ہے۔ یہ ریلیاں انکے دلوں میں چھپی اسی خوشی کا اظہار ہیں۔ آپریشن کی حمایت کرنے والے کچھ وہ ہیں جنکو براہ راست بھارتی لابی بڑے بڑے فنڈ جاری کر رہی ہے۔ امریکہ و برطانیہ کے دورے، اسلام آباد اور دیگر بڑے شہروں میں پلاٹ، ماہانہ وظائف، حکومتی خرچ پز فائیو اسٹار ہوٹلوں میں علماء مشائخ کا نفرنسیں، یہ سب ایک ہی آواز بول رہے ہیں جس سے امریکہ خوش ہو جائے اور پاکستان کے وجود پر زخم در زخم لگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو میڈیا سامنے لا رہا ہے جو امریکہ و بھارت کی خواہش پوری کرنے میں پیش پیش ہیں۔ جبکہ اس طبقے کی آواز کو دبا دیا گیا میڈیا سے ہی انکو غائب کر دیا گیا جو واقعی پاکستان کے ہمدرد ہیں۔

اللہ کے قانونِ فطرت کے راستے میں نہ آئیے۔ اگر شہد اکا رب مجاہدین ہی کے ہاتھوں

بھارت کو فتح کرانے کا فیصلہ فرما چکے ہیں تو آپ انکا راستہ نہیں روک سکتے۔ اگر روکنا ہے تو اسلام آباد کو راجی میں بیٹھی اس بھارتی لابی کو لگام ڈالنے جس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچایا ہے کہ بھارت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہی غداروں کی بدولت قوم پانی کے قطرے قطرے کی محتاج ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ پانی کا مسئلہ پاکستان کی بقا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بقا کی خاطر ان لوگوں کے لشکر بنائیے جو قبائل میں آپریشن کا مطالبہ کرتے ہیں، انکو مقبوضہ کشمیر بھیجئے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اس ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔

پاکستانی کون ہیں؟

اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کلمہ کے نام پے وجود میں آیا تو پھر اس پاکستان کو آپ سرحدوں میں کیوں محدود کرتے ہیں۔ جب پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا تو یہ ہر اس مسلمان کا ملک ہے جو کلمے کے لئے جیتا اور کلمے کے لئے مرتا ہے۔ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہوا ہو۔ ہر وہ مسلمان پاکستانی ہے جسکی زندگی کا مقصد اس کلمے کی سر بلندی کے لئے کلمے کے دشمنوں سے لڑنا ہے۔ خواہ وہ عرب میں پیدا ہوا یا افریقہ میں.... اس نے دہلی میں آنکھیں کھولی ہوں یا سرینگر میں۔ جبکہ وہ غداران ملت کیونکر پاکستانی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کو برہمن کی غلامی میں دینے کے آرزو مند ہیں.... جو اس کلمے کی بالادستی کے بجائے اس خطے میں ہندو کی بالادستی قبول کر لینے کی دعوت دے رہے ہیں، جو کھلی آنکھوں قوم کو اجتماعی خودکشی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔

ہندوستانی مسلمان کس کے ساتھ جہاد کریں گے؟

اب جبکہ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد انگڑائیاں لے رہا ہے۔ اپنی کھوئی ہوئی عظمت، رفتہ واپس لانے کے لئے نوجوانوں میں احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں مجاہدین باطل قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ایک بڑی تعداد ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک اس انداز میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکے جیسا کہ ہونا چاہئے تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکا سامنا دنیا کی مکار ترین قوم سے ہے جس نے اپنے مکروہ چہرے پر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو جہاد کے لئے تیار کرنا چاہئے۔ غلامی میں رہتے رہتے

کہیں برہمن کی غلامی کا احساس ہی ختم نہ ہو جائے۔

بہت آسان سا سوال اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں سے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کی طرح آپ بھی امام مہدی کے منتظر ہو گئے، اگر امام مہدی تشریف لے آئیں تو آپ حضرات کیا کریں گے؟ آپ وطن کا ساتھ دینگے یا اسلام کا؟ امام مہدی کے ساتھ مل کر بھارتی فوج کا مقابلہ کریں گے یا ”حکمت و مصلحت“ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے؟

اگر امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے تو یہ حکم جہاد اس وقت بھی ہے۔ اور فرض عین ہے۔ لہذا آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہندوؤں کے خلاف جہاد میں شرکت کریں۔ مسلمانان ہند کو اپنی آنے والی نسلوں کو مسلمان بنائے رکھنے کے لئے ہندوؤں سے آزادی حاصل کرنی ہی ہوگی۔ ورنہ دھیرے دھیرے ہندو کا زہر بچے بچے کی شریانوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہوگا۔ اردو زبان سے مسلمانوں کا رشتہ کاٹ دینے کے بعد انکا اپنے ماضی سے کتنا تعلق رہ جائے گا اسکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آپ اپنے منہ سے جتنے چاہیں دعوے کرتے رہیں ”آپ کو ہندوستان میں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے اور آپکو مساویانہ حقوق دئے گئے ہیں“، لیکن ہندوستان سے باہر آپکی حالت زار پر دنیا افسوس کرتی ہے۔ آپکی پسماندگی کے بارے میں چھپنے والی اکثر رپورٹیں پڑھ کر تو یوں لگتا ہے گویا آپ کو شور بنادیا گیا ہے۔

عالم اسلام کروٹ لے چکا ہے، جہاد کے میدان گرم ہیں، نوجوان سچ دھج کے حوروں کی جانب دوڑے چلے جاتے ہیں..... مائیں جواں بیٹیوں کو اللہ کے نام پر قربان کر رہی ہیں..... شجاعت و بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے جس پر امت بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان جہاد میں شریک ہونے کے لئے ارض جہاد ارض افغان کا رخ کئے جا رہے ہیں لیکن آپ کہاں ہیں؟

برہمن کی عیاری نے یادداشت پر شاید ایسا وار کیا ہے کہ اب جامع مسجد دہلی اور لال قلعے کو دیکھ کر بھی اپنی عظمت رفتہ یاد نہیں آتی..... بابر کی مسجد کے بعد اتنی مساجد شہید ہونے کے باوجود بھی سومنات کو توڑنا ہی بھول بیٹھے..... جس قوم کی عورتوں کو آپ نے عزت دی اور عورت کا مقام عطا کیا آج وہی قوم تمہاری عزتوں کو بھرے بازاروں میں نیلام کرتی پھرتی ہے..... تمہاری کمزوری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پہلے دنیا سے چھپ چھپا کر یہ ظلم کرتے تھے لیکن اب خود ساری دنیا کو دکھاتے ہیں..... تمہاری بے بسی کی ویڈیو بنا کر عالمی میڈیا کو دیتے ہیں.....



غلامی اتنی بھی کیا کہ آقا نے مسجد کی تعمیر پر پابندی نہیں لگائی لیکن جب چاہا مساجد میں سور پھینک کر چلے گئے..... دو مسجدوں کی اجازت میں اتنے گن کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے مسائل ہی بھول بیٹھے۔

آج آپ ہندوستان کو دارالحرب نہیں مانتے جبکہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اس وقت دارالحرب ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا جب ابھی دہلی کی حکومت پر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ عدالتی نظام قاضیوں کے ہاتھ میں تھا، بظاہر ہر طرح کی مذہبی آزادی تھی، عیدین، جمعہ اور اذان پر کوئی پابندی نہ تھی۔ جو جو بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تحریر فرمائیں انکو پڑھیے اور ہندوستان میں ہندوؤں کے مظالم دیکھئے۔

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

”یہاں رؤساء نصاریٰ (عیسائی افسران) کا حکم بلا غداغدا اور بے دھڑک جاری ہے اور انکا حکم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک داری، انتظامی رعیت، خراج، باج، عشر و مالگذاری، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں کے انتظامی معاملات، مقدمات کا تصفیہ جرائم کی سزاؤں وغیرہ (یعنی سول فوج پولیس دیوانی اور فوجداری معاملات کسٹم اور ڈیوٹی وغیرہ) میں یہ لوگ بطور خودحاکم اور مختار کل ہیں۔ ہندوستانیوں (مسلمانوں) کا انکے بارے میں کوئی دخل نہیں۔ بے شک نماز جمعہ، عیدین، اذان اور ذبیحہ گاو جیسے اسلام کے چند احکام میں وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے لیکن جو چیز ان سب کی جڑ اور حریت کی بنیاد ہے (یعنی حاکمیت اعلیٰ Command and Control) وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں، عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے۔ انتہاء یہ ہے کہ کوئی مسلمان یا ہندوانکے پاسپورٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اسکے اطراف و جوانب میں نہیں آسکتا۔ عام مسافروں یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنا پر نہیں بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے۔ اسکے بالمقابل خاص خاص ممتاز اور نمایاں حضرات مثلاً شجاع الملک اور ولایتی بیگم انکی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک انہی کی عملداری ہے۔ بے شک کچھ دائیں بائیں مثلاً حیدرآباد لکھنؤ رامپور میں چونکہ وہاں کے فرما رواؤں نے اطاعت قبول کر لی ہے براہ راست نصاریٰ کے احکامات جاری نہیں ہوتے (مگر اس سے پورے ملک کے دارالحرب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا) (علماء ہند کا شاندار ماضی)

آج ہندوستان میں حکم کس کا چلتا ہے، مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا؟ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کو اب تک سیکڑوں بار پامال کیا جا چکا ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عملی اقدامات نے دشمنانِ اسلام کو آگ بگولہ کر دیا، دودھ میں چھپکلی اٹا کر دودھ پلا دیا گیا جسکے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جاتی رہی اور برص لاحق ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مح خواتین خانہ کے دہلی بدر کر دیا گیا، عورتوں تک کو سواری پر سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ مرازمظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ سے محبت کی پاداش میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔

شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دارالہرب کا فتویٰ صرف کاغذی کاروائی نہ تھی بلکہ اس پر عمل درآمد کے لئے مکمل جنگ کا منصوبہ بنائے پاس تھا۔ جو کچھ نکلنے لگا اس کے لئے بہت تیزی کے ساتھ عملی اقدامات کئے گئے، شہر شہر جا کر لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا، جو جہاد پر جانے کیلئے تیار ہوئے انکی جہادی تربیت کی گئی، ہجرت کے لئے مسلمانوں کو تیار کیا گیا، جہاد کے مصارف کے لئے مالی انتظامات کئے، دیگر ممالک سے تعلقات نیز باضابطہ جنگ کے آغاز کے لئے صوبہ سرحد کا انتخاب، اور وہاں تک پیچھے مرکز سے رابطے کا انتظام، رسد ملک کی فراہمی غرض وہ تمام اقدامات کئے گئے جو جنگ کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ اسکے لئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ امیر مجاہدین اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ انکے مشیر خاص متعین ہوئے۔

پھر دنیا نے دیکھا کہ چٹانوں پر بیٹھنے والے توپ و تفنگ اٹھائے اپنے علم کی لاج رکھنے کے لئے گھربار، بیوی بچوں، بڑے بڑے دینی حلقوں کو خیر باد کہہ کر گھر سے ہزاروں میل دور صوبہ سرحد کے پہاڑوں میں بسیرا کر رہے تھے۔ قرآن و حدیث کا درس چھوڑ کر آج قرآن و حدیث کے احکامات کو بچانے کے لئے یہ سب نکل کھڑے ہوئے تھے، کیا شیخ الحدیث اور کیا شیخ التفسیر کیا قطب اور کیا ابدال سارے کے سارے اللہ کے منشا کو پورا کرنے کی خاطر گردوغبار میں اٹھے، کچھڑ میں لٹ پت ہوتے، روکھے سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کرتے، فاقے برداشت کرتے ملامت کرنے والوں کی ملامت سنتے طعنہ زنوں کی طعنہ زنی سہتے، حکمتِ عملی اور مصلحت پسندی کا درس دینے والوں کو قرآن و حدیث سے جواب دیتے، غداریاں بے وفائیاں گھربار سے دوری سب کچھ

برداشت کرتے ہوئے بالآخر یہ عظیم شخصیات پر مشتمل قافلہ بالا کوٹ میں اپنی آخری چیز بھی رب کائنات کی منشا و رضا کی خاطر قربان کر گیا۔ اور بعد میں آنے والے مفسرین و محدثین، مصلحین و مرشدین کو بتا گیا کہ ولایت، اللہ حق مجاہدہ کے تقاضے پورے کرنے کا نام ہے، انبیاء کہ وارث وہ علماء ہیں جو شریعت کے تقاضوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ شعائر اسلام کو بچانا ہی سب سے بڑی دین کی خدمت ہے خواہ اپنا گھر اپنا مدرسہ، اپنا وطن تک اسکے لئے قربان کرنا پڑے، تم میں بہترین عالم وہی ہو سکتا ہے جو قرآن سے سیکھے اور اس پر ڈٹ جائے۔

یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت اور اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہی تھا کہ اس پیشانی نے کفر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا جو اپنے محبوب حقیقی کے سامنے جھکتی تھی۔ بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے وقت ہر بار دہلی سے بالا کوٹ تک کا نقشہ ذہن میں گھومنے لگتا ہے۔ دہلی کی رونقیں، نمازیوں سے کچھ کھینچ بھری مساجد، مدارس میں شائقین علم کا ہجوم، اور دوسری جانب بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا بالا کوٹ، کہاں دہلی کا شہزادہ اور کہاں ”ست بنانا لہ“۔ مجھ جیسا پست ہمت اس راز کو کیونکر سمجھ سکتا ہے کہ حدیث نبوی کا درس دیتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث چھوڑ کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہوئے؟

کبھی مزار قاسمی میں قاسم و محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر سوچئے گا کہ کس قوت سے نکل کر انے چلے تھے، جسکی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اور خود سے یہ بھی سوال کیجئے گا کہ احاطہ مومسری سے نکلنے ہوئے باب قاسم پر آخری نظر ڈال کر دل میں جذبات کا طوفان لئے نکلنے والا طالب علم باقی ہے یا دنیا کی جگہ گاہٹوں نے انکو بھی ”مستقبل“ کی فکر کرنے والا بنا دیا؟

میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے اسلاف زیادہ سمجھدار تھے جو امت کے ہیروں کو اکٹھا کر کے بالا کوٹ میں لا کر شہید کرا بیٹھے، یا ہم جو اپنی جان بچائے پھرتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث کو یہ احساس نہیں تھا کہ انگریزوں کے خلاف انکا فتویٰ انکے لئے کس قدر مشکلات کھڑی کر دے گا، کیا انکو اس بات کا اندازہ تھا کہ انکے اس عمل سے ہندوستان بھر کے مدارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ پھر آخر کیا تڑپ تھی جو دہلی کے عظیم علمی کارنامے انجام دینے والے مدارس کو داؤ پر لگا دیا، خود بھی مصیبتوں میں رہے اور مدارس بھی مسمار کرائے؟

مجھ جیسا کم علم جب اسلاف کی تاریخ پڑھتا ہے اور آج کے حالات دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی اور تھے ہم کوئی اور ہیں۔ دل کرتا ہے کہ آگے سفر کے بجائے ماضی کی طرف ہی لوٹ

چلیں..... آئیے ماضی ہی پھر سے واپس لائیں کہ وقت بہت مختصر ہے..... بحشیں چھوڑئیے اور..... اٹھیں کہ اٹھنے کا وقت ہے..... مایوس نہ ہوئیے اور خود کو کمزور بھی نہ سمجھئے..... صومالیہ والوں کو دیکھئے..... بھوکے پیٹ..... تھڑا زہ..... رگوں کا خون بھی دین کے دشمنوں نے پھوڑ لیا تھا لیکن جب اٹھے تو وقت کے فرعون کے گلے میں رسیاں ڈال کر گلی کوچوں میں گھسٹتے پھرے..... بھارت کچھ بھی نہیں..... اللہ ہی کی طاقت ہے جس سے ڈرنا چاہئے..... یہ خوفِ غلامی ہے اور کچھ بھی نہیں..... ورنہ ایک پولیس والے کی کیا مجال کے ایک تھری ناٹ تھری ہاتھ میں لے کر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور انگریزوں کی اولاد کو یوں ہنکا کر لے جائے جیسے انسان نہیں بکریوں کا ریوڑ ہوں..... یہ صرف جہاد سے دوری کا نتیجہ ہے ورنہ بھارتی فوج بھی آپکے سامنے ٹھہر نہیں سکتی..... کشمیر کے اندر دیکھ لیجئے..... مشرف کے غداری کرنے سے پہلے تک..... مجاہدین نے کس بری طرح بھارتی فوج کو شکست دی تھی۔

جلدی کیجئے۔ جہاد کے میدان پکار رہے ہیں..... قافلے رواں دواں ہیں..... قطب مینار آپ کو آپ کی عظمت کی داستان یاد دلا رہی ہے..... لال قلعے پر لہراتا ترنگا دل کو خون خون کرتا ہے..... اور اسکے سامنے پر شکوہ جامع مسجد کیا ان سب کو دیکھ کر بھی لٹا ہوا ماضی واپس لینے کی تمنا نہیں ہوتی..... یہ سب آپکی وراثت ہے..... اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لئے دنیا میں نہیں بھیجا کہ آپ اللہ کے دشمن ہندوؤں کی غلامی میں زندگی گزاریں..... اٹھنے کا وقت ہے اٹھ جائیے..... اگر خود نہیں اٹھیں گے تو اٹھا دیئے جائیں گے۔ تھوڑا وقت ہے۔ جنگوں کے آغاز سے پہلے خود کو جہاد کے لئے تیار کر لیجئے تاکہ باہر سے آپ کے مجاہدین بھائی اور اندر سے آپ غزوہ ہند میں شریک ہو کر جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکیں..... اور آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہندوستان کے بارے میں بشارت میں شریک ہو سکیں۔

پاکستان اور علماءِ حق

وہ جو بیچتے تھے دوائے دل

انتہائی حیرت کی بات ہے کہ جب خطرات سانپ کی طرح پھن پھیلائے سامنے کھڑے ہیں، اس نازک وقت میں اہل حق میں حرارت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ یہ وہ طبقہ ہے جو خطرات کی بودور سے ہی سونگھ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن فی الوقت خطرات انکے سروں پر برسا شروع ہو چکے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔

کبھی دل کرتا ہے کہ ان بندگانِ خدا کے دروں پر جا کر پوچھیں تو سہی کہ پتھروں کو زبان عطا کرنے والوں پر یہ خاموشی سی کیوں طاری ہے؟ بالا کوٹ کے کوسہاراں اور شاملی کے میدانوں کو اپنے لبو سے رونق بخش کر، برصغیر میں آزادی کی بہار لانے والے آج خزاں رسیدہ پتوں کی طرح کیوں بکھرے پڑے ہیں؟ ماضی اور حال کا یہ تضاد طالبِ علموں کے لئے ناقابلِ فہم ہے؟

ہمیں خود کو قاسم و محمود کی کسوٹی پر پرکھنا چاہئے کہ ہمارے اور اسلاف کے منہج اور طریقہ کار میں کتنا فرق آیا ہے؟ یہ فرق صرف فروعی ہے یا بنیادیں ہی ہل چکی ہیں؟ صرف طریقہ کار میں اختلاف ہے یا مقاصد و نصب العین ہی تہہ و بالا ہو گئے ہیں؟ نصب العین پر خود کو مٹانے کی سنت جاری ہے یا خود پر نصب العین کو قربان کیا جا رہا ہے، مٹ جانے کا شوق جو ان ہے یا بچ جانے کی تمنا نے دل میں گھر کر لیا ہے؟ آخری حدیث پڑھاتے وقت جو ”خوئے بغاوت“ بطور سند تقسیم کی جاتی تھی، اسکی جگہ کہیں ”حکمت و مصلحت“ نے تو نہیں لے لی؟ شوقِ بالا کوٹ اور تمنائے شاملی دل کو گرماتی ہے یا لندن و واشنگٹن کی سحر انگیزی نے دین کی خدمت کے ”جدید تقاضے“ سکھائیے ہیں؟

اللہ ان گناہگار آنکھوں کو وہ دن نہ دکھائے کہ جب اس مکتبِ فکر کے رجال کا قتل عام کیا جائے، انکے مساجد و مدارس کی چھتیں انہی پر گرا دی جائیں۔ کاش ایسا نہ ہو اور سب کچھ اچھا ہی چلتا رہے۔ لیکن نہ جانے کیوں پھر اس سیاہ کاری آنکھوں کے سامنے، درختوں سے لٹکی اس طبقے کے مراد ان حرکی لاشیں آجاتی ہیں، جنکو ۱۸۵ء کے بعد، دہلی کی جامع مسجد سے دہلی دروازے تک، درختوں پر اس طرح سجا دیا گیا تھا جیسے، شادی بیاہ میں ہر دیوار اور منڈھیر پر چراغ سجا دیئے جاتے ہیں۔ پھر دل کو تسلی دے لیتا ہوں، کہ وہ پرانے دور کی باتیں تھیں۔ یہ جدید دور ہے۔ ”معلومات“ اور ”آگاہی“ کا دور..... ”ایک آنکھ“ (One Eye) کا دور..... جو..... ہر جگہ ہر کسی کو دیکھ رہی ہے..... لہذا انگریزوں جیسا ظلم آج نہیں کیا جاسکتا..... لیکن پھر ”اپنوں“ کے ساتھ کچھ خوفناک ہو جانے کے اندیشہ سے بے چین ہو جاتا ہوں، پھر اس معلومات اور ”کانی آنکھ“ (جو صرف ایک طرف دیکھتی اور دکھاتی ہے) کے دور کا فلوجہ نیندیں اڑا دیتا ہے..... فلوجہ..... مقتل گاہ..... ایک خاص مکتبِ فکر کی مقتل گاہ..... جس میں خوئے بغاوت ابھی باقی ہے..... اپنے دین..... اپنے ایمان..... اپنے ملک پر کسی کافر کو قابض ہوتا دیکھ کر جنگی خوئے بغاوت پھر سے بھرک اٹھتی ہے..... یہ سب ایک ہیں..... انکے نام، چہرے، علاقے اور زبانیں ضرور جدا جدا ہیں..... لیکن ان سب کی فطرت میں بغاوت ہے..... انکا ردِ عمل ایک جیسا ہوتا ہے..... تہذیب برطانیہ کی صورت میں آئے، یا امریکہ کی شکل میں..... انکا پیشہ ہی بغاوت ہے.....

حالانکہ مسلمان تو اور بھی ہیں..... جو وسیع النظر..... دوسروں کو برداشت کرنے والے..... دور جدید کی حقیقتوں کے سامنے سر جھکا دینے والے..... لیکن اس مکتب فکر کے اندر ”انتہا پسندی“ ہے..... دنیا کی ”مہذب اقوام“ خود چل کر ان کے دروازے پر تہذیب سکھانے آئی ہیں..... یہ ہیں کہ مرنے مارنے پر تیار..... فساد پھیلاتے..... شہر پسند..... انکی تاریخ ہی یہی ہے..... جب ایسا کوئی موقع اٹکو ملتا ہے..... تو ان کے خانقاہ والے..... مدرسوں والے..... کیا امام..... کیا مؤذن..... کیا تاجر کیا مزدور یہ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں..... کوئی خانقاہ سے اٹھ کر، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ بن جاتا ہے..... اور وقت کے محدث مدرسے چھوڑ کر اپنے پیروں کے پیچھے ہولیتے ہیں.....

پاکستان میں اہل حق کے خلاف عراق والا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ علماء حق باطل قوتوں کے نشانے پر ہیں۔ لہذا قبل اسکے کہ چن چن کر ٹارگٹ کلنگ میں نشانہ بنتے رہیں..... اٹھنا ہوگا..... قبل اس کے کہ امریکہ پاکستان میں اپنی مرضی کی جنگ مسلط کرے اہل حق کو اس جارحیت کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ عوام کو ساتھ لے کر آنے والے حالات سے نمٹنے کے لئے تیاری ناگزیر ہے۔۔۔۔۔۔ غم اور کچھ نہیں..... صرف اتنا سا ہے کہ یہ آنکھیں، آپکے گلی محلوں اور بستیوں کو فلو جہ بنتے دیکھنے کی تاب کہاں سے لائیں گی.....

لہذا نفس بارہا زباں بندی کی فضیلت سناتا ہے..... کہ جہاں..... لوگ آرام سے سو رہے ہوں وہاں شور شرابا کرنا، سوتوں کو جگانا..... ”بد تہذیبی“ سمجھی جاتی ہے..... لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے..... لیکن دل پھر دل ہے، ڈرتا ہے کہیں اپنوں کے ساتھ وہ کچھ نہ ہو جائے جو علماء عراق کے ساتھ ہوا..... آنکھوں کے سامنے پھر وہی منظر گھوم جاتے ہیں..... سر زمین دجلہ و فرات کے مناظر..... اذان کی آوازوں سے گونجتے مینارے، اذان دینے والوں پر گرا دیئے گئے..... سجدے میں پڑے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے نمازیوں پر مسجدوں کی چھتیں گرا دی گئیں..... باحیاء عرب بیٹیاں اور بہنیں موت کی تمنا کر کے جنیں یا..... و معتصما..... یا کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں..... پورے محلے کا محاصرہ کر کے تمام عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے..... سفید ریش بوڑھوں کو داڑھیاں پکڑ کر سرٹوں پر گھیٹتے..... اور نوجوانوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے نشانہ بازی کرتے..... ابلسی تہذیب کے پجاری..... امریکی فوجی، بلیک و اٹر اور وہ طبقہ جہاں شجرہ نسب ”ابن علقمی“ سے ملتا ہے..... نشانہ ایک ہی طبقہ بنا..... وہ بھی بہت منظم انداز میں..... کھلم کھلا..... دن کی روشنی میں..... حتیٰ کہ بھرے بازار میں اس طبقے کا کوئی بھی فرد نظر آیا..... جس رافضی نے

جاہا امریکی گن اٹھائی اور سب کے سامنے گولی ماری..... ظلم سا ظلم تھا.....  
دوست شاید محسوس کریں کہ..... صرف فلوچہ ہی کا ذکر بار بار کیوں؟..... کشمیر..... بھارت  
..... افغانستان کو کیوں بھول گئے؟

سب یاد ہیں..... نہ کشمیر بھول سکتے ہیں..... نہ دہلی..... خود اپنا 'آپ' بھلایا جاسکتا ہے  
لیکن سرینگر و دہلی نہیں بھلائے جاسکتے کہ یہ بندے پر قرض ہے..... رہا افغانستان..... اسکے بغیر تو  
سب کچھ ادھورا ہے..... لیکن جو سبق پاکستان میں موجود اہل حق کے لئے فلوچہ میں ہے وہ کسی میں  
نہیں..... فلوچہ میں قتل عام اپنے اندر بے پناہ عبرتیں اور سبق سمیٹے ہوئے ہے..... نیز پاکستان کے  
لئے عراقی پیٹرن رو بہ عمل لایا جائیگا۔ قاتل کون تھے..... قاتلوں کی رہنمائی کرنے والے کون اور  
مقتول کون؟ سسکیاں، آہیں اور چیخیں کس کی گونجتی تھیں..... قہقہے اور نعرے لگانے والے کون تھے؟  
مختصر یوں کہہ دیجئے کہ فلوچہ اہل پاکستان کی ایسی ویڈیو فلم ہے جو پہلے سے بنالی گئی ہے..... اپنا  
مستقبل دیکھنے کے لئے فلوچہ کی کہانی غور سے پڑھئے..... جس نے فلوچہ کو پڑھ لیا..... اسکے لئے  
مستقبل میں پاکستان میں ہونے والا سب کچھ اس طرح ہوگا گویا وہ فلوچہ ہی کی ویڈیو دیکھ رہا  
ہے..... جملہ آرزو بھی وہی..... حملے کے نشانے پڑ بھی وہی..... قاتل بھی فلوچہ جیسے..... اور مقتول بھی  
فلوچہ کی طرح.....

یہ کمزور دل چٹانوں کے دل چاک کرتی ان بہنوں کی چیخوں کو برداشت کرنے کے قابل  
نہیں..... ان بہنوں کی آواز پر تو آج کے محمد بن قاسم 'ابومصعب زرقاوی' نے لبیک کہا تھا.....  
کیا کوئی ہے جو کراچی سے گلگت اور کشمیر سے قبائل تک، بلیک واٹر، امریکی میرین اور انکے کرائے  
کے فوجیوں کے مقابلے، ابومصعب زرقاوی بن سکے..... کوئی ہے جو تمام مصلحتوں..... خود فریبی  
کی حکمت عملیوں اور خوف کے سایوں سے جان چھڑا کر..... بیک وقت... اسلام کے تمام دشمنوں  
کے مقابلے کے لئے تہا اٹھ کھڑا ہو..... تب جا کر مسلمانان پاکستان کو بچایا جاسکے گا۔

اہل حق کے لئے ضروری ہے کہ جس انداز میں دشمن ہمیں مٹانے کے منصوبے بنا رہا ہے  
اسی انداز میں اس کو جواب دیا جائے..... بھارت و امریکہ کی منت سماجت کر کے..... زندگی کی  
بھیک مانگ کر یا چند سانسیں قرض لے کر جی لینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ ایسی زندگی سے موت  
ہزار درجہ بہتر ہے۔

قبل اسکے کہ امریکہ و بھارت مل کر آپ پر یلغار کر دیں..... اٹھ جائیے اور پاکستان بھر  
کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد شعلہ جو الابد بنا دیجئے۔ امام مہدی کی دعوت دینے والے لشکر کو مضبوط

کیجئے اور امام مہدی کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائیے۔ لوگوں کو سمجھائیے کہ امریکی جنگ کا ایندھن بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس ابلیسی طاقت کے مقدر میں شکست لکھ چکے ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی اسکو طالبان سے نہیں بچا سکتی۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان بھی امریکہ کے ساتھ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا کر ایک نئی قوم لے آئیں گے جو انکے دین کے دشمنوں سے جہاد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔

چنانچہ ہمیں آخرت سے ڈرنا چاہئے اور اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ دینے کے بجائے اہل ایمان کے ساتھ نیا اتحاد قائم کر کے امریکہ و بھارت کے خلاف جنگ کی تیاری کرنی چاہئے۔ کامیابی انہی کو ملے گی جو اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لئے لڑیں گے اور جو اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ انکو چھوڑ دینگے۔ پھر انکی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حق کے ساتھ شامل فرمادیں اور باطل کا ساتھ دینے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین





## جہاد کا وقت کب آئے گا؟

### امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے؟

جہاد کے فرض عین ہونے کی جو شرائط ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں ان کے مطابق تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں کوئی سستی، کاہلی اور حیلوں بہانوں کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ابھی وہ شرائط پوری نہیں ہوئیں جو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا غلام احمد قادیانی نے بیان کی ہیں۔ قادیانی شریعت کے مطابق ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، اور نہ مستقبل میں فرض ہونے کی امید ہے۔

دشمنانِ اسلام مسلمانوں پر حملہ آور ہیں اور یکے بعد دیگرے مسلم ملکوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن اپنے دفاع کے حوالے سے مسلمان انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ جب لوگوں کو جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آئیے جہاد میں شامل ہو کر اس فرض کو پورا کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے عائد کیا ہے تو جہاد سے بچنے کے لئے لوگ طرح طرح کے حیلے بہانے بناتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں جسکو قرآن نے نہ بیان کیا ہو اور اس کا جواب نہ دیا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا کی محبت اور اس سے وابستہ لمبی چوڑی امیدوں نے ایسا تباہ کیا ہے کہ دنیا چھوٹ جانے کا تصور ہی خوفناک لگتا ہے۔ موت کی یاد تو کجا قبرستان جا کر بھی دل کے کسی گوشے میں اس کا خیال آ کر نہیں دیتا۔ حقیقت کا انکار اور مشکل حالات دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے کی عادت اب مزاج کا حصہ بننے لگی ہے۔ چنانچہ آج بھی خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پانے کے باوجود لوگ حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بجائے حقیقت کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ انکے نزدیک موجودہ حالات ایسے کوئی غیر معمولی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ وقت بہت دور ہے۔ لہذا خواہ مخواہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو سارے مسلمان انکے ساتھ مل کر جہاد میں شامل ہو جائیں گے۔ لوگوں میں یہ خیال عام ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو انکے ساتھ مل کر جہاد کر لیں گے۔

یہ بات کہتے ہوئے وہ حضرت مہدی کے وقت کے حالات سامنے نہیں رکھتے کہ جب دنیائے کفران مسلمانوں کو مٹانے کا عزم کئے ہوگی جو ساری دنیا سے بغاوت کر کے صرف ”اللہ اللہ“ کے نظام کے لئے سردھڑکی بازیاں لگا رہے ہونگے، ابلیس کے مذہب ”نیو ورلڈ آرڈر“ سے بغاوت کر کے اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے، آگ کے دریا عبور کر رہے ہونگے۔ تمام کفار اور انکے اتحادی منافقین سب انکے دشمن ہونگے۔ انکو مٹانے کے لئے انکی ہنستی کھیلتی بستیموں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے گا، پھول سے مسکراتے بچوں سے انکا بچپن چھین لیا جائے گا، انکی باحیاء بیٹیوں کو زندہ جلادیا جائیگا، انکے بوڑھے باپوں کے سامنے جوان سال بیٹوں کو توپوں کے دہانوں پر رکھ کر اڑادیا جائیگا..... ہر طرف خون آشام جنگیں ہونگی..... پہاڑوں کا دل چیر دینے والے دھماکے..... زمین دہلا دینے والی گولہ باری.....

جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوں گے.... کھوپڑیاں فضاء میں یوں اڑتی ہوگی گویا روٹی کے گالے... انسانی گوشت کے چیتھڑے جگہ جگہ نیل بوٹوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے..... دھماکوں کی چنگھاڑ سے زمین کا دل پھٹا جاتا ہوگا... بندوقوں کی نالیوں سے نکلنے والی گولیاں شائیں شائیں کرتی کانوں سے گذر رہی ہوں گی... زخمیوں کی آہ و بکا نے فضاء کی سانسوں کو روک رکھا ہوگا..... نیل کے ساحل سے خاک کا شغرت تک جنگ ہی ہوگی۔ ایسے وقت میں کون کس کے ساتھ ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے؟

اس سب کے ساتھ ساتھ سرکاری علماء و مشائخ جو حضرت مہدی کو نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نواز رہے ہونگے، قیمتی پلاٹوں، بیرونی دوروں، تاحیات سرکاری وظائف اور لذت بھرے سرکاری عشائے (Dinner) کے عوض لکھے جانے والے فتاویٰ..... سیدنا مہدی کا ساتھ دینے والوں کے خلاف دجالی پروپیگنڈہ..... یہ تمام باتیں مدنظر رکھیے اور پھر اپنے اس فیصلے کے بارے میں دل سے پوچھئے کہ..... ”جب امام مہدی آئیں گے تو انکے ساتھ جہاد کر لیں گے، ابھی تو جہاد کا وقت بہت دور ہے؟“

امام مہدی کے ساتھ جہاد کرینگے یا نہیں کریں گے اسکا بہت سیدھا سا جواب قرآن نے دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة** کہ اگر واقعی وہ جہاد میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اسکے لئے کچھ ساز و سامان تو تیار کرتے۔ جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ جہاد کی تیاری تک پر راضی نہیں ہیں۔ جب جہاد کی تیاری ہی نہیں ہوگی تو امام مہدی کے ساتھ جہاد میں کیسے شامل ہونگے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جہاد فرض عین ہے، سو اس وقت جہاد میں شامل ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ جہاد کا وقت ہے دشمن سر پہ آکھڑا ہوا ہے۔ لہذا اس وقت جہاد میں شامل ہو جائیے اگر امام مہدی آجائیں تو یہی جہاد انکی قیادت میں ادا کیا جائے گا اور اگر نہ بھی آئیں تو ہمیں اپنا فرض تو ادا کرنا ہے جسکے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جہاد نماز روزے کی طرح ایک عبادت ہے۔ کسی بھی عبادت کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب دل میں اسکی طلب موجود ہو، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر اسکو مانگا جائے، اسکے لئے کوشش کی جائے اور اسکی قدر کی جائے۔ سو جہاد بغیر مانگے، بغیر اسکی کوشش کئے اور بغیر تیاری کئے کس طرح مل سکتا ہے۔ جبکہ فضائل کے اعتبار سے یہ سب سے افضل فریضہ ہے، نیز جہاد کی تربیت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ لہذا پہلے یہ تو سیکھ لیا جائے کہ جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس شخص کو آپ کس طرح سچا مان سکتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری نماز پڑھنی کی نیت ہے، لیکن نہ وہ وضو کرتا ہے نہ نماز کی تیاری کرتا ہے؟

امام مہدی کے ساتھ ہی اگر جہاد کرنا ہے تو اسکی تیاری اور تربیت تو ابھی سے کر لینی چاہئے۔ کیونکہ حضرت مہدی کوئی تاریخ دے کر نہیں آئیں گے کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، چنانچہ ہم اس تاریخ سے کچھ پہلے تربیت کر لیں گے۔

### ناگزیر جنگ کی تیاری کیجئے

ان سب باتوں کے علاوہ اصل اور کھری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو ٹول کر دیکھنا چاہئے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں ہے یا نہیں؟ دنیا کی اتنی لمبی چوڑی امیدیں..... ساز و سامان سے بھرا ہوا گھر..... بڑھاپے تک کے منصوبے، بلکہ مرنے کے بعد بھی پیچھے رہ جانے والوں کے لئے، منصوبہ بندی..... دنیا کی لذتیں..... دسترخوان بھرے ظہرانے اور عشائیے..... قیمتی ترین ملبوسات..... زندگی بھر کی کمائی، ختم ہو جانے والے اور چھوڑ کر چلے جانے والے گھر کی زیبائش و آرائش کی نظر..... ٹائل کوئی لگانی ہیں..... گھر میں پینٹ کیسا ہونا چاہیے..... گھر کی اندرونی تزئین (Interior Designing) کس سے کرانی ہے..... اس سب کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ ہمارا اللہ سے ملاقات کا کوئی ارادہ ہی نہیں اور اس دنیا سے جانے کا خیال بھی دل سے نہیں گذرا..... یہ سب کفار کریں سو کریں کہ انکا مقصد ہی دنیا ہے..... لیکن امت تو حید..... اگر اس گھر کی تعمیر و تزئین کو نصب العین بنا لے، جس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے..... جو کھنڈر بن جانے

والا ہے..... اور جہاں سے جنازہ نکلے..... وہ امت جسکے ہر ہر فرد کو اپنا پیٹ کاٹ کر اسلحہ خرید کر رکھنا چاہئے، ساری دولت فضول خرچیوں پر اڑا دے، یہ کہاں کی عقلمندی و سمجھداری ہے۔

ہوشیار وہی ہے جو مصیبت میں گرفتار ہونے سے پہلے اس سے بچنے کی تدبیریں کر لے..... دانا وہی ہے جو جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری کر لے..... مسلمانانِ پاکستان کو مستقبل قریب میں ایک خطرناک جنگ کا سامنا کرنا ہوگا..... حکمران جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں یا ایٹمی جنگ سے ڈراتے رہیں، بھارت و امریکہ سے جنگ لڑنا پاکستان کی بقاء کے لئے ناگزیر ہے۔ رہا ایٹمی جنگ کا خوف تو قسطنطنیہ میں سسک سسک کر مرنے سے ایک ہی بار دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر لینا زیادہ آسان کام ہے۔ بھارت نے پانی روک کر ہمیں قسطنطنیہ میں مارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کیسی گزریگی اسکا اندازہ اس وقت وہ لوگ نہیں لگا سکتے جنکو ہر وقت پانی میسر رہتا ہے۔ رہے حکمران..... انکو چھوڑیئے اور اپنے ہی بازوؤں پر بھروسہ کیجئے..... کیونکہ اس خطے کا دفاع عام مسلمان ہی کو کرنا ہے۔

وقت بہت مختصر ہے..... خصوصاً گلگت، کراچی اور اہل پنجاب کے لئے..... اپنے مخلوں اور شہروں میں موجود مجاہدین کی قدر کیجئے..... وہ وقت قریب ہے کہ جب لوگ تمنا کریں گے کہ کاش! ہمارے گھر میں کوئی ایک مجاہد ہوتا..... اہل محلہ ترسیں گے..... کاش! محلے میں ایک ہی ہوتا جو آج ہمارے گھروں میں گھستے بھیسڑیوں کے جبرٹوں میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت کرتا..... انکی قدر عراق کے سینوں سے پوچھئے..... یہ منظر دجلہ و فرات کی سرزمین نے دیکھا ہے..... آپ بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیئے..... مسلمانوں کے مخلوں کا محاصرہ کر کے سب کچھ لوٹ لیا جاتا..... ساری عمر کی کمائی..... عزت..... جان و مال..... سب کچھ تباہ کر کے چلے جاتے..... صرف پیچھے..... سلگتے کھنڈرات..... چربی جلنے کی بو..... وہ پھرائی آنکھیں جو زخمی حالت میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوتیں یہ منظر دیکھنے کے لئے انکو زندہ چھوڑ دیا جاتا..... بچے کے لاشے سے چٹھی متا کی لاش..... بوڑھے باپ کے اوپر پڑا جوان بیٹا..... جبکہ بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں ہوتیں کہ دجلہ و فرات بھی نوحہ کنان ہوتے..... سیکڑوں کی آبادی میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو امریکہ اور انکے ایجنٹوں کے مقابلے اسلحہ چلانا بھی جانتا ہو۔ پھر آپ کے ”دہشت گردوں“ نے یمن، سعودی عرب شام اور افغانستان سے بہنوں کی چیخوں پر لبیک کہا..... عراق کے عام شہری خود اپنی عزت و جان کی حفاظت کے لئے مجاہدین کو اپنے گھروں اور مخلوں میں جگہ دینے لگے..... انکے لئے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتے..... ان سرفرو شوں نے ایثار و قربانی کی

وہ مثالیں قائم کیں کہ آج عراق کے مسلمان..... انکی راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں اور ان پر جانیں نچھاور کرتے ہیں.....

لہذا برا وقت آنے سے پہلے مسلمانانِ پاکستان کو ان ”درویشوں“ کی قدر کر لینی چاہئے..... انکے بارے میں آپکی معلومات صفر ہیں..... اگرچہ آپکا یہ خیال ہے کہ آپ انکے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں..... آپکی معلومات کے ذرائع کائنات کے کذاب ہیں جنہوں نے آپکے ذہنوں میں دجالیت بھردی ہے۔ آپ انکو جو نام بھی دیتے رہیں..... دہشت گرد..... جنونی..... انتہا پسند..... ملا..... طالبان..... کہہ لیجئے..... اسلام و پاکستان کے دشمنوں کو اسمبلیوں میں جگہ..... اور قربانی دینے والوں پر سنگ باری.....

تم انصاف کرو ہو کہ کرامات کرو ہو

وقت سب کھرے کھوٹے کو الگ کر دے گا۔ کس کے دل میں یہاں کے مسلمانوں کا درد ہے اور کون ہیں جو پاکستان کے نام پر اس عوام کو لوٹتے چلے آ رہے ہیں۔



## دوست کون دشمن کون؟

امام مہدی کے ساتھ کون مسلمان ہوں گے اور انکے دشمنوں کے ساتھ کون ہوں گے؟ اسکا جواب انتہائی آسان بھی ہے اور نہ سمجھنا چاہیں تو بہت مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف انہی کے خالص ہو کر رہیں۔ اگر کوئی نواویں فیصد انکا اور ایک فیصد انکے غیر کا ہوگا تو اسکو قبول نہیں کیا جائیگا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ روئے زمین سے تمام نظاموں کا خاتمہ کر کے صرف اللہ کا نظام نافذ کریں۔ تاکہ وہ سو فیصد اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ وقتالوہم حتی لا تکون فتنۃ ویكون الدین کله للہ اور ان کافروں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارا کاسارا دین اللہ کا نہ ہو جائے۔

حضرت مہدی بھی آکر اسی فریضے کو انجام دیں گے۔ اور قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے سے روئے زمین کو کفر و شرک سے پاک کر کے خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہ تمام اہل حق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے تمام احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہوں گے۔ انھیں اسلام کے ہر حکم سے محبت ہوگی، راتوں کو مصلوں پر کھڑے ہو کر گڑ گڑانے والے اور دن میں میدان جہاد میں داد شجاعت دینے والے، انکے دلوں میں اللہ کے دوستوں کی محبت ہوگی اور انکے سینے اللہ کے دشمنوں کی نفرت سے بھرے ہوں گے، مسلمانوں کے قاتلوں پر انکو غصہ آتا ہوگا، ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ کبھی ابلیس کے نظام پر راضی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا اسکو حلال مانتے ہوں گے اور جن کو حرام کہا انکو حرام مانیں گے، اگر کوئی قوت کے ذریعے اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرے گا تو یہ اس سے قتال کرتے ہوں گے، اور جان قربان کر کے حق کو حق ثابت کریں گے اور باطل کو باطل۔

جبکہ انکے مقابلے میں تمام باطل قوتیں ہوگی۔ کافروں کے ساتھ وہ نام نہاد مسلمان بھی ہوں گے جو اسلامی نظام سے چڑتے ہیں، جو روئے زمین پر خلافت اسلامیہ کے مخالف ہیں، جنہیں حدود اللہ سے نفرت ہے، جو پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، جسکو جہاد ہشمت گردی

اور اخلاق کے خلاف لگتا ہے۔ جو قتال فی سبیل اللہ کو نہیں مانتے، جنکے دلوں کو دنیا کی محبت اور موت کے خوف نے جکڑ رکھا ہوگا، جنکی خواہشات نے ان پر غلبہ پالیا ہوگا جہاد کے مقابلے گھروں میں بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہونگے، جنکو فتنے (فتنہ مال، فتنہ دنیا، فتنہ نساء، فتنہ اہل واولاد) اپنی لپیٹ میں لے چکے ہونگے۔

یاد رہے کہ امام مہدی کے خلاف سب سے پہلے اعلان جنگ کرنے والا ایک نام نہاد مسلمان، سفیانی ہوگا۔ یہ اور اسکی فوج اگرچہ خود کو مسلمان سمجھتی ہوگی لیکن حقیقت میں یہ لوگ مرتد ہو چکے ہونگے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو جس کو پسند کرتا ہوگا اسی کی جانب سے لڑے گا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا

ترجمہ: جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور جنھوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں لہذا تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، بیشک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔

سوائے ایمان والو! تیاری کیجئے.. خود کو تیار کیجئے..... آرام پسندی چھوڑ کر..... جفاکشی اختیار کیجئے..... آئیے! اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے، جس میں جہاد و قتال بھی شامل ہے..... اللہ والوں کے قافلوں کے راہی بن جائیے..... انکے ساتھ کھڑے ہو جائیے..... فراخی و تنگی میں..... خوشی و غم میں..... انکا ساتھ دیجئے..... اگر ہمارے سامنے حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا تو اللہ کی مدد سے انکے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ان سے پہلے شہادت مل جائے تو انشاء اللہ قیامت کے دن انکے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے مانگیئے، اللہ تعالیٰ دجالی پروپیگنڈے سے حفاظت فرما کر اہل حق کے ساتھ شامل فرمادیں، انکی مدد کرنے والا بنائیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمادیں۔ (آمین)



## حوالہ جات ماخذ و مصادر

- 1 نام کتاب..... تفسیر قرطبی  
مؤلف..... محمد ابن احمد ابن ابی بکر ابن فرح قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابو عبد اللہ  
ولادت..... ۶۰۰ ہجری وفات..... ۶۷۱ ہجری ناشر..... دار الشعب قاہرہ
- 2 نام کتاب..... تفسیر طبری  
مؤلف..... ابو جعفر ابن جریر طبری  
ولادت..... ۲۲۴ ہجری وفات..... ۳۱۰ ہجری ناشر..... مؤسسۃ الرسالۃ بیروت
- 3 نام کتاب..... تفسیر روح المعانی  
مؤلف..... شہاب الدین آلوسی  
ولادت..... ۱۲۱۷ ہجری وفات..... ۱۲۷۰ ہجری ناشر..... دار احیاء التراث العربی بیروت
- 4 نام کتاب..... صحیح بخاری  
مؤلف..... محمد ابن اسمعیل ابو عبد اللہ البخاری الجعفی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۱۹۴ ہجری مطابق ۸۱۰ء وفات..... ۲۵۶ ہجری مطابق ۸۷۰ء  
ناشر..... دار ابن کثیر یمامہ بیروت
- 5 نام کتاب..... صحیح مسلم  
مؤلف..... مسلم ابن الحجاج ابو الحسین القشیری النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۲۰۴ مطابق ۸۲۰ء وفات..... ۲۶۱ مطابق ۸۷۵ء  
محقق..... محمد فواد عبد الباقی ناشر..... دار احیاء التراث العربی
- 6 نام کتاب..... الآحاد والمشانی  
مؤلف..... احمد بن عمرو بن ضحاک ابو بکر الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ



ولادت..... ۲۰۶ ہجری وفات..... ۲۸۷ ہجری ناشر..... دارالرایہ ریاض



7 نام کتاب..... سنن ابوداؤد

مؤلف..... سلیمان ابن الاشعث ابوداؤد السجستانی الازدی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۲۰۲ ہجری وفات..... ۲۷۵ ہجری ناشر..... دارالفکر بیروت



8 نام کتاب..... سنن ابوداؤد

مؤلف..... سلیمان ابن الاشعث ابوداؤد السجستانی الازدی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۲۰۲ ہجری وفات..... ۲۷۵ ہجری مطابق ۸۸۹ء

ناشر..... دارالفکر بیروت



9 نام کتاب..... سنن ابن ماجہ

مؤلف..... محمد بن یزید ابو عبد اللہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۲۰۷ ہجری وفات..... ۲۷۵ ہجری ناشر..... دارالفکر بیروت



10 نام کتاب..... السنن الکبریٰ

مؤلف..... احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن النسائی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۲۱۵ ہجری وفات..... ۳۰۳ ہجری

ناشر..... دارالکتب العلمیہ بیروت محقق..... عبدالغفار سلیمان البنداری، سید کسروی حسن



11 نام کتاب..... الجامع الصحیح سنن الترمذی

مؤلف..... محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ الترمذی السلمی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۲۰۹ ہجری مطابق ۸۲۲ء وفات..... ۲۷۹ ہجری مطابق ۸۹۲ء

ناشر..... داراحیاء التراث العربی بیروت



12 نام کتاب..... المجتبیٰ من السنن

مؤلف..... احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن النسائی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر..... مکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب



13 نام کتاب..... التاريخ الكبير

مؤلف..... محمد بن اسمعيل بن ابراهيم ابو عبد الله البخاري الجعفي رحمه الله عليه  
ناشر..... دار الفكر بيروت



14 نام کتاب..... الجامع

مؤلف..... معمر ابن راشد الازدي رحمه الله عليه

ولادت..... ۹۵ ہجری وفات..... ۱۵۳ ہجری

ناشر..... المكتب الاسلامي بيروت محقق..... حضرت مولانا حبيب الرحمن اعظمي



15 نام کتاب..... الزهد ويليہ الرقائق

مؤلف..... عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه بن واضح المرزوي ابو عبد الله

ولادت..... ۱۱۸ ہجری وفات..... ۱۸۱ ہجری

ناشر..... دارالکتب العلمیہ بیروت محقق..... حبيب الرحمن اعظمي



16 نام کتاب..... السنن الواردة في الفتن وغوايها والساعة واثراطها

مؤلف..... ابو عمرو عثمان ابن سعيد المقرئ الداني رحمه الله عليه

ولادت..... ۳۷۱ ہجری وفات..... ۴۴۴ ہجری

ناشر..... دار العاصمہ ریاض

محقق..... د. ضياء الله بن محمد ادریس المبارکفوری



17 نام کتاب..... المستدرک علی الصحیحین مع تعلیقات الذهبی فی التلخیص

مؤلف..... محمد بن عبد الله ابو عبد الله حاکم النیسابوری رحمه الله عليه

ولادت..... ۳۲۱ ہجری وفات..... ۴۰۵ ہجری

تحقیق..... مصطفیٰ عبدالقادر عطا ناشر..... دارالکتب العلمیہ بیروت



18 نام کتاب..... المعجم الاوسط

مؤلف..... ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمه الله عليه

ولادت..... ۲۶۰ ہجری وفات..... ۳۶۰ ہجری ناشر..... دارالحرین قاہرہ



- 19 نام کتاب..... المعجم الکبیر  
مؤلف..... ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۲۶۰ ہجری وفات..... ۳۶۰ ہجری ناشر..... مکتبۃ العلوم والحکم موصل
- 20 نام کتاب..... سنن البیہقی الکبری  
مؤلف..... احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ ابوبکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۳۸۴ ہجری وفات..... ۴۵۸ ہجری ناشر..... مکتبۃ دارالباز مکہ مکرمہ
- 21 نام کتاب..... الفتن لتعمیر ابن حماد  
مؤلف..... تعیم ابن حماد المرزوی ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ  
وفات..... ۲۲۸ ہجری ناشر..... مکتبۃ التوحید قاہرہ محقق..... سمیر امین الزہیری
- 22 نام کتاب..... شعب الایمان  
مؤلف..... ابوبکر احمد بن الحسین البیہقی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۳۸۴ ہجری وفات..... ۴۵۸ ہجری ناشر..... دارالکتب العلمیہ بیروت
- 23 نام کتاب..... صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان  
مؤلف..... محمد ابن حبان ابن احمد ابو حاتم اسمعیل البستی رحمۃ اللہ علیہ  
وفات..... ۳۵۴ ہجری ناشر..... مؤسسۃ الرسالہ بیروت
- 24 نام کتاب..... صحیح ابن خزیمہ  
مؤلف..... محمد ابن اسحاق بن خزیمہ ابوبکر السلمی النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۲۲۳ ہجری وفات..... ۳۱۱ ہجری ناشر..... المکتب الاسلامی بیروت  
اسم المحقق..... د. محمد مصطفیٰ اعظمی
- 25 نام کتاب..... فتح الباری شرح صحیح البخاری  
مؤلف..... احمد ابن علی ابن حجر ابوالفضل عسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۷۷۳ ہجری مطابق ۱۳۷۲ء وفات..... ۸۵۲ ہجری مطابق ۱۴۴۸ء ناشر..... دارالمعرفہ بیروت  
محقق..... محمد فواد عبدالباقی محبت الدین الخطیب

26 نام کتاب..... فتح الباری علی شرح البخاری لابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ

مؤلف..... ابن رجب حنبلی

ولادت..... ۷۳۶ ہجری وفات..... ۷۹۵ ہجری

ناشر..... دار ابن جوزی السعودیہ



27 نام کتاب..... الحکم الجدیۃ بالاذاعة

مؤلف..... ابن رجب حنبلی



26 نام کتاب..... جامع العلوم والحکم

مؤلف..... ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ



27 نام کتاب..... ذم الدنیا

مؤلف..... ابن ابی الدنیا ولادت..... ۲۰۸ ہجری وفات..... ۲۸۱ ہجری



28 نام کتاب..... کتاب الزہد الکبیر

مؤلف..... ابو بکر احمد ابن الحسین ابن علی بن عبداللہ ابن موسیٰ البیہقی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۳۸۴ ہجری وفات..... ۴۵۸ ہجری

ناشر..... مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ بیروت محقق..... الشیخ عامر احمد حیدر



29 نام کتاب..... کتاب السنن

مؤلف..... ابو عثمان سعید ابن منصور الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ

وفات..... ۲۲۷ ناشر..... دار السلفیہ ہندوستان

محقق..... حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی



30 نام کتاب..... مجمع الزوائد منبع الفوائد

مؤلف..... علی بن ابی بکر اثیمی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۷۳۵ ہجری وفات..... ۸۰۷ ہجری ناشر..... دار الکتب العربی قاہرہ



31 نام کتاب..... مسند ابی یعلیٰ

مؤلف..... احمد بن علی المہشی ابو یعلیٰ الموصلی التمیمی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۲۱۰ ہجری وفات..... ۳۰۷ ہجری ناشر..... دار المامون للتراث دمشق

32 نام کتاب..... مسند الامام احمد ابن حنبل

مؤلف..... احمد ابن حنبل ابو عبد اللہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۱۶۴ ہجری وفات..... ۲۴۱ ہجری ناشر..... مؤسسة قرطبہ مصر

33 نام کتاب..... مسند اسحاق بن راہویہ

مؤلف..... اسحاق ابن ابراہیم ابن مخلد ابن راہویہ الحظلی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۱۶۱ ہجری وفات..... ۲۳۸ ہجری ناشر..... مکتبہ الایمان مدینہ منورہ

34 نام کتاب..... البحر الزخار

مؤلف..... ابو بکر احمد ابن عمر وابن عبد الخالق البز ار رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۲۱۵ وفات..... ۲۹۲ ہجری  
ناشر..... مؤسسة علوم القرآن بیروت، مکتبہ العلوم والحکم مدینہ منورہ  
محقق..... و محفوظ الرحمن زین اللہ

35 نام کتاب..... مسند الشامیین

مؤلف..... سلیمان ابن احمد ابن ایوب ابو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۲۶۰ ہجری وفات..... ۳۶۰ ہجری  
ناشر..... مؤسسة الرسالہ  
محقق..... حمزہ بن عبد الجبار السلفی

36 نام کتاب..... الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار

مؤلف..... ابو بکر عبد اللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ الکوئی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۱۵۹ ہجری وفات..... ۲۳۵ ہجری  
ناشر..... مکتبہ الرشدریاض  
محقق..... حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی

37 نام کتاب..... موارد الظمان الی زوائد ابن حبان

مؤلف..... علی بن ابی بکر التمیمی ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۳۵ ھ ہجری  
 وفات..... ۸۰ ھ ہجری  
 ناشر..... دارالکتب العلمیہ بیروت  
 محقق..... محمد عبدالرزاق حمزہ

♦♦

38 نام کتاب..... عون المعبود شرح ابوداؤد  
 مؤلف..... محمد شمس الحق عظیم آبادی ابوالطیب  
 ولادت..... ۱۲۷۳ ہجری مطابق ۱۸۵۷ء  
 وفات..... ۱۳۲۹ ہجری مطابق ۱۹۱۱ء  
 ناشر..... دارالکتب العلمیہ

♦♦

39 نام کتاب..... شرح النوووی علی صحیح مسلم  
 مؤلف..... ابوزکریا یحییٰ بن شرف بن مری النووی رحمۃ اللہ علیہ  
 ولادت..... ۶۳۱ ہجری  
 وفات..... ۶۷۶ ہجری  
 ناشر..... داراحیاء التراث العربی بیروت

♦♦

40 نام کتاب..... شرح السیوطی علی مسلم  
 مؤلف..... عبدالرحمن السیوطی رحمۃ اللہ علیہ  
 41 نام کتاب..... حاشیۃ السندی علی صحیح البخاری  
 مؤلف..... محمد بن عبدالہادی، ابوالحسن نورالدین ٹھٹوی سندھی  
 ولادت..... ٹھٹہ سندھ  
 وفات..... ۱۱۳۸ ھ مطابق 1726ء  
 مدینہ منورہ مدفون جنت البقیع

♦♦

42 نام کتاب..... حاشیۃ السندی علی نسائی  
 مؤلف..... محمد بن عبدالہادی ٹھٹوی، ابوالحسن نورالدین سندھی  
 ناشر..... مکتبہ المطبوعات الاسلامیہ حلب

♦♦

43 نام کتاب..... شرح صحیح البخاری لابن بطلال  
 مؤلف..... ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطلال البکری القرطبی  
 وفات..... ۴۴۹ ہجری

♦♦

44 نام کتاب..... مرقات المفاتیح  
 مؤلف..... ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ  
 وفات..... ۱۰۱۴ ہجری مطابق ۱۶۰۶ء

♦♦

45 نام کتاب.....المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع

مؤلف.....ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ

محقق.....عبدالفتاح ابو غندہ ناشر.....مکتب المطبوعات الاسلامیہ



46 نام کتاب.....موضوعات الصغانی

مؤلف.....الرضی الصغانی

ولادت.....۵۷۷ ہجری لاہور پاکستان وفات.....بغداد ۶۵۰ مدفون مکہ مکرمہ



47 نام کتاب.....معجم البلدان

مؤلف.....یا قوت ابن عبداللہ الحموی ابو عبداللہ

ولادت.....۵۷۴ ہجری مطابق ۱۱۷۸ء وفات.....۶۲۶ ہجری مطابق ۱۲۲۹ء

ناشر.....دار الفکر بیروت محقق.....مصطفی السقا



48 نام کتاب.....تاریخ بغداد

مؤلف.....احمد بن علی ابوبکر الخطیب بغدادی

ولادت.....۳۹۳ ہجری وفات.....۴۶۳ ہجری ناشر.....دار الکتب العلمیہ بیروت



49 نام کتاب.....تاریخ الطبری

مؤلف.....محمد بن جریر الطبری ابو جعفر

ولادت.....۲۲۲ ہجری وفات.....۳۱۰ ہجری ناشر.....دار الکتب العلمیہ بیروت



49 نام کتاب.....المنتظم فی تاریخ المملوک

مؤلف.....عبدالرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی ابوالفرج

ولادت.....۵۰۸ ہجری وفات.....۵۹۷ ہجری ناشر.....دارصادر بیروت



50 نام کتاب.....اکامل فی التاریخ

مؤلف.....عزالدین علی بن اثیر رحمۃ اللہ علیہ

ولادت.....۵۵۵ ہجری مطابق ۱۱۶۰ء وفات.....۶۳۰ ہجری مطابق ۱۲۳۲ء



51 نام کتاب..... کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال

مؤلف..... علی بن حسام الدین المتقی الہندی

ولادت..... ۸۸۸ ہجری دکن وفات..... ۹۷۵ ہجری

ناشر..... مؤسسہ الرسالہ بیروت ۱۹۸۹ء



52 نام کتاب..... الجہاد والتجدید

مؤلف..... محمد حامد الناصر

53 نام کتاب..... مجموع الفتاوی

مؤلف..... شیخ الاسلام امام تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۶۶۱ ہجری وفات..... ۷۲۸ ہجری



54 نام کتاب..... اللؤلؤ والمرجان فیما تنفق علیہ الشیخان

مؤلف..... محمد فواد بن عبد الباقی بن صالح بن محمد

وفات..... ۱۳۸۸ ہجری



55 نام کتاب..... علماء ہند کا شاندار ماضی

مؤلف..... مولانا محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ



56 نام کتاب..... تاریخ دعوت و عزیمت

مؤلف..... مولانا ابوالحسن علی ندوی

ولادت..... ۱۳۳۳ ہجری مطابق ۱۹۱۴ء رائے بریلی اتر پردیش ہند

وفات..... ۱۴۲۰ ہجری مطابق ۱۹۹۹ء



57 نام کتاب..... البدایہ والنہایہ

مؤلف..... حافظ ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

ولادت..... ۷۰۰ ہجری وفات..... ۷۷۴ ہجری ناشر دار احیاء التراث العربی



58 نام کتاب..... النہایہ فی الفتن و المماتم

مؤلف..... ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ



59 نام کتاب..... المفصل فی احادیث الفتن  
مؤلف..... علی بن نائف الشوری

60 نام کتاب..... اتحاف الجماعة بما جاء فی الفتن والملامح و اشراط الساعة  
مؤلف..... حمود بن عبداللہ التویجری وفات..... ۱۴۱۳ ہجری

61 نام کتاب..... احادیث فی الفتن والحوادث  
مؤلف..... محمد بن عبدالوہاب  
ولادت..... ۱۱۱۵ ہجری وفات..... ۱۲۰۶ ہجری  
ناشر..... مطابع الرياض

62 نام کتاب..... الفتن لحسنیل بن اسحاق  
مؤلف..... حسنیل بن اسحاق بن حسنیل الشیبانی  
وفات..... ۲۷۳ ہجری

63 نام کتاب..... موسوعة اليهود واليهودية  
مؤلف..... عبدالوہاب المسیری

64 نام کتاب..... يهود الدونمة  
مؤلف..... محمد علی قطب ناشر..... دارانصار

65 نام کتاب..... سیر اعلام النبلاء  
مؤلف..... شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ  
ولادت..... ۶۷۳ ہجری وفات..... ۷۴۸ ہجری ناشر..... مؤسسة الرسالة

66 نام کتاب..... احکام القرآن للجصاص  
مؤلف..... ابوبکر جصاص ولادت..... ۳۰۵ ہجری وفات..... ۳۷۰ ہجری

67 نام کتاب..... صفة النفاق و ذم المنافقین  
مؤلف..... ابوبکر الفریابی ولادت..... ۲۰۷ ہجری وفات..... ۳۰۱ ہجری

68 نام کتاب..... ذم الدنیا

مؤلف..... ابن ابی الدنیا

ولادت..... ۲۰۸ ہجری

وفات..... ۲۸۱



69 انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا



70 انسائیکلو پیڈیا آف انکارٹا



71 مجلۃ الراصد العدد التاسع



72 The History of the House of Rothschild By Andy and Daryl.

73 The Rockefeller Syndrome by Ferdinand Lundberg.

74 Secret societies and their power in the 20th century By Jan Van Helsing.



## حضرت مہدی پر لکھی گئی کتابیں

1) (الأحاديث الواردة في المهدي للحافظ (أبي بكر بن أبي خيثمة النسائي)، المتوفى سنة 279هـ، قال السهيلي في (الروض الأنف) (280/1): الأحدث الواردة في أمر المهدي، وقد جمعها أبو بكر بن أبي خيثمة فأكثر. 1هـ

2) كتاب (ذكر المهدي و نعوته و حقيقة مخرجه و ثبوته)، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430هـ، و ذكر (ابن طاووس) الشيعي الرافضي المتوفى سنة 664هـ في كتابه (الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف) (ص: 179) أنه في نحوست وعشرين ورقة، ثم سرد في (ص: 183) أبوابه وعناوينه وهي كالتالي: روى في أوله (49) حديثاً تتضمن الإشارة بالمهدي وانه من ولد طافمة وانه يملك الأرض عدلاً، وأنه لا بد من ظهوره، ثم ذكر المهدي و نعوته و خروجه و ثبوته، و روى فيه (42) حديثاً، ثم إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المهدي سيد من سادات الجنة، و روى في (3) أحاديث، ثم ذكر جيشه و صورته، و طول مدته و أيامه، و روى في (11) حديثاً، ثم ..... بالعدل و في و بالمال سخي يحثوه حثوا ولا يعده عدا و روى في (9) أحاديث، ثم البيان عن الروايات الدالة على خروج المهدي و ظهوره و روى فيه (4) أحاديث، ثم البيان في أن توطئة أمر المهدي و خلافته و جيشه من قبل المشرق و روى في حديثين.

ثم ذكر القرية التي يكون منها خروج المهدي و روى في حديثين، ثم ذكر بيان أن من تكلمة الله هذه الأمة أن عيسى بن مريم - صلى الله عليه وسلم - يصلي خلف المهدي و روى فيه (8) أحاديث، ذكر ما يتزل الله عز وجل من الخسف و النكال على الجيش الذين يرمون الحرم تكلمة للمهدي و روى فيه (5) أحاديث، ثم ذكر المهدي و انه من ولد الحسين و ذكر كنيته و موته حين يبعث و ذكر فيه (9) أحاديث، ثم ذكر فتح المهدي المدينة الرومية و رد ما سبي من بني إسرائيل

إلى بيت المقدس وروى فى (5) أحاديث، ثم ما يكون فى زمان المهدى من الخصب والأمن والعدل وروى فيه (7) أحاديث، فجملة الأحاديث المذكورة فى كتاب ذكر المهدى ونعوته وحقيقة مخرجه وثبوته المختصة هذا المعنى المقدم ذكرها (156) حديثا. 51

وقد أكثر من النقل عنه مع إيراد أيراد أسانيدہ الشيخ المحدث الكنجى فى كتابه (البيان فى أخبار صاحب الزمان)، وسماه: (مناقب المهدى)

**3** (الأربون حديثا فى المهدى) للحافظ أبى نعيم الاصبهاني، وهو الذى لخصه الحافظ السيوطى فى كتابه (العرف الوردى فى أخبار المهدى)، وذكر الشيخ أبو الحسن على بن الحسن الإربلى الشيعى فى كتابه (كشف الغمة فى معرفة الأئمة) (267/3): أنه وقع له أربعون حديثا جمعها الحافظ أحمد بن عبد الله رحمہ اللہ فى أمر المهدى، ثم أوردہا محذوفة الأسانيد

**4** (جزء فى المهدى) للحافظ أبى الحسين ابن المنادى الحنبلى المتوفى سنة 336هـ، ذكره الحافظ (ابن حجر) فى (فتح البارى) (عند شرح الحديث رقم: 5944)

**5** (قصيدة فى المهدى) ويليهما فصل فى مولده، ونسبه ومسكنه، وما يكون من أمره، للشيخ محمد بن على بن العربى الطائى، شيخ أهل الوحده المطلقة، وهى مطبوعة فى أول (ديوانه)

**6** (البيان فى أخبار صاحب الزمان) للشيخ أبى عبد الله محمدم بن يوسف الكنجى الشافعى المتوفى مقتولا على الرفض سنة 658هـ، وهو ذو نزعة شيعية، وذلك يظهر من تسمية كتابه، (فصاحب الزمان) مما تسمى به الشيعة الرافضة مهديهم المنتظر، وقد صنفه للصاحب تاج الدين محمد بن نصر بن الصلايا العلوى الحسينى، وهو كتاب يروى فيه الأحاديث بأسانيدہ، طبع فى مطبعة النعمان بالنجف 1960 بتحقيق محمد مهدى الخرسان، ثم فى شركة الكتبي بيروت 1993 بتحقيق الشيخ محمد هادى الأمينى .

**7** (عقد الدرر فى أخبار المهدى المنتظر) لبدر الدين يوسف بن يحيى الشافعى المشهور بالزكى أو ابن الزكى المتوفى سنة 685هـ، وهو مطبوع فى مكتبة الخانجى بتحقيق عبدالفتاح الحلوثم مصورا بدار الكتب العلمية .

- 8** (کتاب فی أخبار المہدی) للشیخ بدر الدین الحسن بن محمد القرشی المطلبی النابلسی الحنبلی المتوفی سنة 772ھ ، قال الحافظ ابن حجر فی الدرر الكامنة (2/143/1556): رأیت بخطه کتابا جمعه فی أخبار المہدی الذی ینخرج فی آخر الزمان تعب فیہ 1ھ
- 9** (جزء فی ذکر المہدی) للحافظ عماد الدین ابن کثیر الدمشقی المتوفی سنة 774ھ ، ذکره فی کتابه (النهاية فی الفتن والملاحم) (ص: 26) فقال : أفردت فی ذکر (المہدی) جزأ علی حدة 1ھ
- 10** (فصل فی أمر الفاطمی وما ینذهب الناس إلیه فی شأنه) للمؤرخ عبدالرحمن بن خلدون المتوفی سنة 808ھ ، وهو فصل کبیر فی الکلام علی أ حادیت (المہدی) وهو من فصول مقدمة تاریخه (العبر و دیوان المبتداء والخیر) ، وذهب فیہ إلی إنکار خروجه ، قال صاحب (عون المعبود) (6/243) قد بالغ الإمام المؤرخ عبدالرحمن بن خلدون المغربی فی تاریخه فی تضعیف أحادیت (المہدی) کلها فلم یصب بل أخطأ . اهـ وقدر د علیه ردابلیغا الشیخ أحمد بن الصدیق الغماری فی کتاب سماه : (إبراز الوهم المکنون) یأتی ذکره .
- 11** (تألیف یتعلق بالمہدی) للحافظ أبی زرعة العراقی المتوفی سنة 826ھ ، ذکره ابن فهد الفاسی فی کتابه (ذیل التقیید) (1/335)
- 12** (العرف الوردی فی أخبار المہدی) للحافظ جلال الدین السیوطی ، وقد طبع ضمن (الحاوی للفتاوی) ، وهو کتابنا المحقق هذا .
- 13** (تلخیص البیان فی علامات مہدی آخر الزمان) للشیخ أحمد بن سلیمان الرومی الحنفی المشهور بابن کمال باشا المتوفی سنة 940ھ .
- 14** (القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر) للفقیه ابن حجر الہیثمی الشافعی المکی المتوفی سنة 973ھ واختصره حفیده رضی الدین بن عبدالرحمن بن أحمد الہیثمی المتوفی سنة 1014ھ
- وله أيضا فتوی طویلة فی نحو (6) صفحات من القطع الکبیر ، وهی ضمن کتابه (الفتاوی الحدیثیة) (ص: 37) ، رد فیها علی طائفة المتمهدی الجو نفوری ، الذی ظهر بالهند سنة 905ھ

15) تلخیص البیان فی أخبار مہدی الزمان) للشیخ العلامة علی بن حسام المتقی الہندی صاحب کتاب (کنز العمال) المتوفی سنة 975ھ، طبع بدار التبلیغ الإ سلامی بقم بایران 1981.

16) (البرهان فی علامات مہدی آخر الزمان) له أيضا ، طبع فی دار الصحابة و بمنشورات شركة الرضوان بطهران 1979 بتحقیق : علی اکبر الغفاری ، و فی دار الغد الجدید المنصورة 1424ھ بتحقیق أحمد علی سلیمان

17) وله (رسالة) فارسية فی المہدی مرتبة علی أربعة أبواب ذكره صاحب كشف الظنون (894/1)

18) (الرد علی من حکم و قضی بأن المہدی الموعود جاء و مضی) للشیخ العلامة علی بن سلطان القاری الحنفی المتوفی 1014ھ

19) و(المشرب الوردی فی مذهب المہدی) للقاری أيضا ، طبع فی مطبعة محمد شاهین سنة 1278ھ و قد نقل منها الشیخ محمد بن عبدالرسول البرزنجی فی کتابه (الإشاعة لأشراط الساعة) فصلا طویلا، و قد ألقها القاری ردا علی بعض الحنفیة الذین زعموا أن (المہدی) سيقلد مذهب أبی حنیفة

20) (مرآة الفکر فی المہدی المنتظر)

21) و(فرائد الفکر فی المہدی المنتظر) کلاهما للشیخ العلامة مرعی بن یوسف الکرمی الحنبلی المتوفی سنة 1033ھ

22) (تنبیه الوسنان إلی آخر الزمان) لأحمد النوبی المتوفی سنة 1037ھ

23) (جواب عن سؤال فی المہدی) للعلامة محمد بن إسماعیل الأ میر الصنعانی الیمانی المتوفی سنة 1182ھ ، طبع فی مكتبة دار القدس باليمن 1993 بتحقیق مجاهد بن حسن المطحنی، قال الأ میر فی آخره، 'انتهی ما أردنا من جمع الأحادیث القاضیة بخروج المہدی ، و أنه من آل محمد - صلی اللہ علیہ وسلم - ، و أنه لم یأت تعیین زمنه إلا أنه تقدم أنه قبل خروج الدجال . 1ھ

24) (العرف الوردی فی دلایل المہدی) للشیخ وجیه الدین أبی الفضل عبدالرحمن بن مصطفی العیدروس الحضرمی الیمنی نزیل مصر 1192ھ

25) (التوصیح فی توأتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المسيح) للعلامة محمد بن

علی الشوکانی الیمانی المتوفی سنة 1250ھ.

26 (الدر المنضود فی ذکر المہدی الموعود) للعلامة صديق حسن خان

القنوجی الہندی المتوفی سنة 1307ھ، وهو مخطوط.

27 (القطر الشہدی فی أو صاف المہدی) لشہاب الدین احمد بن احمد

الحلوانی المصری المتوفی سنة 1308ھ وهي منظومة (لامية

28 (العطر الوردی) وهو شرح علی المنظومة السابقة طبع فی بولاق سنة 1308ھ

29 (عقد الدرر فی شأن المہدی المنتظر) لبعضہم، مخطوط بمکتبة الحرم

30 (الهدایة الندیة للامة الحمديّة فی فضل الذات المہدیة) للشيخ مصطفى البکری

31 (تألیف فی المدھی) للشيخ أبي العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني

المغربي، ذكره الشيخ الكتاني في (نظم المتناثر) (ص 144)، والشيخ عبد الله

بن الصديق الغماري في مقدمة كتابه (المهدي المنتظر) (ص 7)

32 (إبراز الوهم المکنون من كلام ابن خلدون) أو (المرشد لمبدي لفساد طعن

ابن خلدون في أحاديث المہدی) للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري

المغربي المتوفی سنة 1380ھ، طبع فی مطبعة الترقی بدمشق 1347، وقد تعقب

فيه كلام المؤرخ ابن خلدون الذي ضعف فيه أحاديث (المهدي)

33 (الجواب المقنع الحرد فالرد علی متن طغی و تجر بد عوی أنه عیسی او

المهدي المنتظر) للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي المتوفی سنة 1363ھ،

طبع فی دار الشروق 1981.

34 (تنوير الرجال فی ظهور المہدی والدجال) لرشيد الرشيد، طبع فی مطبعة

البلاغة بجلب 1389ھ.

35 (المهدي المنتظر) للشيخ أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري

المغربي، وقد طبع فی دار الطاعة الحديثة بالمغرب.

36 (تحديق النظر فی أخبار المہدی المنتظر) لحمد بن عبدالعزيز بن مانع

النجدي ذكره الشيخ العباد في رده.

37 (الرد علی من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المہدی)

38 (وعقيدة أهل السنة والأثر في المہدی المنتظر) كلاهما للشيخ عبدالحسن

بن حمد العباد ، طبعاً بمطابع الرشید بالمدينة المنورة 1402ھ ، و طبع الاول ما  
یضا فی مکتبة السنة مصر 1416ھ

39) (الاحتجاج بالاثار علی من أنکر المهدي المنتظر)

40) و (إقامة البرهان فی الرد علی من أنکر خروج المهدي والدجال و نزول  
المسيح آخر الزمان) طبع فی مکتبة المعارف بالرياض 1985 و هو رد علی مقال  
لعبد الکريم الخطيب ، و کلاهما للشيخ حمود بن عبد الله التويجری المتوفی  
رحمه الله سنة 1413ھ .

41) (مختصر الأخبار المشاعة فی أشرط الساعة و أخبار المهدي) للشيخ  
عبد الله بن سليمان المشعل ، طبع بمطابع الرياض بالسعودية 1985 .

42) (سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر) لحامد محمود محمد ليمود طبع  
بمطبعة المدني بالقاهرة

43) (القول الفصل فی المهدي المنتظر) لعبد الله حجاج ، طبع فی دار العلوم  
للطباعة والنشر بالقاهرة

44) (المهدي المنتظر) لإبراهيم مشوخی طبع بمکتبة المنار بالأردن 1983 .

45) (المهدي حقيقة لا خرافة) لحمد بن احمد بن إسماعيل المقدم ، طبع بدار  
الإيمان 1400ء ثم هذب به وزاد فيه و سماء : (المهدي وفقه أشرط الساعة) ،  
طبع فیالدار العالمية الإسكندرية 1424ھ و هو كتاب قيم نفيس

46) (المهدي المنتظر بين الحقيقة الخرافة) لعبد القادر أحمد عطا ، طبع فی  
دارالعلوم للطباعة بالقاهرة 1400 .

47) (المهدي المنتظر فی الميزان) لعبد المعطى عبد المقصود ، طبع فی دار نشر  
الثقافة بالإسكندرية .

48) (حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر) لصلاح الدين عبد الحمدي الهادي ، طبع  
فی مکتبه تاج بدایر طنطا .

49) (المهدي و أشرط الساعة) للشيخ محمد علی الصابوني ، طبع فی السعودية ،  
بشركة الشهاب بالجزائر 1990 .

50) (من هو المهدي المنتظر؟) بحمد نور مربو بنجر المکی ، طبع فی مجلس



إحياء كتب التراث الإسلامي بالقاهرة 1993.

51 (الأحاديث الواردة في شأن المهدي في ميزان الجرح والتعديل) للشيخ عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، وهي رسالة ماجستير، طبعت في دار ابن حزم 1999 في جزئين، الأول: سماه: (المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة و أقوال العلماء و آراء الفرق المختلفة، والثاني: سماه: (الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة)، وهو أجمع وأشمل ما صنف في موضوع (المهدي) إلى الآن.

52 (ثلاثة ينتظرهم العالم: الدجال والمسيح والمهدي) لعبد اللطيف عاشور، طبع بدار القرآن بالقاهرة والساعي بالرياض 1986.

53 (حقيقة الخبر عنا المهدي المنتظر من الكتاب والسنة) لصالح الدين عبدالحميد هادي، طبع بمطبعة تاج طنطا بمصر 1980.

54 (المهدي المنتظر ومن ينتظرونه) لعبد الكريم الخطيب، طبع في دار افكر العربي 1980 وهو ممن ينكر خروجه وقدر د عليه الشيخ التويجري.

55 (المهدي المنتظر بين العقيدة الدينية والمضمون السياسي) لحمد فريد حجاب، طبع بالمؤسسة الوطنية بالجزائر 1984.

56 (المهدي في الإسلام منذ أقدم العصور إلى اليوم) لسعد محمد حسن طبع بالقاهرة 1953.

57 (المهدي والمهدوية) طبع بدار المعارف بالقاهرة 1951.

58 (المهدي والمهدوية نظرة في تاريخ العرب السياسي) طبع بمطبعة العاني ببغداد 1957.

59 (عمر أمة الإسلام، وقرب ظهور المهدي عليه السلام)، تأليف أمين محمد جمال الدين، طبع سنة 1996، طبع في المكتبة التوفيقية مصر 1417هـ، وفيه تكهنات وتخربات بغير علم، وقدر د عليه الدكتور عبدالحميد هندأوى في كتاب (الإفحام لمن زعم انقضاء عمر أمة الإسلام)

60 (عقيدته ظهور مهدي) از: مفتي نظام الدين شامزئي شهيد  
61 (علامات قيامت اور نزول مسيح) از: مفتي محمد شفيع  
62 (امام مهدي، شخصيات و كردار) از: مفتي اسد قاسمي سنهلي



## کیا آپ جاننا چاہیں گے؟

- \* ہم فتنوں سے غافل کیوں ہیں؟
- \* تمام فتنوں کا بہترین حل کیا ہے؟
- \* ایمان اور نفاق کی نشانیاں کیا ہیں؟
- \* جادو اور شیطانی اثرات کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟
- \* بڑے یہودی جادوگر کون کون ہیں؟
- \* مشہور یہودی شخصیات کی کامیابی کا راز کیا ہے؟
- \* راہ حق کے مسافروں کیلئے اکابرین نے کیا کردار ادا کیا؟
- \* بلیک واٹر کا طریقہ کار کیا ہے؟
- \* امام مہدی کے خروج کی نشانیاں کیا ہیں؟
- \* جہاد کا وقت کب آئے گا؟
- \* امام مہدی کے ساتھ مل کر کون لوگ جہاد کریں گے؟

ناشر

## الہجرہ پبلیکیشن

آپ کی رائے اور مفید مشورے کیلئے: [alhijrahpublication@yahoo.com](mailto:alhijrahpublication@yahoo.com)

خط و کتابت کیلئے: 10875، حیدری جی پی او، کراچی